



عام عربی بول چال - گفتگو اور مکالمات

نیز فارسی وارد و ادب میں استعمال ہونے والے دس ہزار

عربی الفاظ ان کے تین ہزار مادہ و ماخذ کل تیرہ ہزار الفاظ کی

BASIC ARABIC DICTIONARY

عجیب و غریب عربی اردو لغات

تَلْحِيزُ الْعَرَبِيَّةِ

یا

خُلَاصَةُ الْمُنْجَدِ اَرْدُو

حسب ہدایت وحید العصر، فرید الدہر عالی جناب پروفیسر ابو الفتح سید عبد القادر

صاحب ایم اے (علیگ) مولوی فاضل پنجاب - فاضل علوم عربی و فارسی

بنگال سابق ممبر سینٹ و سنڈیکٹ و لیکچرار تاریخ اسلام کلکتہ یونیورسٹی و ممتحن

ایم۔ اے کلاس کلکتہ و پٹنہ یونیورسٹی

طابع و ناشر حکیم عبداللطیف شاہد ذوالفقار علیہ الرحمہ و آلہ العزیز بن بازار گولمندی لاہور

قیمت مع محصول ڈاک بین روپے

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

کرے گا۔ کہ یہ اور اسی قسم کے ہزاروں الفاظ اپنے معنی پر بذات خود بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کے معنی میں گزشتہ موجودہ۔ آئندہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پلایا جاتا ہے جیسے ضَرَبَ و قَتَلَ کے معنی کا تعلق گزشتہ سے ہے اور یَضْرِبُ و يَقْتُلُ کے معنی کا تعلق زمانہ موجودہ یا آئندہ سے ہے۔ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ کسی دوسرے لفظ کی مدد کا محتاج ہو۔ یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے (صن) سے الیٰ تک فنی میں کہ ان الفاظ کے پورے معنی جب تک کوئی دوسرا لفظ ان کے ساتھ نہ ملے سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ تھے۔ تک۔ اور میں سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب ان کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو ملا یا جائے۔ مثلاً یوں کہا جائے۔ صَنِ السَّمَاءِ آسمان سے الیٰ الِآرْضِ۔ زمین تک۔ فِی الدَّارِ۔ گھر میں۔ تو اس وقت ان الفاظ کے معنی بخوبی سمجھ میں آجاتے ہیں۔

شش قسمی اقسام

اہل تصریف نے حروف الفاظ کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ اصل و زائد۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو صرف حروف اصلی سے ہی مرکب ہیں۔ اور ان میں زائد حرف کوئی نہیں۔ جیسے نَصَرَ کہ یہ لفظ صرف حروف اصلی سے ہی مرکب ہے اور زائد حرف اس میں کوئی نہیں۔ آس کے مقابل میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں۔ جو حروف اصلی و زائد دونوں سے مرکب ہیں۔ اِنْتَصَارًا۔ اِسْتِنصَادًا۔

تَنَاصُرًا وغیرہ۔ کہ ان میں تین حرف تَن۔ ص۔ دَا اصلی ہیں۔ اور باقی زائد حروف۔ اصلی کو اہل تصریف ف۔ ع۔ ل سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً نَصَرَ کے نون کو وہ ف اور ص کو ع اور ت کو ل کہیں گے۔ اس اصول سے ناظرین یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے الفاظ خاص ف۔ ع۔ ل اور دوسرے الفاظ سے مل کر بنے ہیں۔ ان میں سوائے تین حرف کے اور کل حرف زائد ہیں۔ مثلاً اَفْعَالٌ اِسْتَفْعَالٌ۔ اِنْفَعَالٌ۔ اِفْتِعَالٌ۔ تَفْعِيلٌ مَفَاعَلَتْ تَفَاعَلٌ۔ تَفَعَّلٌ۔ فَاعِلٌ مَفْعُولٌ میں ف۔ ع۔ ل اصلی ہیں۔ اور باقی سب زائد۔ حروف اصلی ہی کو لفظ کا مادہ اور مأخذ بھی کہتے ہیں۔ اور لفظ مفرد بھی کہتے ہیں۔ حروف اصلی کی تعداد فعل میں تین سے چار تک اور اسم میں پانچ تک ہے۔ اس چوتھے اور پانچویں حرف کا نام بھی تیسرے حرف کی طرح لام ہی ہے۔ حروف اصلی و زائدہ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ ثلاثی ذُبَاعِيٌّ و خُمَاسِيٌّ۔ اور فعل کی دو ثلاثی و رباعی۔ پھر ان اقسام میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ مجرد و مزید پس اسماء و افعال کی یہ کل چھ قسمیں ہوئیں۔ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیہ۔ رباعی مجرد۔ رباعی مزید۔ خماسی مجرد۔ خماسی مزید۔ ثلاثی مجرد میں تین۔ رباعی مجرد میں چار۔ اور خماسی مجرد میں پانچ حرف اصلی ہوتے ہیں۔ مزید میں حروف اصلی کے علاوہ حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں۔

اسم ثلاثی مجرد کے دس صیغے ہیں۔ فَلَئْسَ۔ فَلَئْسَ۔ كَتِفٌ۔ عَضُدٌ۔ عَجَبٌ۔ عَجَبٌ۔ اِحْمَلْ۔ قَفْلٌ۔ صَرَدٌ۔ عُنُقٌ۔ مزید فیہ اس کے کثرت سے ہیں۔

اوزان کے خاص اوزان مقرر نہیں ہیں۔

اسم رباعی مجرد کے پانچ صیغے ہیں۔ جَعَزَ، ذَهَمَ، ذَبَدَجَ، بُرْتُجَ، قَطَرًا، مزید فیہ اس کے کم ہیں۔ اور ان کے بھی خاص اوزان مقرر نہیں ہیں۔

اسم خماسی مجرد کے چار صیغے ہیں۔ سَفَرَجَلٌ، قَذَعِمِلٌ، جَحْمَرِشٌ، قِرْطَحِبٌ۔ اس کے مزید فیہ بہت ٹھوڑے ہیں۔ اور ان کے پانچ وزن ہیں غَضْرَفُوطٌ، قَبَعَشْرَى، قِرْطَبُوسٌ، خَزَعِبِيلٌ، خَنَدَرِيسٌ۔

فعل ثلاثی مجرد کے تین صیغے ہیں۔ فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ۔ یہ تینوں فعل ماضی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے لئے ایک مستقبل (مضارع) ہے۔ فَعَلَ کے مستقبل تین ہیں۔ یَفْعَلُ جیسے نَصَرَ۔ یَنْصُرُ۔ یَفْعَلُ جیسے ضَرَبَ یَضْرِبُ۔ یَفْعَلُ فَتَمَّ یَفْتَحُ۔ فَعِلَ کے مستقبل دو ہیں یَفْعَلُ جیسے عَلِمَ یَعْلَمُ۔ یَفْعَلُ جیسے شَرَفَ یَشْرَفُ۔ صرفیوں کی اصطلاح میں ایک قسم کی ماضی اور اس کے ساتھ ایک قسم کے مضارع کا نام باب ہے۔ پس اس حساب سے ثلاثی مجرد کے کل چھ باب ہیں جن میں سے تین اصول ہیں۔ اور تین فروع۔ اصول فَعَلَ یَفْعَلُ (نَصَرَ یَنْصُرُ) فَعِلَ یَفْعَلُ (ضَرَبَ یَضْرِبُ) فَعِلَ یَفْعَلُ (سَمِعَ یَسْمَعُ) ان کو اصول اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ابواب اصل قاعدہ اور قیاس کے مطابق

ہیں۔ کیونکہ ان کے مستقبل کے عین کی حرکت ماضی کے عین کی حرکت کے خلاف ہے۔ اور قیاس اسی کو چاہتا ہے۔ اس لئے کہ جب ماضی اور مستقبل میں معنی اختلاف ہے۔ تو لفظاً بھی ہونا چاہیے۔

فروع کے تین باب ہیں۔ فَعَلَ یَفْعَلُ دَفْتَمَّ یَفْتَمُّ، فَعِلَ یَفْعَلُ دَحَسِبَ یَحْسِبُ نَعَلَ یَفْعَلُ دَكْرَمَ یَكْرَمُ، ان کو فروع اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے عین کی حرکت ماضی کے عین کی حرکت کے موافق ہے۔

ہفت اقسام

ترکیب حروف کے لحاظ سے جملہ اسماء و افعال کی سات قسمیں ہیں صحیح۔ مہموز۔ مثال۔ آہوق۔ ناقص۔ لفیف۔ مضاعف۔ طالب علموں کی سہولت کے لئے ساتوں قسموں کو ایک فارسی شعر میں یوں جمع کیا گیا ہے۔

شعر

صحیح ست و مثال ست و مضاعف۔ لفیف ناقص و مہموز و آہوق صحیح وہ ہے جس کے ف۔ ع۔ لام۔ تینوں حرف صحیح ہوں۔ یعنی نہ انکی جگہ ہمزہ ہو نہ حرف علت نہ دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جیسے ضَرَبَ وَضْرَبَ و قَتَلَ و قَتْلٌ وغیرہ۔

حرف علت تین ہیں۔ واو۔ الف۔ یا جن کا مجموعہ

یہ باب قرآن مجید میں نہیں آیا۔ بلکہ قرآن مجید میں یَحْسِبُ سین کی زبردستی ہے اور فصاحت کے کلام میں بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے مگر صرفیوں میں یہ باب مشہور ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الف حرف علت نہیں ہے بلکہ فقط وہ الف حرف علت شمار کیا جاتا ہے جو او یا یا سے بدلنا ہو۔ پس قَالَ و بَاعَ کا الف حرف علت ہے اور ناولا کا نہیں۔ کیونکہ قَالَ کا الف

واو اور بَاعَ کا یا بدلنا ہے۔ اور ناولا کا الف اس لئے ہے۔ واو یا کے الفاظ سے لے کر ناولا تک ہر حرف صحیح ہے۔

قسم کو لفیف مفروق۔ اور دوسری قسم کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مفروق کو مفروق اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دو حرف ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں کے بیچ میں ایک حرف صحیح ہوتا ہے۔ مقرون کو اس لئے مقرون کہا جاتا ہے کہ اس میں دونوں حرف علت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔

مضاعف وہ ہے جس میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جیسے مَدَّ و مَدَّ اور ذَبَّ و ذَبَّ وغیرہ۔ کہ ان میں نہ حرف علت ہے نہ ہمزہ لیکن ان کے عین و لام ایک ہی جنس کے ہیں کہ پہلی مثال میں عین و لام دونوں کی جگہ حرف دال ہے اور دوسری میں دونوں کی جگہ حرف ب۔

ان ساتوں اقسام مذکورہ میں سے صحیح کے ساتھ تو اور کوئی قسم جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن باقی چھٹیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ لفیف مفروق مثال و ناقص۔ اور مقرون اجوف و ناقص کے مجموعہ کا نام فعل کی چار قسمیں ہیں۔ ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی۔ ماضی کے معنی میں زمانہ گذشتہ۔ اور مضارع کے معنی میں زمانہ حال یا استقبال پایا جاتا ہے۔ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم۔ اور نہی میں کسی کام کے کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ معروف و مجہول۔ پھر معروف و مجہول کی بھی دو دو قسمیں ہیں۔ مثبت و منفی۔ پس اس اعتبار سے ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی میں سے ہر ایک کی چار قسمیں ہوئیں۔ مثبت معروف۔ مثبت مجہول۔ منفی معروف۔ منفی مجہول۔ مثبت معروف میں فاعل اور مثبت مجہول میں مفعول یہ کے لئے فعل کا اثبات کیا جاتا ہے

وائی ہے۔ ان کو حرف علت اس لئے کہا جاتا ہے کہ علیل یعنی بیمار کی زبان سے شدت تکلیف کے وقت بیشتر لفظ وائی وائی نکالتا ہے۔ ایک صرفی کہتا ہے لہ

حرف علت نام کر و قد و ا و الف و یائے را

ہر کہ را و زوے رسد ناچار گوید وائے را

ہمزہ وہ ہے جس میں ف یا ع یا لام کی جگہ ہمزہ ہو اس کی تین قسمیں۔ (۱) ہمزہ الفاجس میں فاء کلمہ ہمزہ ہو جیسے اَمَدَ وَاَمَدَ (۲) ہمزہ العین جس میں عین کلمہ ہمزہ ہو جیسے سَأَلَ سَأَلَ (۳) ہمزہ اللام جس میں لام کلمہ ہمزہ ہو جیسے قَرَأَ وَقَرَأَ۔

مثال وہ ہے جس کا فاء کلمہ حرف علت ہو اسکی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مثال واوی یعنی وہ جس کا فاء کلمہ حرف واو ہو۔ جیسے وَعَدَ و وَعَدَ (۲) مثال یائی یعنی وہ کلمہ جس کا فاء کلمہ حرف یا ہو جیسے یَسَّرَ و یَسَّرَ

اجوف وہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اجوف واوی یعنی جس کا عین کلمہ حرف واو ہو۔ جیسے قَالَ و قَوْلٌ و خَافٌ و خَوْفٌ (۲) اجوف یائی یعنی وہ جس کا عین کلمہ حرف یا ہو جیسے بَاعَ و بَيْعٌ ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اس کی بھی حسب تفصیل سابق واوی و یائی دو قسمیں جیسے سَعَوْا و رَضِيَا۔ اجوف الفی و ناقص الفی کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ عین و لام کی جگہ جو الف آتا ہے حقیقت میں وہ واویا یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔

لفیف وہ ہے جس میں فاء و لام یا عین کی جگہ دو حرف علت ہوں جیسے وَلِيٌّ و طَوِيٌّ و رَوِيٌّ وغیرہ پہلی

جیسے فَعَلَ اس نے کیا۔ اور فَعِلَ وہ کیا گیا۔ یَفْعَلُ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یُفْعَلُ وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ منفی معروف میں فاعل اور منفی مجہول میں مفعول بہ سے فعل کی نفی کی جاتی ہے جیسے مَا فَعَلَ اس نے نہیں کیا۔ مَا فَعِلَ وہ نہیں کیا گیا۔ لَا یَفْعَلُ وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لَا یُفْعَلُ وہ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ان چاروں قسموں میں سے ہر ایک کے چودہ چودہ صیغے آتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:-

منکر	مؤنث غائب			مؤنث حاضر			مؤنث غائب			منکر
	واحد	ثنیۃ	جمع	واحد	ثنیۃ	جمع	واحد	ثنیۃ	جمع	
ماضی مجہول	فَعِلَتْ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلَتْ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	ماضی معروف
ماضی مجہول	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	ماضی معروف

مذکورہ بالا صیغے ماضی مثبت کے ہیں۔ یعنی ان میں فاعل یا مفعول بہ کے لئے فعل کا اثبات کیا جاتا ہے جیسے فَعَلَ (اُس نے کیا)، فَعِلَا (ان دونوں نے کیا)، اَلْحُ فَعِلَ (وہ کیا گیا)، فَعِلَا (وہ دونوں کئے گئے)۔ الخ۔ اسی قیاس پر باقی صیغوں کے معنی سمجھنے چاہئیں۔ نفی کے صیغے بعینہ ہی صیغے ہیں۔ لیکن اُس میں ان کے اول میں لفظ مَا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مَا فَعَلَ (اُس نے نہیں کیا)، الخ۔ اور مَا فَعِلَ (وہ نہیں کیا گیا)، الخ۔ ماضی معروف کے عین کلمہ کی کوئی خاص حرکت مقرر نہیں ہے۔ بلکہ اس پر زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ یعنی فَعَلَ۔ فَعِلَ۔ فَعِلَ۔ تینوں ماضی ہی کے صیغے ہیں۔ جیسے فَعِلَ (اُس نے نافرمانی کی)، سَمِعَ (اُس نے سنا۔ بَصَرَ۔ (اُس نے دیکھا)

منکر	مؤنث غائب			مؤنث حاضر			مؤنث غائب			منکر
	واحد	ثنیۃ	جمع	واحد	ثنیۃ	جمع	واحد	ثنیۃ	جمع	
فعل مجہول	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	مضارع معروف
فعل مجہول	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلُونَ	مضارع معروف

کسی قسم کا عمل نہیں کرتا۔ اس کے داخل ہونے کے بعد مضارع کے تمام صیغوں کے حروف اور ان کے حرکات و سکنات بحسبہ اسی طرح قائم رہتے ہیں کہ جس طرح لا کے داخل ہونے سے پستتر تھے۔ البتہ معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ مثبت کو منفی کر دیتا ہے صرفیوں کی اصطلاح میں اس نفی کا کوئی خاص نام نہیں ہے جیسے آنے والی دونفیوں کا خاص نام مقرر ہے لیکن ہم اسی نفی کا نام نفی محض اور نفی سادہ رکھتے ہیں کیونکہ اس نفی کے معنی میں نفی کے سوار اور کسی قسم کی زیادتی نہیں۔ بخلاف آنے والی دونفیوں کے ان کے معنی میں محض نفی ہی نہیں بلکہ اس پر اور بھی زیادتی ہے۔

اگرچہ اکثر اور عموماً لائے نفی مضارع پر اور لائے نفی ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی استعمال ہو جاتا ہے جیسے فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی) میں صَدَقَ وَصَلَّى ماضی کے صیغے ہیں لیکن ان کی نفی لائے کی گئی ہے۔ جو اکثر اور عموماً مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ میں يَخْدَعُونَ اور يَشْعُرُونَ مضارع کے صیغے ہیں لیکن ان کی نفی ماضی سے کی گئی ہے جو اکثر اور عام طور پر ماضی پر داخل ہوتا ہے۔

(۲) لکن کے ساتھ۔ یہ نفی فعل مضارع سے حال کے معنی دور کر کے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتی ہے۔ اور اس نفی کا نام نفی تاکید بکن ہے۔ کیونکہ اس نفی میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لفظوں میں

مضارع کے معنی میں چونکہ حال و استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے حال و استقبال کے لئے علیحدہ علیحدہ صیغے وضع نہیں کئے گئے۔ بلکہ جو صیغہ مضارع کا ہے۔ بعینہ وہی صیغہ حال کا ہے۔ اور وہی استقبال کا۔ لیکن جب مضارع پر حرف س یا سوف داخل ہوگا۔ تو اس کے معنی صرف استقبال کے رہ جائیں گے۔ اور حال کے معنی اس میں سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے سَيَخْلِفُونَ (وہ تمہیں کھائیں گے)۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم جان لو گے۔ اسی طرح جب مضارع پر حرف لام داخل ہوگا۔ تو اس کے معنی صرف حال کے رہ جائیں گے۔ اور استقبال کے معنی اس میں سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے لَيَحْزُنَنَّ۔ وہ غم میں ڈالتا ہے۔

مضارع کی نفی تین طرح پر آتی ہے۔

(۱) لا کے ساتھ جیسے لَا يَفْعَلُ وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ الخ۔ لَا يَفْعَلُ۔ وہ نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا۔ الخ۔ لَا مضارع کے لفظوں میں

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ماضی معروف کے عین کلمہ کا کوئی خاص اعراب مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح مضارع کے عین کلمہ کے لئے بھی کوئی خاص حرکت مقرر نہیں ہے۔ بلکہ ماضی کی طرح اس پر بھی زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آتی ہیں یعنی يَفْعَلُ يَفْعَلُ۔ يَفْعَلُ تینوں مضارع ہی کے صیغے ہیں جیسے يَخْدَعُونَ وہ فریب دیتے ہیں۔ يَكْذِبُونَ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ يَنْصُرُونَ۔ وہ مدد دیتے ہیں۔

لکن کا عمل یہ ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد متکلم۔ جمع متکلم۔ پانچ صیغوں میں لام کا پیش دُور کر کے اس کو زبر دینا ہے۔ اور سات جگہ یعنی چاروں تثنیوں اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں نون کو جو بجائے اسی پیش کے تھا گرا دینا ہے۔ اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اس کے صیغوں کی گردان یہ ہے۔

نفی تاکید بکن و فعل مستقبل معروف

متکلم	مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث غائب			مذکر غائب		
	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع
لَا أَفْعَلُ	لَا تَفْعَلِينَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلُونَ	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ

جہول کے صیغے لَنْ يَفْعَلَ - لَنْ يَفْعَلَا الخ ہیں۔

(۳) لَمْ کے ساتھ۔ یہ نفی بھی فعل مضارع کے الفاظ و معنی دونوں میں عمل کرتی ہے جن پانچ جگہ لَنْ فعل مضارع کے لام کو زبر دینا ہے۔ یہ ان پانچ جگہ لام کو جزم دینا ہے۔ اور سات جگہ لَنْ کی طرح یہ بھی نون کو گرا دیتا ہے اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ معنی میں اس کا عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لَمْ يَفْعَلَ (اُس نے نہیں کیا) پس لَمْ يَفْعَلَ اور مَا فَعَلَ کے ایک معنی ہیں۔ اس نفی کا نام نفی جحد بلم ہے۔ اور اس کے صیغوں کی گردان یہ ہے۔

نفی جحد بلم

متکلم	مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث غائب			مذکر غائب		
	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع	واحد	تثنیہ	جمع
لَمْ أَفْعَلْ	لَمْ تَفْعَلِي	لَمْ تَفْعَلِي	لَمْ تَفْعَلِي	لَمْ تَفْعَلُوا	لَمْ تَفْعَلُوا	لَمْ تَفْعَلُوا	لَمْ تَفْعَلْنَ	لَمْ تَفْعَلْنَ	لَمْ تَفْعَلْنَ	لَمْ تَفْعَلْنَ	لَمْ تَفْعَلْنَ	لَمْ تَفْعَلْنَ

اسی پر جہول کے صیغوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا گردان لَمْ يَفْعَلَ - لَمْ يَفْعَلَا الخ ہے۔

۱۷ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ باقی صیغوں کے معنی اسی پر قیاس کر لو۔ نمہ ۱۷

کبھی مضارع کے اول میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدود یا ساکن بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لام اور نون کو لام تاکید کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ تاکید کے معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ نون مشدود کا نام ثقیلہ اور نون ساکن کا نام خفیفہ ہے۔ یہ لام اور نون بھی فعل مضارع سے حال کے معنی دور کر کے اس کو صرف مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نون ثقیلہ مضارع کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی گردان حسب ذیل ہے:-

لام تاکید یا نون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف

مذکر غائب		مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث حاضر			متکلم	
واحد	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	جمع
لَيَفْعَلَنَّ	لَيَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	أَفْعَلَنَّ	أَفْعَلْنَ

مجهول کے صیغے بھی بعینہ ہی معروف کے صیغے ہیں۔ فقط اتنا فرق ہے کہ معروف میں علامت مضارع ی۔ ت۔ الف۔ ن پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ اور عین پر زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ مجهول میں علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے۔ اور عین پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ جیسے لَيَفْعَلَنَّ۔ لَيَفْعَلْنَ الخ نون خفیفہ صرف آٹھ صیغوں میں آتا ہے۔ چاروں تثنیوں اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں نہیں آتا۔

لام تاکید یا نون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف

مذکر غائب		مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث حاضر			متکلم	
واحد	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	جمع
لَيَفْعَلَنَّ	لَيَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	أَفْعَلَنَّ	أَفْعَلْنَ

مجهول کے صیغوں میں علامت مضارع مضموم اور عین ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے لَيَفْعَلَنَّ۔ الخ امر حاضر معروف

مذکر		مؤنث		
واحد	ثنیہ	واحد	ثنیہ	جمع
أَفْعَلَنَّ	أَفْعَلْنَا	أَفْعَلْنَا	أَفْعَلْنَ	أَفْعَلْنَ

امر حاضر معروف میں ہمزہ کو زیر اور پیش دو حرکتیں آسکتی ہیں۔ اور عین کو زیر۔ زبر۔ پیش تینوں یعنی

لہ البتہ البتہ وہ کریگا۔ اسی طرح باقی صیغوں کے معنی کرو۔ لہ البتہ البتہ وہ کریگا۔ باقی الفاظ کے معنی صیغوں کے لحاظ سے خود کرو۔ لہ کراخ

اَفْعَلٌ - اِفْعَلٌ - اِفْعَلٌ - تینوں امر حاضر معروف ہی کے صیغے ہیں جیسے اَضْرِبْ - مار - اَجْعَلْ - بن - اَقْتُلُوا - قتل کرو۔
امر حاضر مجہول

مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
لِتُفَعِّلَنَّ	لِتُفَعِّلَا	لِتُفَعِّلِي	لِتُفَعِّلُوا	لِتُفَعِّلَا	لِتُفَعِّلْهُ

امر غائب معروف

مؤنث			مذکر		
جمع	واحد مذکر و مؤنث	تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث	جمع	واحد	تثنیہ
لَيُفَعِّلَنَّ	لَيُفَعِّلْهُ	لَيُفَعِّلَا	لَيُفَعِّلُوا	لَيُفَعِّلْهُ	لَيُفَعِّلَا

امر غائب مجہول میں علامت مضارع مضموم اور عین ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے جیسے لَيُفَعِّلْ - لَيُفَعِّلَا الخ

ہی حاضر معروف ہی حاضر مجہول

مؤنث			مذکر			مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلِي	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلِي	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلْهُ

ہی حاضر معروف کا عین کلمہ مفتوح و مضموم و کسور تینوں طرح آتا ہے۔ ہی حاضر مجہول میں علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے جیسے لَا تَفْعَلْ - لَا تَفْعَلُوا نہ بیان کرو۔ لَا تَفْعَلَا - لَا تَفْعَلَا نہ کرو۔

ہی غائب معروف

مؤنث			مذکر		
جمع	واحد مذکر و مؤنث	تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث	جمع	واحد	تثنیہ
لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَا

لے چاہیے کہ کیا جائے تو لے چاہیے کہ وہ کرے لے چاہیے کہ وہ کیا جائے۔ منہ ۱۲

جہوں میں علامت منہار مضموم اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے لَا يُفَعَلُ۔ لَا يُفَعَلَا الخ۔
نون تغیدہ و خفیفہ جس طرح مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امر و نہی پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے
لِيَفْعَلَنَّ۔ لِيَفْعَلَنَّ۔ اور لَا يَفْعَلَنَّ۔ لَا يَفْعَلَنَّ۔ وغیرہ۔

نون خفیفہ مضارع کے جن صیغوں میں داخل نہیں ہوتا۔ امر و نہی کے بھی ان صیغوں میں داخل نہیں ہوتا۔
اسما متفرقہ کی پانچ قسمیں ہیں۔ اسم فاعل۔ اسم مفعول۔ اسم آلہ۔ اسم ظرف۔ اسم تفضیل ان کے صیغے حسب ذیل ہیں

اسم مفعول						اسم فاعل					
مؤنث			مذکر			مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
مَفْعُولَاتٌ	مَفْعُولَاتَانِ	مَفْعُولَةٌ	مَفْعُولُونَ	مَفْعُولَانِ	مَفْعُولٌ	فَاعِلَاتٌ	فَاعِلَاتَانِ	فَاعِلَةٌ	فَاعِلُونَ	فَاعِلَانِ	فَاعِلٌ
	مَفْعُولَاتَيْنِ		مَفْعُولَيْنِ	مَفْعُولَيْنِ		فَاعِلَاتَيْنِ	فَاعِلَاتَيْنِ		فَاعِلَيْنِ	فَاعِلَيْنِ	
کی ہوئیں	دو کی ہوئیں	کی ہوئی	کے ہوئے	دو کے ہوئے	کھا ہوا	کرنے والیاں	دیکھنے والی	کرنے والی	دیکھنے والی	دیکھنے والی	کرنے والا

اسم ظرف				اسم آلہ			
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	بڑا آلہ	اوسط درجے کا آلہ	چھوٹا آلہ
مَفَاعِلُ	مَفَاعِلَانِ	مَفَاعِلٌ	مَفَاعِلُونَ	مَفَاعِلَانِ	مِفْعَالٌ	مِفْعَالَةٌ	مِفْعَالٌ
کرنے کے مقامات	کرنے کی دو جگہ یا دو وقت	کرنے کی جگہ یا وقت	کرنے کے آلے	کرنے کے دو آلے	کرنے کا بڑا آلہ	کرنے کا متوسط آلہ	کرنے کا چھوٹا آلہ

اسم تفضیل					
مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
فَعَلٌ	فَعَلَاتَانِ	فَعَلَةٌ	أَفْعَالٌ	أَفْعَالَانِ	أَفْعَالٌ
زیادہ کرنے والیاں	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والے

صحیح سے فعل ثنائی مجرد کے تمام صیغے نہیں وزنوں پر آتے ہیں۔

فعل رباعی مجرد صرف ایک ہی وزن پر آتا ہے
یعنی اس کی ماضی فَعَلَّ - مضارع يُفَعِّلُ
امر فَعِّلْ اسم فاعل مُفَعِّلٌ - اسم مفعول
مُفَعَّلٌ - آتا ہے۔ رباعی مجرد کی ماضی میں چاروں
حرف اصلی ہوتے ہیں۔

فعل ثلاثی مزید کے یوں تو تیرہ باب ہیں لیکن
بارہ باب کثیر الاستعمال ہیں۔ اِفْعَالٌ - اِفْتَعَالٌ
اِسْتَفْعَالٌ - اِنْفَعَالٌ - تَفْعِيلٌ - مُفَاعَلَةٌ
تَفَاعُلٌ - تَفَعُّلٌ - ان میں سے ہر ایک کی ماضی
مضارع - امر وغیرہ کی گردان یوں ہے۔

ماضی - اَفْعَلٌ - اِفْتَعَلَ - اِسْتَفْعَلَ
اِنْفَعَلَ - فَعَّلَ - فَاعَلَ - تَفَاعَلَ - تَفَعَّلَ -
مضارع - يُفَعِّلُ - يَفْتَعِلُ - يَسْتَفْعِلُ
يَنْفَعِلُ - يُفَعِّلُ - يُفَاعِلُ - يَتَفَاعَلُ - يَتَفَعَّلُ
امر - اِفْعِلْ - اِفْتَعِلْ - اِسْتَفْعِلْ - اِنْفَعِلْ
فَعِّلْ - فَاعِلْ - تَفَاعِلْ - تَفَعَّلْ -

اسم فاعل - مُفَعِّلٌ - مُفَعِّلٌ - مُسْتَفْعِلٌ
مُنْفَعِلٌ - مُفَعَّلٌ - مُفَاعِلٌ مُتَفَاعِلٌ مُتَفَعَّلٌ
اسم مفعول - ان ابواب میں اسم فاعل اور اسم مفعول
کے صیغوں میں فقط اس قدر فرق ہے۔ کہ اسم فاعل میں
عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ اور اسم مفعول میں مفتوح یعنی
اسم مفعول کے صیغے - مُفَعَّلٌ - مُفْتَعَّلٌ وغیرہ
آتے ہیں۔

ان ابواب میں ہم نے ضروری جگہوں کا صرف
ایک ایک صیغہ دیا ہے۔ باقی صیغوں کو فعل ثلاثی مجرد

کے صیغوں پر قیاس کر لو۔

۱- اَفْعَلٌ - یہ حرفی ماضی کے ف کلمہ کو
ساکن کر کے شروع میں ہمزہ مفتوح زیادہ کرنے
سے جیسے خَرَجَ سے اَخْرَجَ - مصدر
اِفْعَالٌ (اجوف سے اِفْعَالٌ) جیسے اَخْرَجَ
اِخْرَاجًا - اَقَامَ - اِقَامَةً - یہ باب ذہن
کے معنوں کے لئے بنایا جاتا ہے۔ (۱) لازم

فعل سے متعدی بنانے کے لئے جیسے قَعَدَ سے
اَقْعَدَ اور متعدی کو ایک اور مفعول کے لئے متعدی
بنانے کے لئے جیسے عَلِمَ سے اَعْلَمَ (۲) جس
لفظ سے فعل بنے۔ وہ دوسری چیز کے لئے بنانا جیسے
شَرَاكَ سے اَشْرَكَ التَّعَلُّ - اس نے چپلی کو
تسمہ والی بنایا۔ (۳) سلب یعنی کسی سے کچھ دور کرنے
کے لئے جیسے - اَشْكَى (شکایت دور کرنا) (۴)
دُخُلَ کے لئے جیسے اَصْبَحَ - صبح کے وقت آنا (۵)
مکان یا جگہ کے ارادہ کے لئے جیسے اَخْرَجَ - عراق کا
قص کرنا۔ (۶) مبالغہ کے لئے جیسے اَسْفَرَ - بہت
روشن ہونا۔ (۷) جس لفظ سے فعل بنے وہ دوسری
چیز میں پائے جانے کے لئے جیسے اَسْفَرَ - روڈ تلاش
ہونا) (۸) مجرد کے معنی کے لئے جیسے اَسْفَرَ - روڈ تلاش

جیسے اَسْفَرَ (بہر بانی کرنا) اَشْفَقَ ذُرْنًا (۹)
عرض یعنی پیش کرنے کے لئے جیسے اَبَاعَ بَيْعًا کے لئے
پیش کرنا (۱۰) چیز کے وقت پر پہنچنے کے لئے جیسے
اَحْصَدَ (کاٹنے کے وقت پر پہنچنا) (۱۱) فَعَّلَ کا
اثر قبول کرنے کے لئے جیسے اَشْرَكَ زَيْدًا

مُقَاتَلَةٌ وَقِتَالًا وَقَيْتَالًا جس کے ف کلمہ میں بی ہو۔ اس کا مصدر صرف مُفَاعَلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے یَاَسَرَ مُبَاَسَرَةً ذیل کے معنوں کے لئے آتا ہے۔ (۱) کام میں دو کی شراکت کے لئے لیکن جو اسم فعل سے متصل ہو اس پر پیش ہوتا ہے اور دوسرے پر زبر جیسے قَاتَلَ زَيْدٌ خَالِدًا۔ زید اور خالد باہم لڑے (۲) بمعنی مجرد جیسے سَافَرُ بِمَعْنَى سَفَرٍ (۳) اَفْعَلَ کے ہم معنی جیسے بَاعَدَ بِمَعْنَى اَبْعَدَ (۴) ہم معنی فَعَّلَ جیسے ضَاعَفَ بِمَعْنَى ضَعَّفَ

(۴) تَفَعَّلَ۔ ف کلمے سے پہلے ت مفتوح

اور ع پر شد وز بر دینے سے مصدر تَفَعَّلَ۔ جیسے قَدِمَ سے تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا۔ ناقص سے تَفَعَّلَ جیسے ذکی سے تَزَكَّى تَزَكِيًّا۔ عموماً ذیل کے معنوں کے لئے بنایا جاتا ہے (۱) تکلف اور تصنع کے لئے جیسے تَشَجَّعَ۔ تکلف اور بناوٹ سے بہادر بننا۔ (۲) پرہیز کے لئے جیسے تَأْتَمَّرَ كَاهٍ سے پرہیز کرنا۔ رَاتَمَّحَ جیسے تَوَسَّعَ الْحَجْرَ۔ پتھر کو تکیہ بنانا۔ کام میں لانے کے لئے تَنَوَّسَ۔ ڈھال کو کام میں لانا۔ آہستہ آہستہ کام کرنے کے لئے جیسے تَحَفَّظَ تَحْفُوظًا تَحْفُوظًا یا دکرنا۔ ایک حالت سے دوسری میں آجانا جیسے مالدار ہونا۔ فَعَّلَ کے اثر کو قبول کرنے کے لئے جیسے عَلَّمَهُ فَتَعَلَّمَ اس نے اس کو سکھلایا۔ اور وہ سیکھ گیا نئے معنی کے لئے جو جَوَّزُوا میں نہ پائے جائیں جیسے كَلَّمَ اس نے زخمی کیا،

فَاَبَشَرَ۔ اس نے زید کو خوشخبری دی۔ اور وہ خوش ہو گیا۔ (۱۲) نسبت کے لئے جیسے اَكْفَرَ كَفْرًا كِي طرف منسوب کرنا، (۱۳) کسی چیز کو کسی صفت پر پانے کے لئے جیسے اَحْمَدًا قَابِلَ تَعْرِيفٍ يَابَا (۱۴) مجرد کے ہم معنی جیسے اَقَالَ بِمَعْنَى قَالَ فَخَرَ كَرْنَا (بيع)

(۲) فَعَّلَ۔ ع کلمے پر شد وز بر دینے سے مصدر تَفَعَّلَ اور تَفَعَّلَ جیسے فَرَّحَ تَفَرُّحًا۔ وَشَعَ تَوْسِعَةً۔ اجوف کے لئے تفعیل مخصوص ہے جیسے قَوْمٌ تَقْوِيْمًا۔ اور ناقص کے لئے تَفَعَّلَ جیسے ذَكِيٌّ تَزَكِيَّةً۔

جس کے لام کلمہ میں ہمزہ ہو۔ اس کا مصدر بھی اکثر تَفَعَّلَ آتا ہے جیسے وَطَّأ تَوَطُّئًا۔ کبھی کبھی فَعَّلَ۔ فَعَّلَ۔ تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے كَلَامٌ كِذَابٌ كِذَابٌ تَكَرَّرَ۔ اَفْعَلَ کے پہلے آٹھ معنوں میں شریک ہے۔ جیسے فَرَّحَ (دخوش کرنا، وَشَرَ۔ زہ دار بنانا۔ دکرنا) تَقَوَّدَ (چھری کو دور کرنا، عَمَّقَ (گہرائی تک پہنچنا) صَرَحَ (اچھی طرح کھلنا) تَوَدَّرَ (شکوہ دار ہونا۔ فَسَّقَ (فسق کی نسبت کرنا۔ كَلَّمَ۔ کلام کرنا۔ (۹) جس چیز سے فعل بنایا جائے وہ کسی کو پہنانے کے لئے جیسے جَلَّلَ۔ جھول پہنانا۔ (۱۰) بلغم کے لئے جیسے ذَهَبَ سَهْرًا کرنا۔ (۱۱) انتصار کے لئے۔ جیسے هَلَّلَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ (۱۲) فَاَحْلَى۔ ثلاثی کے ف کلمے کے بعد الف زیادہ کرنے اور ع کلمہ پر زبر دینے سے مصدر مُفَاعَلَةٌ اور فَعَّلَ اور کبھی فَيَعَّلَ۔ جیسے قَاتَلَ سے قَاتَلَ

سے نکلے اس نے گفتگو کی۔ طلب کے لئے جیسے
تَعَجَّلْ جلدی طلب کرنا۔ انتساب کے لئے جیسے
تَبَدَّى بادیہ کی طرف منسوب ہونا۔

(۵) تَفَاعَلَ۔ ف کے لئے سے پہلے ت مفتوح اور ف کے بعد الف زیادہ کرنے سے مصدر تَفَاعَلَ ناقص سے تَفَاعَلَ جیسے قَتَلَ سے تَقَاتَلَ تَقَاتَلًا۔ رَضِيَ سے تَرَضَى تَرَضِيًا۔ عموماً وِیل کے معنوں کے لئے آتا ہے (۱) اشتراک کے لئے جیسے تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَخَالِدٌ زید اور خالد باہم لڑے (۲) جھوٹا بہانہ بنانے اور دکھلاوے کے لئے جیسے تَمَادَضَ جھوٹا بیمار بننا (۳) فَاعَلَ کا اثر لینے کے لئے جیسے نَأَوَلَهُ فَتَنَّاوَلْنَا اس نے اس کو چیز دی اور اس نے نلی۔ ابتداء کے لئے جیسے بَرَكَ (اونٹ بیٹھا) سے تَبَادَكَ وہ بہت بڑکت والا ہوا۔ تدریجی وقوع کے لئے جیسے نَوَاوَدَ الْقَوْمَ لوگ یکے بعد دیگرے آئے۔ مجرد کا ہم معنی بھی ہوتا ہے جیسے تَسَاهَى وہ بلند ہوا۔

(۶) اِفْتَعَلَ۔ ف کلمہ ساکن کر کے پہلے ہمزہ کسور اور ف کے بورت مفتوح زیادہ کرنے سے مصدر اِفْتَعَلَ جیسے كَسَبَ سے اِكْتَسَبَ اِلْتَسَابًا عموماً ذیل کے معنی میں آتا ہے۔ اتخاذ یعنی کوئی چیز بنانے کے لئے جیسے اِحْتَجَرَ (بل بنانا) حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرنے کے لئے جیسے اِكْتَسَبَ بہت کمانا، اپنے لئے کام کرنے کے لئے جیسے اِكْتَالَ (اپنے لئے ماپنا) فَعَلَ کے اثر کو لینے کے لئے جیسے حَمَلَهُ

فَاِحْتَمَلَ۔ اس نے اس پر بوجھ لا دیا اور وہ لگ گیا۔
۷۔ اِسْتَفْعَلَ۔ ف کو ساکن کر کے شروع میں اِسْتَفْعَلَ زیادہ کرنے سے (مصدر اِسْتَفْعَالَ) جیسے عَفَرَ سے اِسْتَعْفَرَ اِسْتَعْفَاءً اعموماً ذیل کے معانی کے لئے بنایا جاتا ہے (۱) اتخاذ جیسے اِسْتَوَطَّقَ (وطن بنانا) (۲) طلب کے لئے جیسے اِسْتَعْفَرَ (بخشش طلب کرنا) (۳) قابل ہونے کے لئے جیسے اِسْتَرْقَعَ (بیوند لگانے کے قابل ہونا) (۴) کسی صفت پر پانے کے لئے جیسے اِسْتَشْكَمَ (کریم پانا) (۵) خیال اور گمان کے لئے جیسے اِسْتَحْسَنَ (نیک خیال کرنا) (۶) ایک صفت سے دوسری میں بدلنا جیسے اِسْتَحْجَرَ (پتھر ہونا) (۷) فقرہ کے اختصار کے لئے جیسے اِسْتَرْجَعَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ کہتا)

۸۔ اِنْفَعَلَ۔ ف کلمے سے پہلے ان زیادہ کرنے سے مصدر اِنْفَعَلَ ہے۔ اس وزن کے فعل ہمیشہ لازمی ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایسے فعل آتے ہیں جو اعضاء کے کام ہوں جیسے كَسَرَ (توڑنا) سے اِنكسَرَ اِنكسَارًا (ٹوٹنا) (۲) اِنطَلَقَ (ٹوٹنا) سے اِنطَلَقَ اِنطِلَاقًا (ٹوٹنا) (۳) ابتداء جیسے اِنطَلَقَ (ہمیشہ لمبے قدم چلنا) سے اِنطَلَقَ (چلنا)

۹۔ اِفْعَلَ۔ ف کلمے پر ہمزہ دیکر پہلے ہمزہ کسور بڑھانے اور لام کلمے پر شد زبردینے سے مصدر کا وزن اِفْعَلَالٌ ہے اور ایسے لفظ اس میں آتے ہیں۔

جن میں رنگ اور عیب کے معنی ہوں۔ اور سب لازم ہوتے ہیں۔ جیسے حَمْرٌ (وہ سرخ ہوا) سے اِحْمَرَّ اِحْمَرًا وہ زیادہ سرخ ہوا۔

۱۰۔ اِفْعَالٌ۔ ف ساکن کر کے شروع میں ہمزہ وکسور اور ع کلے کے بعد الف زیادہ کرنے اور ل کلے پر شد وزبر دینے سے اس سے مصدر اِفْعَالٌ آتا ہے۔ اور یہ بھی ایسے لفظوں سے بنتا ہے جن میں رنگ اور عیب کے معنی ہوں۔ اس میں اِفْعَالٌ کی نسبت مبالغہ زیادہ ہوتا ہے جیسے حَمْرٌ سے اِحْمَارٌ اِحْمِرًا۔

۱۱۔ اِفْعَوْعَلٌ۔ ف کلمہ ساکن کر کے شروع میں ہمزہ وکسور اور ع کے بعد واو ساکن ع مفتوح زیادہ کرنے سے یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کا مصدر اِفْعِيعَالٌ ہے جیسے حَمْرٌ سے اِحْمِرًا وہ بہت گوز پشت ہوا۔

۱۲۔ اِفْعَوَّالٌ۔ اس باب سے مجرد نہیں آتا یہ اکثر لازم ہوتا ہے۔ اس کا مصدر اِفْعَوَّالٌ پر آتا ہے جیسے اِحْمَرًا۔ وہ بہت تیز دوڑا۔

رباعی (چہار حرفی فعل)

فَعْلَلٌ۔ رباعی مجرد کا وزن ہے مصدر فَعْلَلَةٌ (ذیل کے معنی میں آتا ہے۔ فصر کے لئے یعنی فقرہ کے اختصار کے لئے۔ جیسے حَمْدَلٌ (الحمد پڑھنا) پنہانے کے لئے جیسے تَبْرُقَعٌ (برقعہ پنہانا۔ چیز بنانے کے لئے۔ جیسے قَنَطَرٌ (پیل بنانا)۔

رباعی مزید

تَفَعَّلٌ۔ (مصدر تَفَعَّلٌ) یہ ذیل کے

معنی کے لئے ہوتا ہے۔ چیز کو استعمال کرنے کے لئے جیسے تَبْرُقَعٌ (برقعہ اوڑھنا) فَعْلَلٌ کا اثر قبول کرنے کے لئے جیسے دَخْرَجٌ (لڑکانا) سے تَدَخَّرَجٌ (لڑکنا)۔

اِفْعَلَلٌ (مصدر اِفْعِلَلٌ) مبالغہ کے لئے جیسے اِشْرَآبٌ (نہایت چوکس ہونا)۔

اِفْعَنَلَلٌ (مصدر اِفْعِنَلَلٌ) فَعْلَلٌ کا اثر قبول کرنے کے لئے تَعَجَّرٌ (خون بہانا) سے

اِثْعَنَجَّرٌ (خون بہنا) مبالغہ کے لئے جیسے اِشْحَنَفَرٌ (بہت شتابی کرنا) نئے معنی کے لئے جیسے اِعْرَئِفَطٌ (سکڑنا)۔

۱۳۔ ت۔ ن۔ چار حرف علامت مضارع

ہیں۔ ماضی کے ف کلمہ کو ساکن کر کے شروع میں لگائے جاتے ہیں۔ مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے۔ جمع مؤنث کے صیغوں کے سوا باقی کے

آخر میں پیش کے عوض نون ہوتا ہے جس کو نون عربی کہتے ہیں۔ مضارع کی گردان سے معلوم کرو کہ

علامت مضارع کے حروف کن کن صیغوں سے خاص

ہیں۔ علامت مضارع چار حرفی میں مضموم ہوتی ہے۔ باقی سب میں مفتوح۔

ثلاثی جو ماضی کے ہمزہ سے شروع ہو۔ اس کا

ہمزہ مضارع میں گر جاتا ہے جیسے اِشْتَفَفَ سے اِشْتَفَفُ

جو ماضی ت سے شروع ہو۔ مضارع میں اس کا ماقبل (آخر

(وہ بھی اندر آئے گا) سَدُوفٌ یَسْرٰی (وہ بھرتی ہو گیا)
 لَنْ تَوَاقِیَ (تو ہرگز نہیں دیکھے گا) اَنْ تَصُوْمُوا
 خَبِیْرٌ لِّکُمْ (روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے
 وَاَنْ یَّتَفَرَّقَا) (اگر وہ دونوں جدا ہو گئے۔ مضارع
 کا ع کلمہ بعض لفظوں میں مفتوح یا مضموم یا مکسور ہوتا
 ہے جیسے یَعْلَمُ۔ یَضْرِبُ۔ یَقْتُلُ۔ اس بات
 کی واقفیت علم لغت سے ہوتی ہے۔ لَمْ۔ لَمَّا۔ مضارع
 کے شروع میں آئیں۔ تو معنی ماضی منفی کے ہو جانے
 ہیں۔ اور آخر سے پیش اور نونِ اعرابی اور حرف علت
 گر جاتا ہے۔ جیسے لَمْ یَسْمِعْ (اس نے نہیں سنا
 لَمَّا یَسْمِعْ (اس نے ابھی تک نہیں سنا۔ اَنْ۔ لَنْ
 گئی اذکار کے آئیے مضارع کے آخر زبر ہوتی ہے۔ اور
 نونِ اعرابی گر جاتے ہیں۔

فعل لازم و متعدی جہول

جو فعل صرف فاعل چاہے۔ وہ لازم کہلاتا ہے
 جیسے تَعَدَّ مَحْمُوْدٌ دَحْمُوْدٌ بِمِیْطًا، جو فاعل کے علاوہ
 مفعول کو چاہے وہ متعدی ہوتا ہے۔ جیسے سَمِعَ
 مَحْمُوْدٌ الْقُرْآنَ (محمود نے قرآن کو سنا) جس
 فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو وہ معروف ہے اور جس
 فعل کی نسبت فاعل سے نہ ہو وہ مجہول ہے فعل جہول
 صرف متعدی فعل اور مبتدأ ہے۔

ماضی معروف کے آخری حرف سے پہلے حرف
 کے نیچے زبر دینے اور اس سے پہلے تمام متحرک
 حروف کو ضمہ دینے سے ماضی جہول بنتا ہے اور
 اگر پیش کے بعد الف ہو تو واو ساکن بدل جاتا ہے

وہ

سے پہلے) مفتوح ہوتا ہے۔ (جیسے تَقَاتَلُ سے
 یَتَقَاتَلُ) باقی سب میں مع چار حرفی کے ماقبل آخر مکسور
 ہوتا ہے۔ جیسے اَکْرَمَ۔ دَخَرَ۔ یُکْرَمُ۔ یُدْحِرُ
 مِثْلُ کے مضارع میں ع کلمہ مکسور ہو تو واو و الف
 کلمہ سے گر جاتی ہے۔ جیسے یُوْعِدُ سے یُعِدُّ۔
 اجوف کے ع کلمہ کی حرکت ف کلمہ کو آجاتی ہے۔ اور
 حرف علت ساکن ہو جانا ہے۔ اور زبر کے بعد الف سے
 بدل جاتا ہے جیسے یَقُوْلُ۔ یَخُوْفُ سے یَقُوْلُ
 یَخَافُ۔ جمع مؤنث کے صیغوں سے ع کلمہ گر جاتا ہے
 جیسے یَقُوْلْنَ سے یَقُلْنَ۔ ناقص میں لام کلمہ ساکن ہوتا
 ہے جیسے یَزْهِيْ سے یَزْهِيْ۔ اور فتح کے بعد الف
 سے بدل جاتا ہے۔ جیسے یَرْضٰی سے یَرْضٰی۔ جمع
 مذکر کے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں سے گر جاتا ہے
 مذکر کے صیغہ میں ع کلمہ مضموم اور مؤنث حاضر میں مکسور
 ہوتا ہے جیسے یَزْمِيْوْنَ۔ تَدْعُوْنَ سے یَوْمُوْنَ
 تَدْعِيْنَ۔ مضارع میں سولے جمع مؤنث کے صیغوں
 کے باقی میں ع کلمہ کی حرکت ف کلمہ کو دیکر ع و لام کلمہ کو
 ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یَمْدُدُ سے یَمْدُدُ۔ رَأٰی کے
 مضارع اور امر سے ع کلمہ گر کر یَوٰی اور س۔ رہ جاتا ہے
 اور باب افعال کی ماضی۔ مضارع۔ امرینوں گردانوں کے
 گر جاتا ہے جیسے اَدٰی۔ یُوْدٰی۔ اَدٰی و مضارع کے
 شروع میں لام مفتوح یا ماکہ لگانے سے حال کے
 معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے لَیَعْلَمُ (وہ جانتا ہے) مَا
 یَعْلَمُ (وہ نہیں جانتا)۔ س۔ سَوَفُ۔ لَنْ۔ اَنْ
 اِنْ کے لگانے سے استقبال کے جیسے سَبَدْخُلٌ (وہ

آسمان علم و حکمت کے دو رخسار و تابندہ ستارے

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَبْدَانِ وَعِلْمُ الْاَدْيَانِ

گفت پیغمبر کہ بزدان مجید - از پیغمبر در دوران آفرید
تمام اہل اسلام کا طبی صنعتی ادبی و خلافتی تاریخی صنعتی و نوعی مضامین

مجموعہ تجلہ شہریہ
طیب پاکستان

زیر نگرانی ابوالفتح حضرت علامہ پروفیسر عبدالقادر رضا ایم اے
مولوی فاضل پنجاب - فاضل الہیہ کلکتہ - ریٹائرڈ ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ
پرچہ کے بعض مضامین بطور نمونہ (۱) بیسیویں صدی کے طبیب اعظم کے
خود نوشتہ سوانح حیات (۲) نسخہ مرہم عیسیٰ مرہم رسل مرہم حواریین
مرہم سلیمہ کے حصول کی عجیب و غریب و عجیب داستان (۳) طبیب اعظم
کا طبی فیضان - چوٹی کے طبی مجربات (۴) قرآن کریم میں مذکور ادویہ
موتی - مرجان - کافور - کنوری شہدہ - روغن زینون - زنجبیل - زقوم
وغیرہ کے طبی خواص (۵) نادر و نایاب مفردات - جان آدم - رقبابوٹی
بندلی - چھوٹی چندن - سنسوی - سورن گنڈ - سورابوٹیج - شوکا کھانا
کے خواص (۶) معمولات مطب مولانا عبدالوہاب عمر بن حضرت طبیب اعظم
(۷) دلائل حقہ بر رد اہل حقہ (۸) صنعت و حرفت کے خفیہ راز
(۹) حفاظت ریش (۱۰) کلمات الحکمت (۱۱) مجربات ویدک معمولات
مطب (۱۲) نگران رسالہ کے عمر بھر کے طبی تجارب (۱۳) سوالات و جوابات

الْمَرْأَةُ نِصْفُ الْاِنْسَانِ يَأْتِيهَا نِصْفُ نَفْسِهَا وَنِصْفُ رُوحِهَا وَنِصْفُ حَقِيقَتِهَا وَنِصْفُ جَنَانِهَا
سہ ماؤں بہنو بیویوں - دنیا کی زینت تم سے ہے۔

مسلم خواتین پاکستان کا اسلامی علمی ادبی طبی صنعتی تاریخی خلافتی
مضامین پر مشتمل مجموعہ

اپنا ماہوار رسالہ
ہمد و تسوا

(۱) زیروادرت - خواہر محترمہ ہر خاتون کے حکیم خواہ عبدالرحمن صاحب ایم اے طبی فاضل
(۲) فاضل - لطیف عزیز "فاطمہ" نشئی فاضل ادب فاضل
آنر زان پنجابی
مضامین بطور نمونہ (۱) میرا ہمد و تسوا پیغام اور مخلصانہ پیشکش
(۲) فقہ اسلامی متعلق مسائل زمانہ مسلسل (۳) حفظان صحت
کے اصول - ڈاکٹر ہوا - ڈاکٹر یانی - ڈاکٹر آفتاب - ڈاکٹر وزدش
ڈاکٹر فاقہ کی خدمات (۳) اسلام عورتوں کو کیا بنا نا چاہتا
ہے (۴) الاذہار لذوات الخدم اور طہنی والیوں کے
لئے پھول (۵) قرآن کریم میں طبقہ اناس کے متعلق ارشادات -
(۶) احادیث میں صنف نازک کے متعلق احکام (۷) گھریلو
اخراجات کو کم کرنے کی موثر تجاویز (۸) معالجات امراض
نسوان و بچکان (۹) ترمیم اطفال (۱۰) جسم کو سلام
چہرہ کو تروتازہ - بالوں کو سیاہ رکھنے کی طبی ترکیب (۱۱) کھانے
پکانے اور سینے پر رونے کی معلومات (۱۲) سوالات و جوابات

سالانہ چند پانچویں رسالے اگر ایک پرچہ یعنی بعد پس ہونے کے بعد پانچ برس بھج کر اپنا چند وصول کر لیں رسالہ
ملعن حکیم محمد عبداللطیف (مد) "طیبانی" منجر دواخانہ لطیفی مطب فی من بازار گوالمندی

لے ناضل علوم عربی و فارسی و سبائی ممبر سینٹ و سنڈریکیٹ و لکچرار تاریخ اسلام کلکتہ یونیورسٹی - (۲۰۰)

جیے نَصْرًا رَا سْتَخْفَرًا قَاتِلٌ سے نَصْرًا سْتَخْفِرًا
قَتُولٌ۔ آجوف کے ع کلمہ کی حرکت ف کلمہ کو دی جاتی ہے
اور وَاو کو تی سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے قَوْلٌ - بِيْبِعَ
سے قَيْلٌ - بِيْبِعَ۔ جمع مَوْنَتْ غَائِبٌ سے آخر تک ما ضی
معروف اور مجہول کے صیغوں کی ایک ہی شکل ہوتی ہے
جیسے قَوْلٌ - بِيْبِعَنْ سے قُلْنَ - بِعْنَ۔ ناقص میں
وَاو کسره کے بعد آ کر تی ہو جاتی ہے جیسے دُعُو سے
دُعَى۔ جمع مذکر غائب میں لام کلمہ کا ضمتہ ع کلمہ کو دیکر
لام کلمہ گرا دیا جاتا ہے جیسے دُضُوؤًا - دُمِيُوَا سے
دُضُوًا - دُمُوَا۔

لغات عربیہ

علامت مضارع کو ضمہ ویکر آخری حرف سے
پہلے حرف پر زبردینے سے مضارع مجہول بنتا
ہے۔ جیسے يَعْلَمُ - يُقَاتِلُ - يَسْتَغْفِرُ
يُعْلَمُ - يُقَاتِلُ - يَسْتَغْفِرُ۔ آجوف
میں عین کلمہ ساکن ہونے کی وجہ سے زبر کے بعد
الف سے بدل جانا ہے۔ اور جمع مَوْنَتْ کے صیغوں سے
گر جانا ہے جیسے يَقُولٌ - يَبِيْعُ - يَقْلُنُ - يَخْفِنُ
سے يُقَالُ - يُبَاعُ - يُقْلَنُ - يَخْفِنُ۔ ناقص میں
وَاو - تِی سے بدل جاتی ہے۔ اور تِی - الف سے جمع مذکر
اور واحد مَوْنَتْ حاضر سے حرف علت گر جاتا ہے۔ جیسے
يُدْعَى - يُرْفَى - يَبْرُمُونَ - مَنْدَعِبِينَ کہ اصل میں
يُدْعَوُ - يُرْفَوُ - يَبْرُمِيُونَ - مَنْدَعِبِيْنَ تھے
امر حاضر معروف مضارع حاضر معروف کے
چھ صیغوں سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع
گرا کر دیکھو۔ اگر ما بعد متحرک ہو۔ تو آخر کو ساکن

آمنی

کر دو۔ جیسے تَعَدُّ سے عِدْ (تو وعدہ کر) اگر ما بعد ساکن
ہو۔ اور ع کلمہ مضموم ہو۔ تو شروع میں ہمزہ مضموم زیادہ
کر و۔ ورنہ مکسور۔ جیسے تَدْخُلُ - تَسْمَعُ سے ادْخَلْ
(اندر آ) اِسْمَعُ (تو سن)۔ آجوف کے واحد مذکر او
جمع مَوْنَتْ کے صیغہ سے ع کلمہ گر جاتا ہے۔ جیسے
تَقُولُ سے قُلْ (تو کہ) تَقُولُنَّ سے قُلْنَ (تم سب
عورتیں کہو) ہمزہ مکسور کے بعد وَاو - تِی سے بدل جاتی
ہے۔ جیسے اُدْجَلْ سے اُدْجَلْ (تو ڈر) تَأْكُلُ تَأْمُرُ
تَأْكُلُ کے امر سے ف کلمہ گر جاتا ہے جیسے خَذْ
(ٹولے) مُرْدٌ (مردے) کُلْ (تو کھا) امر غائب معروف
یا مجہول کے لئے مضارع کے شروع میں لام مکسور زیادہ
کر کے آخر کو ساکن کر دو۔ جیسے يَنْصُرُ - يَنْصُرُ
لِيَنْصُرُ (وہ مدد کرے) لِيَنْصُرَ (وہ مدد کیجے)
(نوٹ) امر اور نہی کے آخر سے حرف علت
اور نون اعرابی گر جاتے ہیں جیسے تَوَى - تَمَعُوْا مَنصُرَانِ
سے دَدْ (تو دیکھ) اُدْعُ (تو بلا) اَنْصُرَا (تم دونوں مدد دو)

فعل

اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں
ثلاثی سے اس کا وزن فاعِلٌ ہے آجوف
کی وَاو - تِی ہمزہ سے بدل جاتی ہے جیسے
قَاوِلٌ - بَبَايِعُ سے قَاوِلٌ (والا) بَبَايِعُ
(بیچنے والا) ناقص سے اس کا وزن فاعِلٌ ہے
تغیر یا گرفتاری یا فاعل کے وزن پر ہوتا ہے جیسے
کراچی یا ڈرامہ۔

عَوَدَ عَيْنٍ سے اَسْوَدَ (کالا)، سَوَدَاءَ (کالی)، اَعْوَدُ (کاتا)، عَوْدَاءُ (کافی)، اَعْبَنُ (فراخ آنکھ والا)، عَيْنَاءُ (فراخ آنکھ والی)، ایسے افعال جو بھوک-پیار یا سیر و سیراب ہونے پر دلالت کریں۔ ان سے مذکر کا صیغہ فَعْلَانِ اور مؤنث کا فَعْلَانِ کے وزن پر آتا ہے جیسے غَرِثٌ (وہ بھوکا ہوا)، عَطِشٌ (وہ پیاسا ہوا)، شَبِيعٌ (وہ سیر ہوا)، رَوِي (وہ سیراب ہوا) سے غَرِثَانٌ (بھوکا)، غَرِثَانِ (بھوکی)، عَطِشَانٌ (پیاسا)، عَطِشَانِ (پیاسی)، شَبِيعَانٌ (سیر مرد)، شَبِيعَانِ (سیر عورت)، رَوِيَانٌ (سیراب مرد)، رَوِيَانِ (سیراب عورت) غیر ثلاثی سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے مَعْوَجٌ (دیرھا) مُطْمَئِنٌّ (تسکین یافتہ)

فاعل کے کام کی زیادتی جس لفظ سے ظاہر کی جائے اس کو مبالغہ کہتے ہیں جیسے عَلَّامٌ (بہت جاننے والا) یہ ثلاثی سے بنتا ہے اور اس کے مشہور ترین ۱۵ وزن ہیں عَلَّامٌ (بہت جاننے والا)، فَهَامَةٌ (بہت سمجھنے والا)، مِقْدَامٌ (بہت آگے بڑھنے والا)، صِدِّيقٌ (بہت سنا)، مِقْطِيبٌ (بہت خوشبودار)، ضَبْعَةٌ (بہت لیٹنے والا)، شِبْوَةٌ (بہت حرص کرنے والا)، دَجِيمٌ (بہت ہزانی کرنے والا)، وَدُودٌ (بہت پیار کرنے والا)، دَاوِيَةٌ (بہت روایت کرنے والا)، غَفْلٌ (بہت غافل)، فَرُوقَةٌ (بہت جدا کرنے والا)، مَشْعَرٌ (بہت آگ بھڑکانے والا)، فَاوُوقٌ (بہت فرق کرنے والا)، كِتَابٌ (بہت بڑا)، ثلاثی کے علاوہ اَفْعَلٌ سے چند مبالغہ کے لفظ آئے ہیں۔ جیسے اَعْطَى۔ اَهَانَ

آخر کسور ہوتا ہے جیسے يُقَاتِلُ سے مُقَاتِلٌ (لڑنے والا) یہ چند الفاظ مَاجِلٌ (مخبط زدہ)، مَاجِرٌ (دیکھیں)، يِبَافِعٌ (جو ان)، عَاشِبٌ (گھوسی)، خلاصہ قاعدہ اَفْعَلٌ سے آئے ہیں۔

اسم مفعول اس کی صفت ہے جس پر فعل واقع ہو۔ اس کا وزن ثلاثی سے مَفْعُولٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے سَمِعَ سے مَسْمُوعٌ (سنا ہوا)، اَجْوَفٌ (واوی سے مَقُولٌ پر جیسے قَالَ سے مَقُولٌ (کہا ہوا)، اَجْوَفٌ یا ئی سے مَفِيْلٌ جیسے بَاعَ سے مَبِيْعٌ۔ ناقص وادی سے مَفْعُوْلٌ جیسے دَعَا سے مَدْعُوٌّ (بلا یا ہوا)، ناقص یا ئی سے مَفْحِيٌّ جیسے رَفَى سے مَرْحِيٌّ (دیر مارا ہوا) غیر ثلاثی سے مضارع جموں کے وزن پر ہوتا ہے۔ البتہ علامت مضارع کی جگہ ميم مضموم یا ایا جاتا ہے جیسے يَصْرَفُ سے مَصْرَفٌ یہ چند الفاظ مَحْبُوبٌ۔ مَحْنُونٌ۔ مَحْمُومٌ۔ مَزْكُومٌ مَسْلُومٌ باب افعال کے خلاف قیاس ہیں۔

یہ صفت فعل لازم سے بنتی ہے اور اپنے موصوف میں بلا لحاظ زمانہ کے ہر وقت پائی جاتی ہے جیسے شَجَاعٌ (دلیر)، صَعْبٌ (سخت)، شَرِيْفٌ (بھلا آدمی)، جُنُبٌ (صفر خالی) اس کے بنانے کا خاص قاعدہ نہیں۔ ایسا لفظ جو صفت کے معنی ہے۔ اور وہ معنی موصوف میں ہر وقت پائے جائیں۔ اس کو صفت مشبہ سمجھو۔ جو افعال رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی رکھتے ہوں ان سے مذکر کا صیغہ اَفْعَلٌ اور مؤنث کا فَعْلَاءُ پر آتا ہے جیسے سَوَدَ

فعل بھی نہ ہوں۔ یئس (وہ نا امید ہوا۔ مات (وہ مرا) ما علم (اس نے نہ جانا) کان (تھا) سو (عرب) (وہ لشکر ہوا) سے نہیں بنے گا۔ کیونکہ پہلا فعل متصرف نہیں۔ دوسرا کمی بیشی قبول نہیں کرتا۔ تیسرا منفی ہے۔ چوتھا غیر تام۔ اور پانچواں رنگ و عیب کے معنی رکھتا ہے۔ پانچویں قسم کے ایسے فعل ہوں جن سے صفت مشبہ آفعل کے وزن پر نہ ہو بلکہ کسی اور وزن پر ہو تو ان سے اسم تفصیل آجاتا ہے۔ جیسے قبح سے کہ اس کا صفت مشبہ قبیح ہے۔ آقبیح اسم تفصیل آتا ہے۔ حیدر۔ شہ۔ اصل میں آخیر۔ آشہ۔ دو کو کے ہزے کثرت استعمال کی وجہ سے ترک کئے گئے ہیں کبھی کبھی اپنے اپنے اصل پر آخیر آشہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ ثلاثی سے علاوہ اور نیز عیب، رنگ، حلیہ والے افعال سے اسم تفصیل بنانا مقصود ہو تو آشد یا آذید یا اکثر کے بعد ممنوع فعاوں کے مصدر منصوب کو رکھنے سے بے گامیہ خالد آشد اکثر اما یا سمدرة وغیرہ۔

جس جگہ کام ہو۔ اس کا نام اسم مکان ہے

اور جس وقت واقع ہو اس کا اسم زمان ہے

اسم مکان اور زمانہ اس کے بعد ممنوع العین اور

مضموم العین مضارع سے مفعول کے وزن

پر آتا ہے جیسے یئس اور یسمع

یشعی ویزحی سے منصر و سسمع

و مشعی و مزحی مضارع مکسور العین اور مثال

س مفعول کے وزن پر جیسے یئس۔ یعد

آحسن۔ آثلف۔ آملق۔ آخلف۔ آشمع
 آئذ۔ آذہق۔ آذک سے معطاء (بہت
 بخشنے والا) مہوان (بہت ذلیل کرنے والا) محسان
 بہت احسان کرنے والا، مثلاف (بہت تلف کرنے والا)
 مثلاق (بہت خرچ کرنے والا) مخراف۔ ذاک
 مبالغہ میں مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں لیکن جب فاعل
 فاعل کے معنی میں ہو۔ تو اس وقت فرق کیا جاتا ہے
 جیسے رجل نصیر (بہت مدد کرنے والا مرد) ذینب
 نصیر (دربار بہت مدد کرنے والا) کبھی کبھی اس کے
 خلاف بھی ہو جاتا ہے جیسے یحیی العظام وہی تمیم
 اور اگر فاعل مفعول کے معنی میں ہو تو اس وقت اگر مؤنث
 معروف ہو۔ تو مذکر مؤنث میں کوئی تیز نہیں ہوتی جیسے ذینب
 قیتل۔ ذینب قیتل۔ لیکن اگر وہ کی حالت میں تیز
 ہوتی ہے۔ جیسے رجل حبیب۔ امرأة حبیبة۔

اس صفت کو اسم تفصیل کہتے ہیں جس سے
 ایک چیز کسی امر میں دوسری سے بڑھ کر ظاہر
 کی جائے جیسے العلم افضل من کل
 شیء و علم ہر چیز سے زیادہ شرف والا ہے

ذید ابخل من خالد۔ ذید خالد سے زیادہ بخل
 ہے۔ اس کا صیغہ مذکر کے لئے آفعل اور مؤنث

کے لئے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے بنانے میں
 ذیل کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے

۱۔ فاعل ہر حرف ثلاثی
 متصرف (جس سے ماضی مضارع۔ اور کے صیغے استعمال
 ہوتے ہوں) ہو۔ اور کمی زیادتی کے قابل ہو۔ فعل منفی
 نہ ہو۔ غیر تام بھی نہ ہو۔ حلیہ۔ عیب۔ رنگ کے معنوں کے

اُن سے مصدر فِعَالَةٌ اکثر آتا ہے۔ جیسے زِدَاعَةٌ تِجَارَةٌ
 بعض الفاظ اسی وزن کے ف کلمہ مفتوح سے بھی آئے ہیں
 وَكَالَةٌ۔ وَكَالِيَةٌ۔ ایسے الفاظ جو امتناع پر ولالت کریں
 ان کا مصدر بھی اکثر فِعَالٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے اِبَاءٌ
 دَانِكَا رَكْرَا، شَوَاكَا (نفرت کرنا)، جِمَاخٌ (نافرمان ہونا)،
 حرکت اور اضطراب پر ولالت کرنے والے فعلوں کے مصدر
 فَعْلَانٌ کے وزن پر آتے ہیں۔ جیسے عَلَيَانٌ (جوش
 کھانا)، خَفْقَانٌ (دل دھڑکنا)، جَوْلَانٌ (پھرنا)،
 بیماری پر ولالت کرنے والے فعلوں کے مصدر فَعَالٌ
 کے وزن پر جیسے صَدَاعٌ (سر درد ہونا)، سُعَالٌ (کھانسا)،
 رنگ کے معنی دینے والوں سے فُعْلَةٌ پر جیسے حُمْرَةٌ
 (سرخ ہونا) سیر و سیاحت کے معنی والوں سے فَعِيلٌ
 کے وزن پر جیسے رَحِيلٌ (کوچ کرنا)، آواز پر ولالت
 کرنے والوں سے فَعَالٌ اور فَعِيلٌ کے وزن پر جیسے
 نَبَاخٌ (رکتے کا بھونکا)، هَدِيرٌ (کبوتر کی غوغائی کرنا)
 فَعَلٌ کے وزن کی ماضی لازم کا مصدر فَعُولٌ پر آتا ہے
 جیسے دَخَلَ سے دُخُولٌ۔ فَعِلٌ لازم کا فَعَلٌ پر
 جیسے فَرِحَ سے فَرَحٌ۔ مصدر متعدی دونوں سے
 فَعَلٌ کے وزن پر جیسے صَرَبَ صَرَبًا۔ جَهَلَ
 جَهْلًا۔ فَعَلٌ کا مصدر فَعُولَةٌ یا فَعَالَةٌ کے وزن
 پر جیسے سَهَوَلَةٌ۔ فَصَا حَةٌ۔ ثلاثی کے ہر فعل کے مصدر
 مِثْمِی مَفْعَلٌ کے وزن پر بنا یا جاتا ہے صرف سات
 لفظ ہی مَزَجِعٌ۔ مَصْبِرٌ۔ مَشِيْبٌ۔ مَزْفِقٌ
 مَقْبِلٌ۔ اس قاعدہ کے خلاف ہیں) جیسے مَقْتَلٌ
 مَنَصْرٌ۔ مَضْرَبٌ۔ مَسْمَعٌ۔ مَرْحَى۔ مثالِ اوای

يُوَجَلُّ سَعَجِلِسٌ۔ مَوْعِدٌ وَمَوْجِلٌ۔
 ذیل کے ۱۱ وزن جن کا مضارع مضموم العین ہے
 خلاف قاعدہ اہل زبان ع کلمے کے نیچے زیر دیتے ہیں
 مَشَجِدٌ۔ مَزْفِقٌ۔ مَفْرِقٌ۔ مَشِيْكُنٌ۔ مَشِيْبٌ
 مَسْقَطٌ مَشْرِقٌ۔ مَطْلِعٌ۔ مَعْرِبٌ۔ مَجْزِمٌ
 غیر ثلاثی سے مصدر مِثْمِی کی طرح بنائے جاتے ہیں۔ جیسے
 يَكْرِمُ سے مَكْرِمَةٌ۔ مَفْعَلَةٌ کا وزن کسی چیز کی کثرت
 پر ولالت کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے مَا بَلَةٌ (زیادہ
 اونٹوں کی جگہ) مَا سَدَةٌ (زیادہ شیروں کی جگہ)
 مَا ذَنَةٌ (اذان کی جگہ) مَقْبِرَةٌ۔ مکانور کے نام
 ہیں۔ اسم ظرف نہیں۔

اسم آلہ کام کرنے کے ذریعے کو کہتے ہیں
 اس کے وزن میں ہیں۔ مِفْعَلٌ جیسے مِبْدِيٌّ
 (دستی)، مِفْعَالٌ جیسے مِفْتَاخٌ (چابی)،
 مِفْعَلَةٌ۔ جیسے مِرْوَحَةٌ (پنکھا)، مِثْمِی (چھلنی)
 مَدْمَسٌ (تیل دانی)، مَكْحَلَةٌ (سرمہ دانی)، مَدْفٌ
 (موگری)، مَسْعَطٌ (سوار دانی)، مَنَادَةٌ (دیوٹ۔ بٹری)
 مَشْطٌ (لنگھی)، یہ الفاظ خلاف قاعدہ آئے ہیں۔ ایسے وزن
 جو مشتق نہیں۔ اُن کے مختلف اوزان ہیں جیسے فَاَسٌ
 (کلمہ مِثْمِی)۔ قَدْوَمٌ (تیشہ) وغیرہ

ثلاثی کے مصدر کثرت سے ہیں۔ ان کے بنانے
 کا کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ اہل زبان کے استعمال
 اور محاورات سے ہی ان کا علم ہو سکتا ہے۔ اس لئے
 ان میں سے اکثر اپنے فعل کے ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں لیکن
 چند مصدر قیاسی یہ ہیں۔ جو افعال حرفہ اور پیشہ کے ہیں۔

سے مفعول کے وزن پر جیسے مَوْرِدٌ۔ مَوْعِدٌ۔ غیر ثلاثی سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے۔ مضارع کی ہی کی جگہ میم مضموم ہوتا ہے جیسے یُکْرَمُ سے مَكْرَمٌ مَقُولٌ کے وزن پر صرف پانچ مصدر لائے ہیں۔ وَضُوؤٌ (وضو کرنا) طَهُوْرٌ (پاک ہونا) وَكُوْعٌ (حریم ہونا) قَبُولٌ (قبول کرنا) وَقُوْدٌ (ابندھن ڈالنا) فعل کے ایک بار ہونے پر دلالت کرنے والا مصدر فَعْلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے أَخَذْتُ أَخْذَةً (میں نے ایک دفعہ لیا) ثلاثی سے علاوہ مصدر کے آخری زیادہ کرنے سے جیسے اِنْتَفَتِ اِنْتِفَاطَةً۔ مصدر

ایک فعل یا نوع کا مصدر

آخرت ہو۔ تو صفت بیان کر کے فرق کیا جاتا ہے جیسے ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (اُس نے ایک بار مارا) صَارَعَ مَصَادَعَةً وَاحِدَةً۔ فعل کی طرز یا نوع بتانے والا مصدر فَعْلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے أَكَلَ اِكْلَةً اِمْتِكَبَرٌ

مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ بعض اسم مؤنث حقیقی ہیں۔ جن کے مقابل تر جاندار ہوتا ہے جیسے اِمْرَاةٌ (عورت) شَاةٌ (بکری) مَرِيْمٌ (نام عورت) اور بعض اسم ایسے ہیں جن کو

اہل زبان مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان کا نر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے اسم مؤنث غیر حقیقی کہلانے ہیں جیسے اَرْضٌ (زمین) عَيْنٌ (چشمہ) مؤنث کی تین علامات ہیں (۱) ة جیسے قَاتِلَةٌ (قتل کرنے والی) (۲) الف مفضوہ جیسے ذَكَرِيٌّ۔ كُبْرِيٌّ۔ دُنْيَا (۳) الف عمڈہ جیسے

حَمْرَاءٌ۔ عَاشُوْرَاءٌ۔ اگر مذکورہ بالا علامتیں مذکر کے علم میں ہوں جیسے طَلْعَةٌ۔ خَضْرَاءٌ۔ اَرْطَبِيٌّ (آدمیوں کے نام) تو ایسے علموں کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ ان کے لئے فعلوں کے صیغے اور صفات مذکر کے ہی ہونگے۔ مؤنث غیر حقیقی کے لئے کوئی ناص قاعدہ نہیں۔ اہل زبان کے محاورات پر ہی دار و مدار ہے۔ صرف ذیل میں چند: عِدْكَلِيَّةٌ درج ہیں۔

بدن کے اکثر جفت اعضاء جیسے اُذُنٌ (کان) عَيْنٌ (آنکھ) وغیرہ صرف صُدْعٌ (کنپٹی) مَرْقُوقٌ (گھنی) حَاجِبٌ (ابرو) خُدٌّ (رخسارہ) كَحْحِيٌّ (جہرا) مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ دوزخ کے نام اور شراب اور ہوا کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جمع مؤنث سالم کے سوا تمام جمعیں بھی ذیل کے الفاظ مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں (ابطد بفل) اِذَاؤٌ۔ حَالٌ۔ رُقَاقٌ۔ حَانُوْتُ۔ خَمْرٌ۔ دِرْعٌ۔ دَلْوٌ۔ رَوْحٌ۔ سَبِيْلٌ۔ سَرِيٌّ مَسَاءٌ۔ سُوْقٌ مَسَاعٌ۔ ضَحِيٌّ۔ طَرَسٌ۔ طَرِيْقٌ۔ عَنكَبُوْتُ فِرْدَوْسٌ۔ فَرَسٌ۔ فَهْرٌ۔ قَدْرٌ۔ قَفٌّ۔ قَمِيصٌ كَبِدٌ۔ لِسَانٌ۔ مِسْكٌ۔ مِلْحٌ۔ حروف تہجی کے شہروں کے نام۔ بتاویل موضع کے نام ہیں بقدر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔

دو چیزوں پر دلالت کرنے والے لفظ

کو مشنی یا تشنیہ کہتے ہیں۔ مفرد اسم کے

آخرف اور نون کسور یا ہی اور نون

کسور لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے كِتَابٌ (ایک کتاب)

اور اسماء عدد کا تشبیہ نہیں ہوتا۔

جمع وہ لفظ ہے۔ جو تعداد کے لحاظ سے دو

سے زائد پر استعمال ہو۔ اس کی تین قسمیں

ہیں (۱) جمع مذکر سالم (۲) جمع مؤنث سالم (۳) جمع مکثر

جمع مذکر سالم مفرد کے آخر و ن یا تین لگانے سے

بنتی ہے جیسے مُسَلِّمٌ سے مُسَلِّمُونَ مُسَلِّمَاتٌ اسم

منقوص کی 'ی' حذف کر کے جمع میں واؤ سے پہلا حرف

مضموم اور 'ی' سے پہلا کسور ہوتا ہے جیسے ہَلْدِی

سے هَادُونَ۔ هَادُونَ۔ اسم مقصور کا الف حذف

ہو کر 'و' 'ی' سے پہلا حرف مفتوح ہوتا ہے جیسے

مُصْطَفَى سے مُصْطَفُونَ۔ مُصْطَفِينَ۔ جمع

صِف مذکر عاقل کے ایسے علم کی ہوتی ہے جو مرکب مذہب

اور اس کا آخرت سے خالی ہو۔ یا مذکر عاقل کی ایسی

صفت کی ہوتی ہے جس کے مؤنث کے صیغہ کے آخرت

لاحق ہو۔ یا تفصیل کے معنی دے۔ اس قاعدہ کے رو سے

حَمْدَةٌ عَلَامَةٌ۔ سَيِّبُوثِيہ۔ سَكْرَاتُ أَحْمَدُ

صَبُورٌ کی جمع اس وزن پر نہیں آسکتی۔

جمع مؤنث سالم مفرد کے آخرت 'ات' زیادہ

کرنے سے بنتی ہے جیسے اذْيَبٌ سے اذْيَبَاتٌ

اگر مفرد کے آخرت 'ت' ہو تو جمع بنانے وقت اس کو

گرا دو جیسے شَجَرَةٌ سے شَجَوَاتٌ۔ الف ممدود

اور کسورہ کے تغیرات تشبیہ کی طرح ہوتے ہیں جیسے

خَبَلٌ۔ رَحَى۔ عَصَا سے جُبَلِيَّاتٍ۔ رَحِيَّاتٍ

عَصَوَاتٍ اور صَحْرَاءُ سے صَحْرَاوَاتٌ اور

عَلْبَاءُ سے عَلْبَاوَاتٍ یا عَلْبَاءَاتِہ۔ فَعْلَةٌ

کِتَابَاتٍ یا کِتَابَاتِہ۔ اسم مقصور جس کے آخر

الف ہو) کا الف چوتھے درجے یا زائد پر ہو تو وہ تہی

سے بدل جاتا ہے۔ اگر تیسری جگہ ہو تو ہی سے بدلا ہوا

ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سے بدلا ہوا واؤ جیسے دَعْوَى

مُصْطَفَى۔ قَتَى۔ عَصَا سے دَعْوِيَّاتٍ۔ مُصْطَفِيَّاتٍ

قَتِيَّاتٍ۔ عَصَوَاتٍ۔ اسم ممدود (جس کے آخر الف

کے بعد ہمزہ ہو) اگر اس کا ہمزہ مؤنث کے لئے ہو اور

الف سے پہلے واؤ نہ ہو تو اس کو واؤ سے بدلا جاتا ہے

جیسے صَحْرَاءُ سے صَحْرَاوَاتٍ۔ اگر الف سے پہلے

واؤ ہو تو ہمزہ قائم رہتا ہے جیسے عَشْوَاءُ (اندھی

اونٹنی) سے عَشْوَاوَاتٍ۔ اگر ممدود کا ہمزہ اصلی ہو

تو برقرار رہتا ہے جیسے وَصَّاءُ (ستھرا) سے وَصَّاءَاتٍ

اگر ہمزہ مؤنث کا یا اصلی نہ ہو۔ بلکہ الحاق کے لئے ہو۔

یا واؤ سے بدلا ہوا ہو۔ اس میں مذکورہ دونوں باتیں

جائز ہیں جیسے عَلْبَاءُ (گرون کا پٹھا) (لمحق بقراطس)

سَمَاءُ (مبیل از واؤ) بِنَاءُ (مبیل از ی) سے

عَلْبَاوَاتٍ یا عَلْبَاءَاتٍ۔ سَمَاوَاتٍ یا سَمَاءَاتٍ۔

یا بِنَاتِيَّاتٍ یا بِنَاءَاتٍ۔ اسم منقوص (جس کے آخری

ما قبل مکسور ہو) کی حذف شدہ 'ی' واپس آجاتی ہے

جیسے قَاضٍ سے قَاضِيَّاتٍ + مرکب اضافی کے پہلے

جز کا تشبیہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے عَمِيدُ الْمَلِكِ کِب

انتہی میں ذوا مذکر اور ذواؤنات مؤنث کے لئے شروع

میں بڑھانے سے تشبیہ بنتا ہے جیسے ذَوَّامِعِدِيَّاتٍ

لفظ بعض۔ آجَمِعُ۔ جَمْعَاءُ۔ مَجْلُ۔ مَرْتَبَتٌ

دِيَارٌ۔ آخِذٌ۔ اسم تفضیل جو کہ ساتھ استعمال

صحیح العین کا 'ع' کلمہ مفتوح ہو جاتا ہے جیسے تَمْرَةٌ
 وَحَمَةٌ سے تَمْرَاتٌ. رَحْمَاتٌ. فَعْلَةٌ کے 'ع'
 کو مفتوح اور ساکن پڑھنا اور 'ف' کی حرکت دینا تینوں
 طرح جائز ہے جیسے کِسْرَةٌ سے کِسْرَاتٌ اور حُجْرَةٌ
 سے حُجْرَاتٌ. فَعْلَةٌ ناقص کا صحیح کی طرح ہے جیسے
 دَمِيَّةٌ سے دَمِيَّاتٌ رُقُوعٌ رُقُوعَاتٌ. فَعْلَةٌ اِفْعَالٌ
 ہو تو اس کا 'ع' کلمہ ساکن ہی رہتا ہے جیسے جَوَادَةٌ
 سے جَوَادَاتٌ. بَيْعَةٌ سے بَيْعَاتٌ. یہ جمع مؤنث
 کے علم اور اس اسم سے جس کے آخرت ہو یا الف
 ممدودہ یا مقصورہ ہو یا غیر عاقل کی صفت یا ایسے
 خاصی اسم سے بنتی ہے جس کی جمع تکسیر اہل زبان ہے
 نہ سنی گئی ہو۔ پس مَوِيْمَةٌ جَمِيْلَةٌ حَبْلِي حَبْرَاءُ
 دَدِيْهِمْ شَامِيخٌ حَمَامٌ کی جگہ مَوِيْمَاتٌ
 جَمِيْلَاتٌ حَبْلِيَّاتٌ حَبْرَاتٌ دَدِيْهِمَّاتٌ
 شَامِيخَاتٌ حَمَامَاتٌ ہے۔ ان کے علاوہ اہل زبان
 کے محاورہ کے ماتحت ہیں جیسے سَهَوَاتٌ سَجَلَاتٌ
 اَمَّهَاتٌ۔

جمع مکسر وہ جمع ہے جس کے بنانے میں مفرد کی
 حالت قائم نہ رہے۔ اسکی دو قسمیں ہیں (۱) جمع قلت
 جس کا استعمال دس تک ہوتا ہے (۲) جمع کثرت
 جس کا استعمال تین سے لیکر دس اور اس سے زائد پر
 ہوتا ہے۔ جمع قلت کے چار وزن ہیں (۱) اَفْعَلٌ جیسے
 فُلْسٌ (پیس) سے اَفْلَسٌ (۲) اَفْعَالٌ جیسے ثَوْبٌ
 (کپڑا) عُنُقٌ (گروں) سے اَلْكَوَابُ اَعْنَاقٌ (۳)
 اَفْعَلَةٌ جیسے طَعَامٌ سے اَطْعَمَةٌ (۴) فِعْلَةٌ

جیسے فَتَى سے فِتْيَةٌ

جمع کثرت کے اوزان یہ ہیں۔ فُعْلٌ جیسے اَفْخَسٌ
 فُعْلٌ جیسے حِمَارٌ رَغِيْفٌ عَمُوْدٌ سے حَمْرٌ
 رَغْفٌ عُمْدٌ فِعَالٌ جیسے زَنْدٌ جَبَلٌ قَصْعَةٌ
 كَرِيْمٌ وَكَرِيْمَةٌ عَطَشِي (پیا سی) سے زِنَادٌ
 جِبَالٌ قِصَاعٌ كِرَامٌ عِطَاشٌ فُعُولٌ جیسے
 فُلْسٌ حِمْلٌ قُرْعٌ ذَكَرٌ بَدْرَةٌ سے فُلُوْسٌ
 حُمُولٌ قُرُوْعٌ ذُكُوْرٌ بُدُوْرٌ فُعْلَانٌ جیسے
 رَغِيْفٌ رَاكِبٌ اَحْمَرٌ شَجَاعٌ سے رُغْفَانٌ
 رُكْبَانٌ حُمْرَانٌ شَجَعَانٌ فِعْلَانٌ جیسے
 سَلِيْعٌ شَجَاعٌ صُرْدٌ تَابٌ حُرُوْبٌ سے سَرْمَانٌ
 شُجَعَانٌ صُرْدَانٌ تَيْجَانٌ عَيْدَانٌ فَعْلِي
 جیسے جَرِيْعٌ سے جَرِيْحٌ فِعْلِي جیسے حَبْلٌ
 ظَرْبَانٌ سے حَبْلِي ظَرْبٌ فِعْلَانٌ جیسے جَبَانٌ
 شُجَاعٌ شَرِيْفٌ شَاعِرٌ جِنَاءٌ شُجَعَانٌ
 شَرْفَاءٌ شُعْرَاءٌ اَفْعَلَانٌ جیسے عَرِيْحِيْبٌ
 سے اَعْنِيَاءٌ اَحْبَاءٌ فَعَالِي جیسے فِتْوَى
 ذِفْرَى سَعْدَى حَوْرَى حَشِي سَكْرَانٌ
 سے فِتَاوَى ذِفَارَى سَعَادَى حَوْرَانٌ اَعْرَابِي
 سَكَارَى فَعَالِي جیسے اَسْرَانٌ سے
 اَسَارَى سَكْرَانٌ

بعض

یہ جمع جس کے الف کے بعد دو یا تین متحرک
 حروف ہوں انتہی الجموع کہلاتی ہے۔ اس کے وزن
 یہ ہیں۔ مَفَاعِلٌ جیسے مَشِيْدٌ مَضْرِبٌ
 مَكْرُمَةٌ سے مَسَاجِدٌ مَضَارِبٌ مَكَارِمٌ

کی جاتی ہے۔ جیسے ذَبْنَبْ کُوْفِيَّةٌ - فَعِيْلٌ - فَعِيْلَةٌ
 فَعِيْلَةٌ کے وزن کے کلمے ناقص ہوں تو ان کی پہلی
 ی کو دور کر کے دوسری کو واؤ سے بدل کر ماقبل کو
 مفتوح کیا جاتا ہے جیسے عَلِيٌّ - غَنِيَّةٌ - اُمِيَّةٌ سے
 عَلَوِيٌّ - غَنَوِيٌّ - اَمَوِيٌّ - خِيْرَ جَوْفٍ اور غَيْرِضَاعٍ
 لفظ جو فَعِيْلَةٌ - فَعُوْلَةٌ یا غَيْرِضَاعٍ فَعِيْلَةٌ
 کے وزن کا ہو۔ تو اس سے حرف علت اور تہ دور کی جاتی
 ہے اور ی کو زبردی جاتی ہے جیسے مَدِيْنَةٌ کَهْوَلَةٌ
 جُهَيْنَةٌ سے مَدَنِيٌّ - كَهْلِيٌّ - جُهْنِيٌّ لیکن طَبِيْعَةٌ
 سَلِيْقَةٌ سے نسبت طَبِيْعِيٌّ - سَلِيْقِيٌّ اس قاعدہ کے
 خلاف ہے۔ فَعِيْلٌ - فَعِيْلٌ صحیح ہو تو اس سے ی نہیں
 گرتی جیسے رَبِيْعٌ - عُبَيْدٌ سے رَبِيْعِيٌّ - عُبَيْدِيٌّ
 لیکن ثَقِيْفٌ - قُرَيْشٌ کی نسبت ثَقَفِيٌّ قُرَشِيٌّ
 سے ی خلاف قیاس گر گئی ہے۔ الف مقصورہ تیسری
 اور چوتھی جگہ کا واؤ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے رَضِيٌّ
 مَوْلِيٌّ سے رَضَوِيٌّ - مَوْلَوِيٌّ۔ پانچویں جگہ کا آجاتا
 ہے۔ جیسے مُصْطَفِيٌّ - مُصْطَفِيٌّ لیکن بعض
 مُصْطَوِيٌّ بھی کہتے ہیں۔ الف ممدودہ مؤنث کا واؤ
 سے بدلتا ہے جیسے صَفْرَاءٌ سے صَفْرَاوِيٌّ۔ اسلی
 بحال رہتا ہے جیسے قُرَاءَةٌ سے قُرَاءِيٌّ۔ اگر حرف
 سے بدلا ہوا ہو۔ تو واؤ سے بدلنا نہ بدلنا جائز ہے جیسے
 سَمَاءٌ سے سَمَائِيٌّ و سَمَاوِيٌّ جس اسم کے آخری
 شدہ والی ہو۔ اور اس سے پہلے دو حرفوں سے زیادہ
 حرف ہوں۔ تو نسبت کے وقت وہ گر جاتی ہے جیسے
 شَافِعِيٌّ (امام شافعی کا پیرو) اگر ی مشدود سے

فَوَاعِلٌ جیسے کَاتِبَةٌ - كَاهِلٌ سے کَوَاتِبٌ - كَوَاهِلٌ
 فَعَائِلٌ جیسے صَعِيْفَةٌ - رَسَالَةٌ - عَجُوْرٌ - حَمَامَةٌ
 ذَوَابَةٌ - شَمَائِلٌ - صَخَائِفٌ - رَسَائِلٌ - عَجَائِدُ
 حَمَائِمٌ - ذَوَائِبٌ - شَمَائِلٌ - فَعَائِلٌ جیسے صَحْرَاءُ
 فَتَوِيٌّ - ذَفْرِيٌّ سے صَحَارِيٌّ - فَتَاوِيٌّ - ذَفَارِيٌّ
 مَفَاعِيْلٌ جیسے مِصْبَاحٌ - مَلْعُوْنٌ سے مَصَابِيْحٌ
 مَلَاعِيْنٌ -

جمع الجمع یعنی جمع کی جمع بنانا جیسے نِعْمَةٌ (ایک نعمت)
 کی جمع الجمع سے جمع الجمع اَنَعْمَةٌ۔

اسم جنس۔ وہ الفاظ جو تہ کے ساتھ مفرد پر اور غیر
 تہ کے جنس پر یا بعیرہ کے مفرد پر اور تہ کے ساتھ جنس
 پر بولے جائیں جیسے شَجَرَةٌ (ایک درخت) کَمَا رَجُوْ
 سے شَجَرٌ (کئی درخت) کَمَا رَجُوْ (کئی کھنسیاں)۔
 اسم جمع یعنی ایسے لفظ جن میں جمع کے معنی پائے جاتے
 ہیں لیکن ان کا واحد نہیں ہوتا۔ یا واحد ہوتا بھی ہے
 تو اس کا وزن جمع کے وزن سے خارج ہوتا ہے جیسے
 جَيْشٌ - قَوْمٌ - رَاكِبٌ (سوار) - رَاكِبٌ (سواران)
 صَاحِبٌ (مصاحب) - صَحَابَةٌ (مصاحبان) - رَفِيْقٌ
 (دہراہی) - رُفُقَةٌ (دہراہیاں)

جمع من غیر لفظہ۔ یعنی وہ جمع جس کے مفرد
 کے حرف اور ہوں جیسے اِمْرَأَةٌ - ذُوٌّ سے نِسَاءٌ - اَلْوَا
 اسم کے آخریائے مشدود۔ ماقبل مکسور پر
 کا نام نسبت ہے جیسے هِنْدٌ سے هِنْدِيٌّ
 اسم کے آخری تہ والی جاتی ہے جیسے كُوْفَةٌ
 سے كُوْفِيٌّ - مؤنث کے لئے ی کے بعد تہ زیادہ

پہلے ایک حرف ہو تو پہلی پرستخویہ کو دوسری کو داؤ سے بدلا جاتا ہے جیسے حی سے حیوی۔ اگر ی واؤ سے بدل ہوئی ہو تو واؤ ہو جاتی ہے جیسے طح سے طووی۔ اگر ی اسم کا پونے حرف مکسور کے بعد ہو تو اس کا گرانا یا واؤ سے بدلنا جائز ہے جیسے قاضی سے قاضی یا قاضوی۔ اگر پانچواں حرف (دی) ہو تو گر جانا ہے جیسے دھلی مشتری سے دھلی یا دھلوی۔ مشتری مشتری اگر اسم کے آخر سے حرف گر کر دو حرف رہ گئے ہوں تو گرا ہوا واپس آجاتا ہے جیسے آخر آب۔ دم۔ یس سے آخوی۔ آبیوی۔ دموی۔ یدوی گرائے ہوئے کے عوض ہمزہ لایا ہوا گرانا اور اصل گرائے ہوئے کو واپس لانا جائز ہے جیسے ابن۔ اسم۔ بنوی۔ سموی۔ ابنی۔ اشعی۔ دونوں طرح درست ہے گرائے ہوئے کے عوض تہ نسبت میں گر جاتی ہے اور اصلی حرف واپس آجاتا ہے جیسے سنہ یزنا سے سنوی و ذنیٰ ثنیہ کو نسبت کے وقت مفرد بنایا جاتا ہے جیسے عزا قین مسلمان سے عزا قی۔ مسلمی۔

مرکب اجزائی کی پہلی جز یا سب سے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے جیسے بعلبک سے بعلی یا بعلبکی۔ بعض اسما کی نسبت قواعد بالا کے خلاف بھی ایلی بنائی گئی ہے جیسے رب۔ ہادیہ۔ نورحق مزود۔ ربی۔ دھو۔ روح۔ آنف۔ گیبو۔ بخدین۔ نھامہ۔ منعام۔ عبد اللہ سے ربانی بندوی۔ نووانی۔ حقانی۔ مزودنی۔ رازنی۔ دھری۔ دوخانی۔ آسانی۔ بخرانی۔ تھامی۔ صنطانی۔

کسر اور چھوٹی ظاہر کرنے کا وزن

عبدالی۔
فعیل۔ اسم ثلاثی کی تصغیر کے لئے جیسے رجل سے رجیل۔ فعیل۔ ثلاثی مزید رباعی خاصی کے لئے جن کا چوتھا حرف مدہ نہ ہو جیسے مضرب۔ جطر۔ سفرجل سے مضیرب۔ جعیل۔ سفیرجم۔ فعیل۔ ثلاثی مزید۔ رباعی مزید خاصی مزید جن کا چوتھا حرف مدہ ہو جیسے

مضرب۔ قراطس۔ حند رئیس و مضیرب۔ قریبیس۔ خدیریس۔

فعیل۔ قفلان۔ افعال کے وزن

کے اسموں کی تصغیر کے لئے جیسے سکران۔ آجمال سے سکیران۔ اجیمال۔ فعیل۔ پانچ اصلی

حرفوں والے اسم کی تصغیر کے لئے جیسے سفرجل سے سفیرجل۔ اگر اسم مؤنث غیر حقیقی تین حرف کا ہو

تو تصغیر میں علامت مؤنث ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ارض شمس سے ارض شمس۔ شمس مؤنث

ثنیہ و جمع کی علامتیں نسبت میں بدستور رہتی ہیں جو کلمہ تغیر کے بعد دو حرف رہ گیا ہو تصغیر میں اس کی

حالت بدلتا ہے۔ اور عوض کے لئے اس میں جیسے عدو۔ مد۔ ابن۔ عیدہ۔ منبذ۔ بنتی۔ بنیہ۔ دوسرا حرف الف ہو تو واؤ سے اور

تیسرا حرف ہو تو ی سے بدل جاتا ہے جیسے ضارب حمار سے ضویرب۔ حمید (حمیید)

خلاصہ النحو

سوالاً جواباً

از حضرت میر محمد اسحاق صاحب رفقہ اللہ عنہ

سوال - انسان جو کچھ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب - جو کچھ انسان منہ سے بولتا ہے اسے

عربی میں لفظ کہتے ہیں۔

(۲) سوال - لفظ کس سے بنتے ہیں؟

جواب - لفظ حروفِ ہجاء (تہجی) سے

بنتے ہیں۔

(۳) سوال - حروفِ تہجی (ہجاء) کونسے ہیں؟

جواب - حروفِ ہجاء یہ ہیں۔ اَلْاَلِفُ

اَلْبَاءُ۔ اَلثَّاءُ۔ اَلشَّاءُ۔ اَلجِيمُ۔ اَلحَاءُ۔

اَلخَاءُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلرَّاءُ۔ اَلزَّاءُ۔

اَلسِّينُ۔ اَلشِّينُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلطَّاءُ۔

اَلظَّاءُ۔ اَلعَيْنُ۔ اَلعَيْنُ۔ اَلغَيْنُ۔ اَلفَاءُ۔ اَلقَافُ

اَلکَافُ۔ اَللَّامُ۔ اَلمِيمُ۔ اَلنُّونُ۔ اَلهَاءُ

اَلوَاوُ۔ اَلهَمْزَةُ۔ اَلبَاءُ۔

(۴) سوال - حروفِ ہجاء کی کتنی اور کونسی

قسمیں ہیں؟

جواب - حروفِ ہجاء کی دو قسمیں ہیں۔

ایک شمسی۔ دوسری قمری۔

(۵) سوال - حروفِ شمسی کی تعریف کرو۔

جواب - حروفِ شمسی وہ حروفِ تہجی ہیں کہ

جن سے پہلے اگر آل آوے تو آل کا لام اس حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے اَلشَّمْسُ اس میں آل کا لفظ ش پر داخل ہوا تو بجائے آل شَمْسُ کے اَشْشَمْسُ پڑھتے ہیں۔ لیکن لکھنے میں آل کا لام قائم رہتا ہے صرف پڑھنے میں نہیں آتا۔

(۶) سوال - حروفِ قمری کی تعریف کرو۔

جواب - حروفِ قمری وہ حروفِ تہجی ہیں کہ جن کے

پہلے اگر آل آوے تو آل کا لام اس حرف میں تبدیل نہیں

ہوتا۔ جیسے اَلقَمَرُ اس میں آل کا لفظ ق پر داخل ہوا

تو بجائے آقِ قَمَرُ کے اَلقَمَرُ پڑھتے ہیں۔

(۷) سوال - حروفِ ہجاء میں سے حروفِ شمسی

کون سے ہیں؟

جواب - حروفِ شمسی چودہ حروفِ اَلثَّاءُ

اَلشَّاءُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلرَّاءُ۔ اَلزَّاءُ۔ اَلسِّينُ

اَلشِّينُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلطَّاءُ۔ اَلظَّاءُ۔ اَللَّامُ

اور اَلنُّونُ ہیں۔

(۸) سوال - حروفِ ہجاء میں سے حروفِ قمری

کون سے ہیں؟

جواب - حروفِ قمری پندرہ حروفِ اَلْاَلِفُ

اَلْبَاءُ۔ اَلجِيمُ۔ اَلحَاءُ۔ اَلخَاءُ۔ اَلعَيْنُ

اَلغَيْنُ۔ اَلفَاءُ۔ اَلقَافُ۔ اَلکَافُ۔ اَلمِيمُ

اَلهَاءُ۔ اَلوَاوُ۔ اَلهَمْزَةُ اور اَلبَاءُ ہیں

(۹) سوال - حروفِ تہجی کو حروفِ تہجی کیوں کہتے ہیں؟

جواب - حروفِ تہجی کو حروفِ ہجاء یا تہجی

اس لئے کہتے ہیں کہ ان سے ہجے کر کے بعضی جود کر الفاظ

اکیلا کافی نہ ہو بلکہ کسی اور کلمہ کے ملانے سے وہ اپنے
معنی دے جیسے مین سے رالی تک۔ اور قی میں۔
(۱۴) سوال۔ فعل کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟
جواب۔ فعل کی تین قسمیں ماضی۔ مضارع اور
امر ہیں۔

(۱۵) سوال۔ ماضی کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے
زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے ضربت
اُس نے مارا۔

(۱۸) سوال۔ مضارع کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ مضارع وہ فعل ہے جس میں موجود
یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے
یَضْرِبُ یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا۔

(۱۹) سوال۔ مضارع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟
جواب۔ مضارع کی دو قسمیں ہیں۔ حال اور مستقبل
حال وہ فعل مضارع ہے جس میں موجودہ زمانہ میں کسی
کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ جیسے کَبَّرَ وہ مار رہا
ہے۔ مستقبل وہ فعل مضارع ہے جس میں آئندہ زمانہ
میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ جیسے یَضْرِبُ وہ
مارے گا۔ مستقبل وہ فعل مضارع ہے جس میں آئندہ
زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے سَبَّ ضَرْبٌ وہ
عقرب مارے گا۔ فعل مضارع حال و استقبالی دونوں
پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۲۰) سوال۔ امر کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی شخص

بنائے جاتے ہیں جیسے نہ۔ ی اور د سے جوڑ کر ایک
لفظ نریداً بن جاتا ہے
(۱۰) سوال۔ لفظ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟
جواب۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ مہمل یعنی بے معنی
اور کلمہ یعنی بامعنی۔ مہمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو معنی نہ
دے جیسے دَیْرٌ۔

(۱۱) سوال۔ کلمہ کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ کلمہ ایک بامعنی لفظ کو کہتے ہیں
جیسے ضَرْبٌ اس نے مارا۔ مَاءٌ۔ پانی۔ مَنٌ۔ سو
(۱۲) سوال۔ کلمہ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟
جواب۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ اسم فعل
اور حرف۔

(۱۳) سوال۔ اسم کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں
اکیلا کافی ہو اور گزشتہ۔ موجودہ یا آئندہ تینوں زمانوں
میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے معنوں میں نہ پایا جاوے
جیسے زَيْدٌ۔ كِتَابٌ۔ عِلْمٌ یعنی نیک کتاب اور علم (جاننا)
(۱۴) سوال۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں
اکیلا کافی ہو۔ اور اس کے معنوں میں گزشتہ موجودہ
اور آئندہ تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور
پایا جاوے۔ جیسے ضَرْبٌ۔ اس نے مارا۔ یَضْرِبُ
دارتا ہے یا مارے گا۔ اَضْرِبْ۔ تُوْمَارُ
(۱۵) سوال۔ حرف کی کیا تعریف ہے؟
جواب۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں

اور نون لگا کر بنتے ہیں۔ جیسے مُؤْمِنٌ وَمُؤْمِنَاتٌ
اور جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو مفرد کے آگے
الف اور ت بڑھا کر جمع مؤنث کے لئے بنتے ہیں
جیسے مُسَلِّمَاتٌ

(۲۵) سوال۔ کلمات سے کیا بنتا ہے؟

جواب۔ کلمات سے جملہ مفیدہ بنتا ہے۔

(۲۶) سوال۔ جملہ مفیدہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ مفیدہ اس جملہ کو کہتے ہیں جسے

مخاطب سن کر پورا مطلب معلوم کر کے خاموش ہو سکتا ہے

(۲۷) سوال۔ جملہ مفیدہ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ جملہ مفیدہ کی دو قسمیں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ

فعلیہ ہیں۔

(۲۸) سوال۔ جملہ اسمیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو

ابتداء اور خبر سے بنے۔ جیسے ذَیْدٌ مَرِيضٌ۔

(۲۹) سوال۔ جملہ فعلیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل

اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے بنایا جاتا ہے۔

جیسے جَاءَ ذَیْدٌ اور ضَرَبَ ذَیْدٌ۔

(۳۰) سوال۔ کلام کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ کلام جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں۔ اور کلام

کم سے کم دو اسموں مثلاً ذَیْدٌ مَرِيضٌ یا ایک فعل

اور ایک اسم جیسے ضَرَبَ ذَیْدٌ سے بنتا ہے۔

(۳۱) سوال۔ آخری حرف کی حرکت کے لحاظ سے

کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟

سے آئندہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا طلب کیا جائے
جیسے اَضْرِبْ یعنی تو مار یا مَثْ یعنی تو مر جا۔

(۳۱) سوال۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی کتنی

اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی دو

قسمیں مذکر اور مؤنث ہیں۔ مذکر وہ اسم ہے جو زیروں پر دلالت

کرتے اور مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ پر دلالت کرتے۔

(۳۲) سوال۔ افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسم

کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسم

کی تین قسمیں ہیں۔ مفرد۔ مثنی۔ (دیا تثنیہ) اور

جمع مفرد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت

کرتے۔ جیسے ذَیْدٌ اور عَائِشَةُ۔ اور مثنی اس اسم

کو کہتے ہیں۔ جو دو افراد پر دلالت کرتے جیسے ذَیْدَانِ

اور عَائِشَتَانِ۔ اور جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو دو سے

زیادہ پر دلالت کرتے۔ جیسے ذَیْدُونَ اور عَائِشَاتُ

(۳۳) سوال۔ جمع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ جمع کی تین قسمیں ہیں۔ جمع تکبیر۔ جمع مذ

سالم اور جمع مؤنث سالم۔

(۳۴) سوال۔ جمع کی تینوں قسموں کی تعریف لکھو۔

جواب۔ جمع تکبیر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں آگے

مفرد کی شکل ٹوٹ جائے۔ جیسے رِجَالٌ کہ اس میں آگے

مفرد رَجُلٌ کی شکل ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی رِجَالٌ میں

رِجَالٌ کی جیم اور لام کے درمیان الف آ جاتا ہے جمع

مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو مفرد مذکر کے آگے واؤ

(۳۵) سوال۔ حرف کی اپنے حروف تہجی کی تعداد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں ؟

جواب۔ حرف کی اپنے حروف تہجی کی تعداد کے لحاظ سے پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) أَحَادِیثٌ یعنی جو ایک ایک حرف کے ہوں۔ جیسے

بِسْمِ اللّٰهِ کی باء

اَزَّیْدٌ مَّرِیضٌ کا ہمزہ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کا سین

تَا اللّٰهِ کی تاء

جَاءَ زَيْدٌ فَصَمُرٌ کی فاء

زَيْدٌ كَا لَآسِدٍ کا کاف

وَاللّٰهُ کی واو

سَجَدُوا لِآدَمَ کَا لام

(۲) ثُنَائِيَّةٌ یعنی دو حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے اِذْ - آه - اِنْ - اَنْ - يَلْ - لَا اور كُوْا ہیں۔

(۳) ثَلَاثِيَّةٌ یعنی تین حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے اَلَا - اِلَى - سَوَفَ - عَلَى - كَيْتَ اور نَعَمٌ وغیرہ

(۴) رُبَاعِيَّةٌ یعنی چار حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے اِذْمَا - اِلَّا - اَمَّا - اَمَّا - حَتَّى - كَاثِرٌ وغیرہ

(۵) خَمْسِيَّةٌ یعنی پانچ حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے اِنَّمَا - لِكِنْ وغیرہ

(۳۵) سوال۔ ماضی کس پر مبنی ہوتی ہے ؟

جواب۔ ماضی فتح پر مبنی ہوتی ہے یعنی اس کے

آخر پر ہمیشہ نصب ہوتی ہے۔

(۳۶) سوال۔ امر کس پر مبنی ہوتا ہے ؟

جواب۔ اپنے آخری حرف کی حرکت کے لحاظ سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ مُعْرَبٌ اور مُبْتَنِيٌّ۔

(۳۲) سوال۔ مُعْرَبٌ کی کیا تعریف ہے ؟

جواب۔ مُعْرَبٌ وہ کلمہ ہے جس کے

آخری حرف کی حرکت مختلف ترکیبوں میں

آنے سے بدلتی رہے اور متفرق عاملوں کے

آنے سے مختلف ہوتی رہے۔ جیسے اِسْمُوں میں سے كِتَابٌ

اور فَعْلُوں میں سے يَضْرِبُ۔

(۳۳) سوال۔ مبنی کی کیا تعریف ہے ؟

جواب۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف

کی حرکت باوجود مختلف عاملوں کے آنے اور مختلف

ترکیبوں میں آنے سے نہ بدلے۔ جیسے اِسْمُوں میں سے

مَنْ اور فَعْلُوں میں سے ضَرَبَ۔

(۳۴) سوال۔ اسم فعل اور حرفوں میں سے کون کون

مبنی ہیں ؟

جواب۔ تمام حروف مبنی ہیں جیسے مَنْ - اِنِّیْ

عَلَى اور فِی وغیرہ وغیرہ۔ فَعْلُوں میں سے ماضی اور

امر مبنی ہیں۔ اور مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث حاضر

اور جمع مؤنث غائب مبنی ہیں۔ نیز جس مضارع کے آخر

میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگایا جاوے جیسے كَيْفَعَلَنْ

اور كَيْفَعَلَنْ۔ اس کے بھی تمام صیغے مبنی ہیں۔ باقی

مضارع کے صیغے معرب ہیں۔ اور اسموں میں سے اکثر

اسم معرب ہیں۔ صرف چند اسم مبنی ہیں۔ اور وہ اسما

ضمائر۔ اسما اشارہ۔ اسما موصولہ اور اسما شرط

ہیں۔

جواب۔ امر سکون پر مبنی ہوتا ہے یعنی اس کے آخری حرف پر ہمیشہ جزم آتی ہے۔

(۳۸) سوال۔ جو اسماء مبنی ہیں وہ لکھو۔

جواب۔ اسم قریباً سب کے سب معرب ہیں صرف چند اسم مبنی ہیں جو یہ ہیں۔ اسماء ضمائر۔ اسماء اشارہ اسماء موصولہ اور اسماء شرط

(۳۹) سوال۔ اسماء ضمائر کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ اسماء ضمائر کی دو قسمیں ہیں منفصلہ یعنی جو کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کر نہ آویں۔ اور متصلہ یعنی وہ ضمائر جو کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کر

آویں۔ منفصلہ کی پھر دو قسمیں ہیں ایک مرفوعہ یعنی جو رفع کے موقع پر آویں۔ اور محللاً مرفوع ہوں۔ دوسرے منصوبہ یعنی جو نصب کے موقع پر آویں۔ اور محللاً منصوب

ہوں۔ اسی طرح متصلہ کی تین قسمیں ہیں۔ اول مرفوعہ۔ دوم منصوبہ۔ سوم مجرورہ۔ غرض ضمائر کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۴۰) سوال۔ ضمائر منفصلہ مرفوعہ لکھو۔

جواب۔ ضمائر منفصلہ مرفوعہ یہ ہیں۔

هُوَ۔ هُمَا۔ هُمُ۔ هِيَ۔ هُمَا۔ هُنَّ۔ أَنْتَ
أَنْتُمْ۔ أَنْتِ۔ أَنْتُمْ۔ أَنْتِ۔ أَنْتُمْ۔ أَنْتِ
أَنَا۔ نَحْنُ

(۴۱) سوال۔ ضمائر منفصلہ منصوبہ لکھو۔

جواب۔ ضمائر منفصلہ منصوبہ یہ ہیں۔

إِيَّاهُ۔ إِيَّاهُمَا۔ إِيَّاهُمْ۔ إِيَّاهَا۔ إِيَّاهُمَا
إِيَّاهُنَّ۔ إِيَّاكَ۔ إِيَّاكُمْ۔ إِيَّاكِ۔ إِيَّاكِ
إِيَّاكُمْ۔ إِيَّاكِ۔ إِيَّايَ۔ إِيَّانَا۔

ضمائر متصلہ مرفوعہ لکھو۔

(۴۲) سوال۔ ضمائر متصلہ مرفوعہ لکھو۔

جواب۔ ضمائر متصلہ مرفوعہ یہ ہیں۔
ضَرَبْتَ۔ ضَرَبْتَا۔ ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُنَّ
ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ
ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ۔ ضَرَبْتُمْ

(۴۳) سوال۔ ضمائر متصلہ منصوبہ لکھو۔

جواب۔ ضمائر متصلہ منصوبہ یہ ہیں۔

ضَرَبْتَهُ۔ ضَرَبْتَهُمَا۔ ضَرَبْتَهُنَّ۔ ضَرَبْتَهُنَّ
ضَرَبْتَهُمَا۔ ضَرَبْتَهُنَّ۔ ضَرَبْتَهُنَّ۔ ضَرَبْتَهُنَّ
ضَرَبْتَكُمْ۔ ضَرَبْتِكِ۔ ضَرَبْتِكُمْ۔ ضَرَبْتِكُنَّ
ضَرَبْتِنِي۔ ضَرَبْتِنَا۔

(۴۴) سوال۔ ضمائر متصلہ مجرورہ لکھو۔

جواب۔ ضمائر متصلہ مجرورہ یہ ہیں۔

كِتَابَهُ۔ كِتَابَهُمَا۔ كِتَابَهُنَّ۔ كِتَابَهُنَّ
كِتَابَهُنَّ۔ كِتَابَكَ۔ كِتَابِكُمْ۔ كِتَابِكُنَّ
كِتَابِكُمْ۔ كِتَابِكُنَّ۔ كِتَابِنَا۔

(۴۵) سوال۔ اسماء اشارہ کونسے ہیں؟

جواب۔ اسماء اشارہ یہ ہیں۔

هَذَا۔ هَذَانِ۔ هُوَ۔ هَؤُلَاءِ۔ هَذِهِ۔ هَاتَانِ
هَؤُلَاءِ۔

(۴۶) سوال۔ اسماء موصولہ کونسے ہیں؟

جواب۔ اسماء موصولہ یہ ہیں۔

الَّذِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي
الَّذِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي۔ الَّتِي

ہیں۔ باقی علامتیں فرعی کہلاتی ہیں جو اپنے موقع پر آویگی
 ۵۳ سوال۔ اگر مضارع کا آخری حرف الف
 ہو تو اس پر اعراب کس طرح آئیں گے؟

جواب۔ اگر مضارع کا آخری حرف الف ہو
 جیسے یَحْشَىٰ تَوْرَفِج اور نصب تو اس پر نظر نہیں
 آتے بلکہ تقدّر آتے ہیں یعنی رَفِج کے موقع پر کہا جاوے گا
 کہ یہاں بذریعہ تقدّر ضمّہ کے آئے جیسے یَحْشَىٰ زَيْدٌ
 میں یَحْشَىٰ کے الف پر ضمّہ تقدیری اور کَسْرٌ
 یَحْشَىٰ زَيْدٌ میں یَحْشَىٰ کے الف پر فتح
 تقدیری ہوگا۔ لیکن جزم کے موقع پر الف کو گراویں گے
 جیسے لَمْ يَحْشَ زَيْدٌ میں جب لَمْ نے یَحْشَىٰ
 کو جزم دیا تو الف گرا کر اسے لَمْ يَحْشَ پر ٹھاکیا۔

۵۴ سوال۔ اگر مضارع کا آخری حرف اَلْوَاوُ
 یا اَلْيَاءُ ہو۔ تو اس پر اعراب کس طرح آئیں گے؟

جواب۔ اگر مضارع کا آخری حرف اَلْوَاوُ
 ہو جیسے يَدْعُوْا اَلْيَاءُ ہو۔ جیسے يَدْعُوْا تَوْرَفِج
 کے موقع پر ضمّہ تقدّر ہوگا۔ لیکن نصب کے موقع پر
 فتح ظاہر آئے گی جیسے كُنْ يَدْعُوْا اور كُنْ يَدْعُوْا
 اور جزم کے موقع پر اَلْوَاوُ یا اَلْيَاءُ کو گرا دیں گے
 جیسے لَمْ يَدْعُ اور لَمْ يَدْعُ

۵۵ سوال۔ مضارع کے صیغہ اور جمع مذکر اور
 مؤنث مخاطب کے صیغوں میں اعراب کس طرح آتے
 ہیں؟

جواب۔ مضارع کے نشانیہ کے صیغوں میں
 جیسے يَضْرِبَانِ - تَضْرِبَانِ - اور جمع مذکر کے

۴۷ سوال۔ اسما شرط کو نئے ہیں؟

جواب۔ اسما شرط یہ ہیں:-

مَنْ - مَا - مَهْمَا - مَتَى - اَيَّانَ - اَيْنَ - اَتَى -
 جَيْشَمًا - كَيْفَمَا - اور اَيْجَى -

۴۸ سوال۔ معرب کلمہ کے آخری حرکت یا سکون
 کو کیا کہتے ہیں؟

جواب۔ معرب کلمہ کے آخری حرکت یا سکون
 کو اعراب کہتے ہیں

۴۹ سوال۔ مبنی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت یا
 سکون کو کیا کہتے ہیں؟

جواب۔ مبنی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت
 یا سکون کو بناء کہتے ہیں۔

۵۰ سوال۔ مُعْرَبِ فَعْلٍ پر کیا کیا اعراب آسکتے
 ہیں؟

جواب۔ مُعْرَبِ فَعْلٍ یعنی مضارع کے اعراب
 رفع نصب اور جزم ہوتے ہیں۔

۵۱ سوال۔ مُعْرَبِ اِسْمٍ پر کیا کیا اعراب آسکتے ہیں؟
 جواب۔ معرب اسم کے اعراب رفع۔ نصب
 اور جزم ہوتے ہیں۔

۵۲ سوال۔ رفع۔ نصب۔ جزم اور جزم
 کی کیا علامات ہیں؟

جواب۔ فعل میں بھی رفع کی عام علامت
 ضمّہ یعنی پیشیں۔ نصب کی علامت فتح یعنی زیر

جزم کی علامت کسرہ یعنی زیر۔ اور جزم کی علامت سکون
 یعنی جزم ہیں۔ اور یہ چاروں علامتیں اصل حلا نہیں

بارہ الفاظ ہیں جن میں سے پہلے دو حرف ہیں۔ اور باقی اسم ہیں اور وہ یہ ہیں :-

ان جیسے ان تَذَهَبَ آذَهَبَ یعنی میرے جانے کے لئے تیرا جانا شرط ہے۔

اِذْمَا جیسے اِذْمَا تَسَافِرُ اَسَافِرُ۔

مَنْ جیسے مَنْ يَرْحَمُ يُرْحَمُ۔

مَا جیسے مَا تَفْعَلُ افْعَلُ۔

مَهْمَا جیسے مَهْمَا تَفْعَلُ يَفْعَلُهُ اللهُ۔

مَتَى جیسے مَتَى تَقُمْ اقُمْ۔

اَيَّانَ جیسے اَيَّانَ تَذَهَبُ اَذَهَبُ۔

اَيَّنَ جیسے اَيَّنَ تَجْلِسُ اجْلِسُ۔

اَنَّى جیسے اَنَّى تَذَهَبُ تَذْهَبُ۔

حَيْثُمَا جیسے حَيْثُمَا تَذَهَبُ اَذَهَبُ۔

كَيْفَمَا جیسے كَيْفَمَا تَكْتُبُ اكْتُبُ۔

اَيَّ جیسے اَيَّ كِتَابٍ تَقْرَأُ تَقْرَأُ۔

(۵۸) سوال۔ فعل مضارع پر رفع کب آتا ہے؟

جواب۔ فعل مضارع جب نصب اور جزم

وینے والے الفاظ سے خالی ہو تو اس پر رفع آتا ہے

جیسے يَضْرِبُ ذَيْدٌ میں يَضْرِبُ سے پہلے چونکہ

کوئی ناصب یا جازم نہیں آیا۔ اس لئے اس کے آخری

حرف پر رفع آیا کرتا ہے۔

(۵۹) سوال۔ مُعْرَبُ اسم پر رفع کتنے اور کتنے

موقعوں پر آتا ہے۔

جواب۔ مُعْرَبُ اسم پر رفع چھ موقعوں پر

آتا ہے یعنی جب کوئی اسم کسی عبارت میں فاعل یا نائب فاعل

صیغوں میں جیسے يَضْرِبُونَ تَضْرِبُونَ اور اُو

مَوْتِ مخاطب کے صیغے میں جیسے تَضْرِبِينَ میں

رفع کے موقع پر نون موجود رہتا ہے اور نصب اور

جزم کے موقع پر نون گرا دیا جاتا ہے جیسے لَنْ

يَضْرِبَا۔ لَنْ تَضْرِبَا۔ لَنْ يَضْرِبُوا لَنْ

تَضْرِبُوا۔ لَنْ تَضْرِبِي۔ لَمْ تَضْرِبَا۔ لَمْ

يَضْرِبَا۔ لَمْ يَضْرِبُوا۔ لَمْ تَضْرِبُوا۔ لَمْ

تَضْرِبِي۔

(۵۶) سوال۔ فعل مضارع پر نصب کب آتا ہے؟

جواب۔ جب اَنْ۔ لَنْ۔ كَيْ۔ اِذَا۔ اِنْ چا

حرفوں میں سے کوئی حرف مضارع کے پہلے آوے تو

مضارع کے آخری حرف پر نصب آتی ہے جیسے

اَنْ يَضْرِبَ لَنْ يَضْرِبَ۔ كَيْ يَضْرِبَ

اِذَا يَضْرِبَ

(۵۷) سوال۔ فعل مضارع پر جزم کب آتا ہے؟

جواب۔ فعل مضارع پر جزم اُس وقت آتا

ہے جب اُس سے قبل یہ حرف آویں لَمْ۔ لَمَّا۔

اِمْرًا اور نہی کا لَآءِ یہ چاروں حرف ایک ایک فعل کو

جزم دیتے ہیں جیسے لَمْ يَذْهَبْ ذَيْدٌ۔ لَمَّا

يُشْمِرُ بُسْتَانَنَا يَذْهَبُ بَكْرٌ۔ لَآ

تَضْرِبَ اَحَدًا۔

اور مندرجہ ذیل الفاظ دو مفعولوں پر آتے ہیں

پہلے فعل کو فعل شرط اور دوسرے فعل کو جواب یا

جزائے شرط کہتے ہیں کیونکہ پہلا فعل دوسرے فعل

کے وقوع پذیر ہونے کے لئے شرط ہوتا ہے۔ اور وہ

یا مبتدایا خبر یا کان اور اُس کے ساتھیوں کا اسم یا
رأی اور اُس کے ساتھیوں کی خبر ہو تو اُس پر رفع آیا
کرتا ہے۔

(۶۰) سوال - فاعل کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - فاعل اُس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے
کوئی فعل معروف ہو۔ اور وہ اسم اُس فعل کا کرنے والا
ہو۔ جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ یا وہ فعل اُس کے ذریعہ
قائم ہوا ہو۔ جیسے مَاتَ زَيْدٌ۔

(۶۱) سوال - نائب فاعل کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - نائب فاعل وہ اسم ہے جس کے پہلے
کوئی فعل مجہول ہو اور وہ فعل اُس اسم پر واقع ہوا
ہو۔ جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ میں زَيْدٌ نائب فاعل ہے

(۶۲) سوال - مبتدا کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - مبتدا وہ اسم ہے جو جملہ

کے شروع میں آوے۔ اور جملہ میں اُس کے

متعلق خبر دی جاوے۔ کہ وہ ایسا ہے

جیسے زَيْدٌ مَرِيضٌ میں زَيْدٌ کا لفظ جملہ کے شروع

میں ہے۔ یعنی اُس سے پہلے کوئی فعل نہیں جس کا وہ

فاعل ہو یا نائب فاعل ہو اور اس جملہ میں اُس کے

متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ بیمار ہے۔

(۶۳) سوال - خبر کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - خبر اُس اسم کو کہتے ہیں جو مبتدا کے

متعلق کوئی بات بتا دے۔ جیسے زَيْدٌ مَرِيضٌ میں

مَرِيضٌ کا لفظ خبر ہے۔ کیونکہ یہ مبتدا یعنی زید کے

متعلق بتلاتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔

(۶۴) سوال - کان اور اُس کے ساتھی گناؤ۔

جواب - کان اور اُس کے ساتھی یہ ہیں

كَانَ - صَادَ - آضَبَعَمَ - آضَعَى - ظَلَّ - آمَسَى

بَاتَ - مَا ذَالَ - مَا بَدَحَ - مَا انْفَلَتَ - مَا فَتَحَ

مَا دَامَ اور کیس۔

(۶۵) سوال - کان اور اس کے ساتھی کیا عمل

کرتے ہیں ؟

جواب - کان اور اس کے ساتھی جب مبتدا

اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو اُس وقت مبتدا کا نام

کان کا اسم اور خبر کا نام کان کی خبر ہو جاتا ہے

کان کے اسم پر رفع اور کان کی خبر پر نصب آتا

ہے جیسے کان زَيْدٌ مَرِيضٌ۔

(۶۶) سوال - رأی اور اس کے ساتھی گناؤ

جواب - رأی اور اس کے ساتھی یہ ہیں۔

رَأَى - آتَ - كَانَتْ لِكِرْتٍ - لَبِثَ لَعَلَّ

اور لا۔

(۶۷) سوال - رأی اور اس کے ساتھی کیا عمل

کرتے ہیں ؟

جواب - رأی اور اس کے ساتھی جب مبتدا اور

خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اُس وقت رأی کا نام رأی

کا اسم اور خبر کا نام رأی کی خبر ہوتا ہے جیسے رأی

زَيْدٌ مَرِيضٌ۔

(۶۸) سوال - مُعْرَبِ اسم پر کتنے اور کونسے موقعوں

پر نصب آتی ہے ؟

جواب - اسم پر گیارہ موقعوں پر نصب

مفعول لاجلہ ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے فعل یعنی کھڑے ہونے کا سبب بتاتا ہے یعنی میں حاکم کی تعظیم کی غرض سے کھڑا ہوا تھا۔ مفعول لاجلہ کا دوسرا نام مفعول لہ بھی ہے۔

(۷۲) سوال۔ مفعول فیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جو

اپنے سے پہلے فعل کا زمانہ یا مکان بتائے جیسے

حَفِظْتُ الدَّرْسَ صَبَاحًا

صَبَاحًا مفعول فیہ ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے فعل کا زمانہ بتاتا ہے یعنی میں نے سبق صبح کے وقت یاد کیا تھا یا جیسے حَفِظْتُ الدَّرْسَ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ میں امام مفعول فیہ ہے کیونکہ وہ اپنے سے پہلے فعل کا مکان بتاتا ہے یعنی میں نے سبق استاد کے سامنے بیٹھ کر یاد کیا تھا۔

(۷۳) سوال۔ مفعول فیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟

جواب۔ مفعول فیہ کا دوسرا نام ظرف بھی ہے

(۷۴) سوال۔ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرفِ زمان اور ظرفِ مکان۔

(۷۵) سوال۔ ظرفِ زمان کے بعض الفاظ بطور مثال لکھو۔

جواب۔ یہ الفاظ ظرفِ زمان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

صَبَاحًا - مَسَاءً - يَوْمًا - لَيْلَةً

بُكْرَةً - غَدًا - صَبْحًا - سَحْرًا - أَبَدًا - حِينًا

وَقْتًا - لَحْظَةً - سَاعَةً - مَدَّةً - سَنَةً - شَهْرًا

(۷۶) سوال۔ ظرفِ مکان کے بعض الفاظ بطور نمونہ بتاؤ۔

جواب۔ یہ الفاظ بطور ظرفِ مکان کے استعمال

آتی ہے۔ یعنی جب کوئی اسم عبارت میں مفعول بہ یا مفعول مطلق یا مفعول لاجلہ یا مفعول فیہ یا مفعول معہ یا حال یا تمیز یا مناد یا مستثنیٰ بالآ یا خبر کان یا اسمِ رات ہو۔ تو اس پر نصب آتی ہے۔

(۷۹) سوال۔ مفعول بہ کی تعریف کرو۔

جواب۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس کے پہلے

فعل معروف ہو۔ اور فاعل نے وہ فعل اس اسم پر کیا

ہو جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا میں بَكْرًا مفعول بہ ہے کیونکہ فاعل یعنی زید کا فعل مارنا اس پر واقع ہوا ہے۔

(۸۰) سوال۔ مفعول مطلق کی تعریف کرو۔

جواب۔ مفعول مطلق وہ اسم ہے جو اپنے سے

پہلے فعل کی تاکید کرے جیسے ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبًا

میں ضَرْبًا مفعول مطلق ہے یعنی میں نے زید کو خوب

مارا۔ یا اپنے سے پہلے فعل کی تعداد بتائے جیسے ضَرَبْتُ

زَيْدًا اِثْنَيْ عَشَرَ مَرَّةً میں اِثْنَيْ عَشَرَ مَرَّةً مفعول مطلق

ہے کیونکہ اس نے فعل یعنی مارنے کی گنتی بتائی ہے کہ

میں نے زید کو دو چوٹیں لگائیں۔ یا اپنے سے پہلے فعل کی

بہت بتائے جیسے ضَرَبْتُ زَيْدًا اِثْنَيْ عَشَرَ

اَلْأَسْتَاذِ میں ضَرْبًا مفعول مطلق ہے یعنی میں نے

زید کو اس طرح مارا جس طرح استاد شاگرد کو مارا کرتا ہے۔

(۸۱) سوال۔ مفعول لاجلہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ مفعول لاجلہ وہ اسم ہے جو

اپنے سے پہلے فعل کا سبب اور غرض بتائے

جیسے قُمْتُ أَكْرَامًا لِأَهْلِي

ہوتے ہیں :-

أَمَامَ - قُدَّامَ - خَلْفَ - وَرَاءَ - فَوْقَ
تَحْتَ - يَمِينًا - شِمَالًا - عِنْدَ - مَعَ - إِذَاءَ
حِذَاءَ - تَلْقَاءَ - بَرِيدًا - فَرَسًا - مِثْلًا

(۷۷) سوال - مفعول معہ کی تعریف کرو۔

جواب - مفعول معہ وہ اسم ہے جس سے پہلے
کوئی فعل ہو۔ اور وہ فعل اُس اسم کی موجودگی اور اسکی
مصاحبت یعنی اُس کے ساتھ ساتھ ہوا ہو۔ مفعول معہ
سے پہلے ایک واؤ لاتے ہیں جسے واؤ معیت کہتے ہیں۔
جیسے سِرْتُ وَالنَّيْلُ مِثْلُ الْمَيْلِ مَفْعُولٌ مَعَهُ
ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے فعل سِرْتُ یعنی میرا چلنا دریا
نیل کے ساتھ ساتھ ہوا تھا۔

(۷۸) سوال - مفاعیل خمسہ کسے کہتے ہیں؟

جواب - مفعول پہ مفعول مطلق مفعول لِاجلِہ
مفعول فیہ سے۔ اور مفعول معہ۔ ان پانچ قسم کے مفعول
کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں۔

(۷۹) سوال - حال کی تعریف کرو۔

جواب - حال وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے فعل
کے وقت فاعل کی یا مفعول پہ کی حالت بتائے۔ مثلاً
جَاءَ زَيْدٌ ذَاكِبًا مِثْلًا مِثْلًا
اپنے سے پہلے فعل جَاءَ یعنی آنے کے وقت فعل
یعنی زید کی حالت بتاتا ہے کہ وہ آنے کے وقت سوار
ہو کر آیا تھا۔ یا جیسے شَرِبْتُ الْمَاءَ جَارِيًا
جَارِيًا حال ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے فعل شَرِبْتُ
یعنی پیئے کے وقت مفعول پہ یعنی پانی کی حالت بتاتا

ہے۔ کہ وہ پیئے جانے کے وقت بہ رہا تھا۔

(۸۰) سوال - تمیز کسے کہتے ہیں؟

جواب - تمیز وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے اسم
کی تعیین کرے جبکہ پہلے اسم سے بہت سی چیزیں مراد ہو
سکتی ہوں۔ جیسے ذَا آيْتِ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
میں کَوْكَبًا تمیز ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے اسم
أَحَدَ عَشَرَ یعنی گیارہ کی تعیین کرتا ہے کہ وہ ستارے
تھے نہ کہ کوئی اور چیز۔

(۸۱) سوال - منادوی کی کیا تعریف ہے؟

جواب - منادوی اُس اسم کو کہتے ہیں جسے حرف
کے ذریعہ اپنی طرف بلایا جائے جیسے يَا زَيْدُ یعنی اے
زید!

(۸۲) سوال - کونسا منادی منصوب ہوتا ہے؟

جواب - وہ منادوی جو مضاف بھی
ہو۔ اُس پر نصب آتی ہے جیسے يَا عَبْدَ اللَّهِ
اس میں لفظ عَبْدَ منادوی بھی ہے اور لفظ

اللہ کی طرف مضاف بھی ہے۔

(۸۳) سوال - مستثنیٰ بیا لا کی کیا تعریف ہے؟

جواب - وہ اسم جو الّا کے
مستثنیٰ بیا لا کہتے ہیں اور اس پر نصب آتی ہے
جیسے جَاءَ الطَّلِبَةُ إِلَّا زَيْدًا
مستثنیٰ بیا لا ہے یعنی لفظ الّا کے ذریعہ زید کو
آنے والے طالب علموں میں سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے
کہ اور طالب علم تو آگئے لیکن زید نہیں آیا۔ اس
فہرہ میں طلبہ مستثنیٰ مند اور زید مستثنیٰ ہے۔

جواب۔ مضاف الیہ اُس اسم کو کہتے ہیں جسکی طرف اُس سے پہلا اسم مضاف یعنی اُسکی طرف منسوب ہو جیسے کتاب ذیید یعنی زید کی کتاب میں لفظ زید مضاف الیہ ہے کیونکہ اُس سے پہلا اسم یعنی کتاب اُسکی طرف مضاف یعنی منسوب ہے کتاب کو مضاف کہیں گے کیونکہ وہ زید کی طرف منسوب ہے پس جو اسم منسوب ہو اُسے مضاف اور جسکی طرف منسوب ہو اُسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔

(۸۹) سوال۔ تابع کسے کہتے ہیں ؟

جواب۔ تابع اُس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اعراب اُس کے اپنے نہ ہوں بلکہ وہ اپنے ماقبل کے ماتحت ہو۔ یعنی جو ماقبل پر اعراب ہوں وہی اُس پر ہوں ماقبل کو متبوع کہتے ہیں۔

(۹۰) سوال۔ تابع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں ؟

جواب۔ تابع کی چار قسمیں ہیں۔ تابع نعت، تابع عطف، تابع توكید اور تابع بدل۔

(۹۱) سوال۔ تابع نعت کی تعریف کرو۔

جواب۔ تابع نعت وہ تابع ہے جو اپنے سے پہلے اسم کا وصف بیان کرے جیسے جاء رجل عاقل میں عاقل تابع نعت ہے۔ کیونکہ یہ اپنے سے پہلے اسم یعنی رجل کا ایک وصف یعنی عقلمند ہونا بیان کرتا ہے۔

(۹۲) سوال۔ تابع عطف کی تعریف کرو۔

جواب۔ تابع عطف وہ تابع ہے کہ اس کے اور اس کے متبوع کے درمیان

بند

(۸۴) سوال۔ گان اور اُس کے ساتھوں کی خبر پر کیا اعراب آتے ہیں ؟

جواب۔ گان اور اُس کے ساتھوں کی خبر پر نصب آتی ہے۔ جیسے گان ذیید مریضاً میں مریضاً منصوب ہے۔

(۸۵) سوال۔ اراق اور اُس کے ساتھیوں کے اسم پر کیا اعراب آتے ہیں ؟

جواب۔ اراق اور اُس کے ساتھیوں کے اسم پر نصب آتی ہے جیسے اراق ذییداً مریضاً میں ذییداً اسم اراق ہے اور منصوب ہے۔

(۸۶) سوال۔ معرب اسم پر کتنے اور کونسے موقعوں پر جز آتی ہے ؟

جواب۔ اسم پر دو موقعوں پر جز آتی ہے۔ اول جبکہ اُس کے پہلے حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آوے جیسے کتبت بالقلہ میں لفظکم مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے پ جو کہ اسم کو جز دیتی ہے آئی ہے۔ دوم۔ جبکہ کوئی اسم مضاف الیہ ہو جیسے کتاب ذیید میں زید مضاف الیہ ہے۔

(۸۷) سوال۔ حروف جارہ یا حروف جز کونسی ہیں ؟

جواب۔ حروف جارہ یا حروف جز یہ ہیں۔ باء وتاء وكاف ولام وواو ومثداً مذخلاً۔ ربت۔ هاشا۔ من۔ عدا۔ فی۔ عن۔ الی۔ حتی۔ علی۔

(۸۸) سوال۔ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں ؟

حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف آوے عطف کی صورت میں تاج کو معطوف۔ اور متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔
(۹۳) سوال۔ حروف عطف کون سے ہیں؟

جواب۔ حروف عاطفہ یا حروف عطف تین ہیں۔
الْوَاوُ - الِفَاءُ - ثُمَّ - اَمْ - اَوْ لٰكِنْ
لَا اَوْ رَيْلٌ

(۹۴) سوال۔ تاج توکید کی تعریف کرو۔

جواب۔ تاج توکید وہ تاج ہے جو اپنے متبوع کی تاکید کرے یعنی یہ بتا دے کہ متبوع سے مراد متبوع ہی ہے نہ کہ کوئی اور۔ جیسے خَاطِبَتُ السُّلْطَانِ نَفْسَهُ میں لفظ نَفْسَهُ تاج توکید ہے کیونکہ یہ اپنے متبوع یعنی لفظ السُّلْطَانِ کے متعلق بتاتا ہے کہ بادشاہ سے مراد خود بادشاہ ہے نہ کہ اس کا وزیر یا امیر۔

(۹۵) سوال۔ توکید کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب۔ توکید کی دو قسمیں معنوی اور لفظی معنوی توکید سے مراد وہ توکید ہے جو اپنے معنوں سے اپنے متبوع کی تاکید کرے جیسے نَفْسٌ - عَيْنٌ كُلُّ جَمِيعٌ وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں۔ اور لفظی وہ توکید ہے جو اپنے لفظ یعنی دوبارہ آنے سے تاکید کرے جیسے جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ یعنی خود زید ہی آیا۔ اس میں دوسرا زید تاج توکید ہے۔ جو اپنے متبوع یعنی پہلے زید کی تاکید کرتا ہے یعنی لفظ زید کو دوبارہ لاکر یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ زید سے مراد خود زید ہی ہے۔ نہ کہ کوئی اور۔
(۹۶) سوال۔ تاج بدل کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ تاج بدل وہ تاج ہے جو اپنے متبوع کے بدلے میں آوے یعنی اگر فقرہ میں متبوع نہ ہو بلکہ صرف تاج ہو تو کام چل سکے۔ بدل کے متبوع کو مُبَدِّلُ مَزَكَّتے ہیں۔
(۹۷) سوال۔ بدل کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟
جواب۔ تاج بدل کی چار قسمیں ہیں۔

بدل کُلُّ - بدل بعض - بدل اشتغال اور بدل غلط
(۹۸) سوال۔ بدل کُلُّ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل کُلُّ وہ بدل ہے کہ وہ اور اس کا متبوع بالکل ایک چیز ہوں۔ جیسے جَاءَ أَخُوكَ زَيْدٌ یعنی تیرا بھائی جس کا نام زید ہے آیا۔ اب أَخُوكَ اور زَيْدٌ ایک ہی شخص ہیں۔ خواہ جَاءَ أَخُوكَ کہیں یا جَاءَ زَيْدٌ کہیں دونوں شخص ایک ہی ہیں۔
(۹۹) سوال۔ بدل بعض کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل بعض وہ بدل ہے کہ وہ اپنے مبدل مِنہ کا ایک حصہ ہو جیسے دَأَيْمَتُ زَيْدٌ اَيْدِيَهُ میں لفظ يَدُهُ بدل بعض ہے کیونکہ زید کا ہاتھ اس کا ایک حصہ ہے معنی اس فقرہ کے یہ ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا یعنی اس کے ہاتھ کو جبکہ دیکھنے والے نے صرف زید کا ہاتھ دیکھا ہو۔

(۱۰۰) سوال۔ بدل اشتغال کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل اشتغال سے مراد وہ بدل ہے جو نہ تو اپنے متبوع کا کُلُّ ہو نہ بعض۔ بلکہ وہ اپنے متبوع سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو۔ جیسے کوئی شخص زید کو کپڑے سے پکڑ کر گھسیٹے اور کہے جَذَبْتُ زَيْدًا ثَوْبَهُ۔ اس فقرہ میں ثَوْبَهُ بدل اشتغال ہے۔

(۱۰۱) سوال۔ بدل غلط کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل غلط اس بدل کو کہتے ہیں کہ وہ نہ اپنے متبوع کا کل ہو نہ بعض۔ اور نہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہو بلکہ اس کا غیر ہو جیسے جاء زیدٌ بکسرٍ یعنی زید آیا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ لفظ زید غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا۔ اس لئے کہا کہ نہیں بلکہ بکرا آیا تھا۔ پس اس فقرہ میں لفظ بکر زید کا بدل ہے۔ یعنی بدل غلط ہے۔ کیونکہ پہلے غلط لفظ کے بدلہ میں یہ آیا ہے۔

(۱۰۱) سوال۔ اگر کوئی مبنی کلمہ رفع۔

نصب۔ جریا جزم کے موقع پر آوے تو اُسے کیا کہتے ہیں؟

جواب:

جواب۔ اگر کوئی مبنی کلمہ ایسے مقاماً

پر آوے جہاں مُعْرِب کلمہ پر رفع آتا ہے تو اس لئے کہ وہ مبنی ہے اس کے آخری حرف پر رفع کی وجہ سے ضمہ کونہ لائیں گے لیکن یوں کہیں گے کہ یہ رفع کے موقع پر ہے۔ اسی طرح جو مبنی کلمہ نصب یا جزم کے موقع پر آوے تو کوئی تغیر اس میں نہ ہوگا اس لئے اُسے منصوب یا مجرور نہ کہیں گے۔ ہاں یوں کہیں گے کہ یہ نصب اور جزم کے موقع پر ہے۔

(۱۰۲) سوال۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ حروف تہجی میں سے اَلْاَلِف۔

اَلْوَاوُ۔ اَلْیَاءُ۔ یہ تین حرف علت ہیں باقی تمام حروف صحیح کہلاتے ہیں

(۱۰۲) سوال۔ مُعْرِب اسم کے آخری حرف کی حرکت

کا نقشہ لکھو۔

(۱)

جواب۔ اسم مفرد صحیح اور اسم جاری مجرور صحیح اور جمع تکبیر کا رفع بصورت ضمہ یعنی پیش کے نصب بصورت فتح یعنی زیر کے۔ اور جر بصورت کسرہ یعنی زیر کے آتے ہیں۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جیسے زیدٌ اور جاری مجرور صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں ایسی واؤ اور یاء ہو کہ جن پہلے ساکن حرف ہو جیسے دَلُوٌ یعنی ڈول۔ ظَبْيٌ یعنی ہرن

مثالوں کا نقشہ:-

(۱)

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
اسم مفرد صحیح	هَذَا زَيْدٌ	رَبَّيْتُ زَيْدًا	مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
جاری مجرور صحیح	هَذَا دَلُوٌ	رَبَّيْتُ دَلُوًا	مَرَرْتُ بِدَلُوٍ
جمع تکبیر	هَذَا ظَبْيٌ	رَبَّيْتُ ظَبْيًا	مَرَرْتُ بِظَبْيٍ
	هَذَا رَجُلٌ	رَبَّيْتُ رَجُلًا	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ

(۲)

مثلی یعنی مثنیہ جیسے رَجُلَانِ۔ اور مثابہ بالمشابہ جیسے اِنَّسَانٍ یا لفظ کِلَابٍ۔ ان تینوں کا رفع الف کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور نصب اور جر اس یاء کی صورت میں آتے ہیں جس سے پہلے حرف پر نہ برہو۔ مثالیں درج ہیں:-

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
مثنیٰ	جَاءَ دَجْلَانِ	رَأَيْتُ دَجْلَيْنِ	مَرَدْتُ بِرَجُلَيْنِ
مشابہ بالمثنیٰ	جَاءَ اثْنَانِ	رَأَيْتُ اثْنَيْنِ	مَرَدْتُ بِاِثْنَيْنِ
كَلَامًا	جَاءَ كِلَاهُمَا	رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا	مَرَدْتُ بِكِلَيْهِمَا

(۳)

جمع مذکر سالم جیسے مُسْلِمُونَ۔ اور مشابہ بہ جمع مذکر سالم جیسے عَشْرُونَ اور لفظ اُولُو۔ ان تینوں کا رفع بصورت واؤ کے جس کا ما قبل مضموم ہو۔ اور نصب اور جر بصورت یاء کے جس کا ما قبل مکسور ہو۔ آتا ہے۔ نقشہ درج ذیل ہے۔

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
جمع مذکر سالم	جَاءَ مُسْلِمُونَ	رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ	مَرَدْتُ بِمُسْلِمِينَ
مشابہ بہ جمع مذکر سالم	جَاءَ عَشْرُونَ	رَأَيْتُ عَشْرِينَ	مَرَدْتُ بِعَشْرِينَ
اُولُو	جَاءَ اُولُو مَالٍ	رَأَيْتُ اُولِي مَالٍ	مَرَدْتُ بِاُولِي مَالٍ

(۴)

جمع مؤنث سالم کا رفع پیش کے ذریعہ جیسے جَاءَ لَكَ الْمُؤْمِنَاتُ نصب اور جر کے ذریعہ جیسے رَأَيْتُ الْمُؤْمِنَاتِ اور مَرَدْتُ بِمُؤْمِنَاتٍ۔

(۵)

أَبٌ۔ أَخٌ۔ هَمٌّ۔ فُوٌّ اور ذُوٌّ۔ جب یہ پانچ اسم یا متکلم کے سوا کسی اور کلمہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا رفع بذریعہ واؤ کے آتا ہے جیسے جَاءَ اَبُوكَ۔ اور نصب بذریعہ الف جیسے رَأَيْتُ اَبَاكَ۔ اور جر بصورت یاء کے جیسے مَرَدْتُ بِاَبِيكَ

ختم شد

۳۳۹

ماخذ کی حقیقت اور اس کے معلوم کرنے کا طریق

اہل تصریف نے حروفِ الفاظ کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ اول اصل۔ و زاید۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو صرف حروفِ اصلی ہی سے مرکب ہیں۔ اور ان میں زاید حرف کوئی نہیں جیسے ضَرْبٌ کہ لفظ صرف حروفِ اصلی ہی سے مرکب ہے اور زاید حرف اس میں کوئی نہیں۔ اس کے مقابل میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو حروفِ اصلی اور زاید دونوں سے مرکب ہیں۔ جیسے نَعَادِبٌ۔ مَضْرُوبٌ۔ یَضْرِبُ تَضْرِبٌ۔ یَضْرِبُونَ۔ تَضْرِبُونَ۔ کہ ان میں سے تین حرف ض۔ د۔ ب۔ اصلی ہیں۔ اور باقی زاید۔ حروفِ اصلی کو اہل تصریف ف۔ ع۔ ل۔ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً ضَرْبٌ کی ض کو ووف۔ اور د کو عین۔ اور ب کو لام کہیں گے۔ اس اصول سے ناظرین یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے الفاظ خاص ف۔ ع۔ ل۔ اور دوسرے حروف سے مل کر بنے ہیں۔ ان میں سے سولے ان تین حرف کے اور کل حرف زاید ہیں۔ مثلاً اِنْفَعَالٌ۔ اِسْتِفْعَالٌ۔ اِنْفِعَالٌ۔ اِقْتِعَالٌ۔ تَفْعِيلٌ۔ مُفَاعَلَةٌ۔ تَفَاعُلٌ۔ تَفَعُّلٌ۔ فَاعِلٌ۔ مَفْعُولٌ۔ میں ف۔ ع۔ ل۔ اصلی ہیں۔ اور باقی سب زاید۔

حروفِ اصلی ہی کا نام ماخذ بھی ہے۔ پس ماخذ اور حروفِ اصلی کے معلوم کرنے کا طریق ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس لفظ کا ماخذ معلوم کرنا ہو۔ اس میں اول یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس لفظ میں خاص ف۔ ع۔ ل۔ ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو ف۔ ع۔ ل۔ یعنی فعل اس کا ماخذ ہے اور باقی حروف زائد ہیں۔ اگر اس لفظ میں خاص ف۔ ع۔ ل۔ نہیں ہیں۔ تو اس کا مقابلہ اُس کے اس ہونے لفظ سے کرو۔ جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہو۔ پس جو حروف ف۔ ع۔ ل۔ کے مقابل میں ہوں وہ اصلی ہیں۔ اور جو ان تینوں میں سے کسی کے مقابل میں نہ ہوں بلکہ کسی اور ہی حرف کے مقابل

میں ہوں وہ زائد ہیں۔ مثلاً ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قَاتِلٌ کے حروف اصلی کیا ہیں۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہمزون لفظ فَاعِلٌ سے کریں گے جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں قاتل کا قاف فاعل کی فاکہ مقابل میں ہے اور ت عین کے۔ اور ل لام کے۔ پس معلوم ہوا کہ قاتل کے حروف اصلی اور اس کا ماخذ قَاتِلٌ ت لام یعنی قاتل ہے۔ اور قاتل کا الف چونکہ فاعل کی فاعلین لام تینوں میں سے کسی کے بھی مقابل میں نہیں ہے بلکہ اس کے الف کے مقابل میں ہے۔ اس لئے وہ زائد ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ لفظ مُسْتَبْصِرٌ کا ماخذ کیا ہے۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہمزون لفظ مُسْتَفْعِلٌ سے کریں گے جو قاعین۔ لام سے مرکب ہے۔ اس صورت میں چونکہ مُسْتَبْصِرٌ کی میم سین تے یاء۔ نون۔ مُسْتَفْعِلٌ کی میم سین تے یاء۔ نون کے مقابل میں ہے۔ اس لئے یہ سب حروف زائد ہیں اور ب۔ ص۔ د۔ چونکہ ف۔ ع۔ ل۔ کے مقابل میں ہے اس لئے وہ اصلی ہیں۔ اور بَصْرٌ اس کا ماخذ ہے۔ یا مثلاً ہمیں لفظ یُنْفِقُونَ کا ماخذ معلوم کرنا ہے۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہمزون لفظ یُفْعَلُونَ سے کریں گے۔ جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یُفْعَلُونَ کے فاعلین۔ لام۔ کے مقابل یُنْفِقُونَ کا نون۔ فاعل۔ قاف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا ماخذ نَفَقٌ ہے۔ اگر ہمیں اِسْتِكْبَادٌ کا ماخذ معلوم کرنا ہے تو ہم اس کا مقابلہ لفظ اِسْتِفْعَالٌ سے کریں گے۔ اور کِبْرٌ اس کا ماخذ کَابٌ ہے۔

غرض اسی قاعدہ سے ہم اکثر الفاظ کا ماخذ نکال سکتے ہیں۔ ناظرین کو چاہیے کہ جس لفظ کو عربی لغاتہ میں دیکھنا چاہیں۔ قاعدہ مذکور کے مطابق اول اس کا ماخذ معلوم کریں۔ پھر اس کو اُس کے ماخذ کے تحت میں دیکھیں۔ مثلاً قَاتِلٌ کو قَاتِلٌ۔ مُسْتَبْصِرٌ کو بَصْرٌ۔ یُنْفِقُونَ کو نَفَقٌ۔ مَفْعُولٌ کو فَعْلٌ۔ مَقْتُولٌ کو قَتْلٌ۔ مَضْرُوبٌ کو قَتْلٌ۔ اِحْتِنَبُوا کو حَنْبٌ۔ اِحْتَبُوا کو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ + ذٰبِ یَسِّرْ وَ لَا تُعَسِّرْ وَ تَمِّمْ بِالْخَیْرِ۔ آمین نَحْمَدُکَ عَلٰی سُوْلِ الْکَرِیْمِ
سہل و آسان و عام فہم عربی لغات حصہ سوم تعلیم العربیہ الموسوم بہ

جلد ۱

تلخیص العربیہ یا فرہنگ لطیف

ماہ جولائی ۱۹۴۸ء

قاموس طبری لغات جدیدہ

تعلیم العربیہ کے اس تیسرے حصہ میں کثیر الاستعمال۔ آسان۔ عام فہم اور سربہ الحفظ عربی لغات شائع کیا گئی اور عربی زبان کے وہ تمام افعال۔ اسماء۔ حروف اشتقاقی الفاظ اور صیغے جو فارسی اور اردو لٹریچر میں مستعمل ہیں مع معانی تحریر کیے جائینگے (۱) پہلے فعل ثلاثی مجرد اور حسب ضرورت چار حرفی و پنج حرفی افعال یعنی مزید فیہ کے ماضی مضارع اور مصدر کا صیغہ مع معانی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد صلہ کے بدلنے سے معنوں میں ہوتی تبدیلی اور تغیر رونما ہوا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر ان افعال کے تمام اشتقاقی صیغے جو فارسی اور اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے معنوں کی وضاحت کی جائیگی۔ (۲) اس کے بعد ویف و از تمام اسماء کا اندراج ہوگا۔ ہر مفرد اسم کی جمع بھی بتلائی جائیگی (۳) نیز حروف عامہ کا ذکر بھی پوری صراحت سے کیا جائے گا۔ اور ہر حرف عامل کے عمل کی نحوی تشریح و توضیح و تصریح و برج کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ و با اللہ التوفیق۔ وھو نعم المولیٰ و نعم الرفیق علیہ توکلت و الیہ اٰیب و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیمہ

عربی زبان کی یہ لغات اپنی ذات میں ایک بے نظیر چیز ہے کہ آج تک اردو یا فارسی یا دنیا کی کسی زبان میں اس قسم کی لغات مرتب کرنے کا خیال نہک بھی کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ لغات تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے ہی ہے اس لئے ہر روز اس کے ایک صفحہ پر ایک دو بار نظر ڈال لینے اور ماضی و مضارع اور ماضی و مضارع۔ فاعل مقول امر۔ نہی وغیرہ کی گروانوں کی مشق کر لینے سے عربی زبان کی تمام آسان لغت آپ کو یاد اور ازبر ہو سکتی ہے اور عربی زبان کو پڑھنے اور بولنے کے شائقین اس لغات کی مدد سے بائیس ہزار عربی لغت کے معانی۔ مطالب اور لغوی مقاصد سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ علاوہ دیگر علمی فوائد اور ادبی منافع کے حصول کے اس لغات سے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے اور دوسروں کو پڑھانے میں بھی بہت کچھ مدد اور اعانت مل سکے گی اور عربی زبان کو آسان۔ سہل اور سربہ الحفظ بنانے اور ہر مسلمان مرد و عورت بچہ اور جوان کو اس پاکیزہ زبان

(جو ہماری پیاری مذہبی و دینی زبان اور علوم اسلامیہ اور حقائق دینیہ اور معارف قرآنیہ کی مخزن ہے) مانوس کرنے کے لئے یہ بہترین طریق ہے۔

ایسا بھی اگر کوئی مدعی اسلام مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے اور عربی زبان کی واقفیت ہم پہنچانے اور اپنی علمی استعداد اور لیاقت بڑھانے میں مستی اور غفلت کرے اور محض جھوٹے بہانوں سے تحصیل علم کے فریضہ کو طائر ہے اور خود بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے اور اپنی اولاد کو بھی محروم رکھے تو اس گناہ کا بار اس کی گردن پر ہوگا۔

امید ہے اس لغات سے استفادہ اور استفادہ کرنے والے اصحاب اردو فارسی علم و ادب میں حیرت انگیز ترقی کر جاویں گے اور مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف کتب کا کام ان کے لئے فطرتی ملکہ کی موجودگی میں از حد سہل و آسان ہو جائے گا۔ مشرقی زبانوں کے حامل علم اور مولوی فاضل - منشی فاضل - ادیب فاضل یا مولوی عالم منشی عالم - ادیب عالم یا محض مولوی یا منشی یا ادیب کا امتحان دینے والے طلبہ اور طالبات کو اپنے امتحانوں کے نصاب کو خود بخود حل کرنے میں بہت کچھ مدد ملتی رہے گی اور مذکورہ بالا امتحانات کی عربی کتب یا عربی حصص کو بغیر مدد استاد سمجھنے اور ان کے پرچوں کی تیاری کرنے میں بہت سی سہولت یسر آ جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس لغات کے خاتمہ پر عربی بول چال سکھانے اور اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے اسباق - قواعد اور تقریبات (مشقیں) شائع کی جائیں گی۔ نیز حدیث شریف کی جامع کتاب تجرید الاحادیث کا ترجمہ بھی درج ہوگا یہ کتاب حضرت علامہ عبدالرؤف صاحب مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جو حدیث شریف کی سینتالیس کتابوں کو سامنے رکھ کر مدون و مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب میں حروف تہجی کے مطابق دس ہزار احادیث درج ہیں اور صحاح ستہ - بخاری - مسلم - ابن ماجہ - ابوداؤد - ترمذی - نسائی اور موطا حضرت امام مالک اور سند حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اکثر احادیث بھی اس میں آگئی ہیں۔ نیز یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ فقہ حنفیہ کی معتبر کتب پہلے چھوٹی جیسے قدوری پھر بڑی بڑی جیسے ہدایہ ہر دو جلد وغیرہ کے تراجم مع شرح بھی شائع کیے جاویں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

امید ہے کہ ہماری یہ لغات آپ فارین کرام کو سہل - آسان - اور نزدیک کے راستہ سے اس منزل مقصود تک پہنچا دے گی جس سے آپ علوم دینیہ معارف قرآنیہ حقائق حدیثیہ و فنون عربیہ کے پرشوکت محل اور بام ارتفاع پر پہنچ جائیں گے اور آپ کے لئے دین اسلام کے علوم و فنون کا قرآن کریم کے حقائق و معارف کا حدیث شریف کے تراجم اور مطالب کا عربی زبان کی بول چال اور لغات اور محاورات کو سمجھنے کا کام نہایت

آسان ہو جائے گا اور نہ صرف آپ خود ہی ان علمی نعمتوں کو حاصل کر کے مالا مال ہو جاؤ بیگے بلکہ آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان روحانی نعمتوں اور آسمانی آلاء سے متمتع و مستفید بنانے کا موجب ہونگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

اب ذیل میں بعض ضروری امور کا ذکر بطور تشبیہ کیا جاتا ہے۔ جن کو لغات کے مطالعہ کے وقت مد نظر رکھنا لازم ہے۔

(۱) ہم نے سہولت اور اختصار کی خاطر ماضی کو مادہ اور مآخذ اور رُوٹ اور لفظ مفرد قرار دے کر اس کے مضارع اور مصدر کا صیغہ بھی لکھ دیا ہے مادہ کے معنی مصدر ہی کہے ہیں اور مصدر کو مفعول مطلق کی صورت میں نصبی تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے خلاصۃً صرف کی بدولت آپ تمام افعال کی گردان خود کر سکتے ہیں اور ماضی مضارع اور مصدر کے علاوہ ماضی مجہول۔ مضارع مجہول۔ فاعل۔ مفعول۔ امر اور ہی اسم آلہ۔ اسم تفضیل۔ ظرف زمان و ظرف مکان وغیرہ کے صیغوں کی گردانوں کے علاوہ نائب حاضر اور تکلم کی شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ نیز آپ کو خلاصۃً انجو اور ”مادہ اور ماخذ کی حقیقت اور اس کے معلوم کرنے کا طریق“ کے مطابق (جو اس سے پہلے بتلایا گیا ہے) بطور مشق و امتحان بعض الفاظ عربی کا رُوٹ اور لفظ مفرد نکالتے رہنا چاہیے۔

(۲) حروف عاملہ کی وضاحت اپنے اپنے مقام پر خوب اچھی طرح مثالیں دے کر کی گئی ہے۔

(۳) اسماء جدیدہ و قدیمہ مشہورہ کا بھی جا بجا ذکر کیا گیا ہے اور طبی لغات بھی برائے استفادہ درج کر دی گئی ہے۔

(۴) (دو) ایک کلمہ کے لکھنے بعد و لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں صیغوں کے معنی ایک ہی ہیں یا اس اسم کی جمع دونوں طرح آتی ہے (۲) ج سے مراد جمع ہے اور ج جمع سے مطلب جمع الجمع ہے۔ (ث) سے مراد مؤنث اور مت سے مراد مؤنثی ہے۔ ہر مفرد اسم کے جمع کا صیغہ بھی لکھا گیا ہے لیکن معنی صرف مفرد کے بیان کئے گئے ہیں جمع کے معنی خود سمجھ لیں۔

(۵) دقیق عربی مشتقات اور الفاظ جو اردو فارسی میں مستعمل ہیں مع معانی سے لکھے گئے ہیں آسان آپ خود حل کریں۔

(۶) اس لغات میں صرف وہی افعال۔ اسماء کے صیغہ درج ہیں جن کے اشتقاقی صیغے اور الفاظ اردو فارسی میں مستعمل ہیں یا پھر عربی زبان کی بول چال سکھانے کے لئے جن افعال۔ اسماء و حروف کے معانی بتلانے کی ضرورت پڑے گی انہیں بھی ذکر کر دیا گیا ہے وہ دقیق ترین لغات جس کا کوئی مشتق صیغہ اردو یا فارسی میں استعمال نہیں ہوتا اور جو عام طور پر عربی زبان کی مراد کتاب میں بھی استعمال

نہیں ہوتی۔ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ ایسی لغات طالب علم کے دماغ پر بے فائدہ بار ہے۔
(۷) کسی لفظ کے نکالنے وقت ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغہ کو مد نظر رکھیں باقی تمام زائد حروف
کو نظر انداز کر دیں۔ تمام اسماء مشتقہ و جامدہ کو اسی کے ماتحت تلاش کریں۔

(۸) طب میں جو جو مفرد ادویات یا مرضوں کے عربی نام ہیں ان کی تشریح اور خواص بھی درج ہیں تاکہ
طبی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔

(۹) ہمزہ یعنی متحرک آلف دونوں طرح لکھا جاسکتا ہے آیا آ اس لغات میں آیا ا کی شکل
میں لکھا جائے گا۔

(۱۰) نئے عربی اسماء اور ذخیل الفاظ جو دوسری زبانوں (انگریزی فرانسیسی۔ ترکی۔ فارسی اور لاطینی
وغیرہ) سے معرب کئے گئے ہیں۔ نیز علمی اصطلاحات بھی اپنے اپنے موقع پر مذکور ہیں۔

(۱۱) ہر مادہ اور ماخذ اور لفظ مفرد کے آسان اشتقاق جو اردو فارسی میں مستعمل ہیں ان کو آپ اپنے
حافظہ پر زور دیکر نوڈ جمع کر سکتے ہیں۔ مشکل اور دقیق مشتقات سب کے سب لکھ دیئے گئے ہیں۔

(۱۲) جس جس حرف پر ذوا عراب ہیں یعنی زبر و زیر۔ پیش و زبر۔ زیر و پیش اس سے مراد یہ ہے کہ
یہ حرف ہر ذوا عراب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔

(۱۳) ہر اسم کے آخر میں رفعی تنوین لکھی گئی ہے آپ وقف اور کون کے ساتھ بھی پڑھا اور بول سکتے ہیں

(۱۴) صلوات افعال بعض افعال کا صلہ کہتے ہیں۔ جیسے ب۔ ل۔ مین۔ فی۔ الی۔ علی وغیرہ
وغیرہ۔ مثلاً آمَنْتُ بِاللّٰهِ کیں اللہ پر ایمان لایا هُوَ يَمُنُّ عَلَىٰ عِدْوَةٍ۔ وہ اپنے دشمن پر احسان
کرتا ہے ان مثالوں میں آمَنْتُ کے ساتھ ب اور يَمُنُّ کے ساتھ علی بطور صلہ استعمال ہوئے ہیں۔

زیر نظر لغات میں مصدر کے صیغہ کے بعد اکثر جگہ صلوں کے ساتھ معانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہی فعل

کے ساتھ مختلف صلوں کے آجانے سے معانی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً قَالَ لِزَيْدٍ۔ اُس نے زید

سے کہا قَالَ عَنْ زَيْدٍ۔ اس نے زید سے روایت بیان کی۔ قَالَ بِكَذَا وہ اس بات کا معتقد ہوا قَالَ

عَلَىٰ زَيْدٍ اُس نے زید پر بہتان باندھا۔ مَا تَقْوُلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلہ میں تمہاری کیا رائے

ہے؟ اب دیکھ لو قَالَ کے فعل کے ساتھ صلوں کے بدلنے سے پانچ جگہ معنوں میں تبدیلی ہو گئی۔ پس اس

بات کا خاص خیال رکھیں کہ صلہ کے آنے یا صلہ کے بدلنے یا ایک صلہ کے علاوہ دوسرے صلہ کے لانے سے
افعال کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً رَغِبْتُ فِيهِ اس نے اس میں
رغبت کی۔ رَغِبْتُ عَنْهُ اس نے اس سے بے رغبتی کی۔

لغات میں جا بجا صلہ لاکر بدلے ہوئے معنوں کی تصریح کر دی گئی ہے خاص معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے بھی اکثر مصادر کے بعد اس کا صلہ لکھ دیا گیا ہے جیسے اِحْسَانًا کے بعد اِلٰی اِحْسَانِ کرنا۔ اَلْعَمَلُ کے بعد عَلٰی اِنْعَامِ کرنا۔ بعض جگہ دو وصلوں کو اکٹھا لایا گیا ہے جو ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۱۵) یہ لغات ہر ماہ کم از کم سولہ صفحات پر شائع ہوا کرے گی آپ ہر صفحہ کی لغات دو روز میں آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دو روز میں فرصت اور فراغت کے وقت ایک صفحہ پر سرسری نظر بھی ڈال دیا کریں تو بھی کافی علمی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

(۱۶) اب ایک آخری تنبیہ سمجھئے یا گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی ہمت اور کوشش جو صلہ اور جدوجہد کے مطابق اس رسالہ کی اپنے حلقہ اثر میں زیادہ سے زیادہ اشاعت فرما کر مرتب رسالہ کی جو صلہ افزائی فرمادیا اور اللہ پاک کے حضور سے اس مخلصانہ خدمت کا ثواب کثیر و اجر جزیل حاصل کریں۔ جو اَللّٰهُ تَعَالٰی اِحْسَانًا

الملتس لطیف شاہد

اَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلَاثِ لِرَاقِي عَرَبِيٍّ وَالْقُرْآنِ عَرَبِيٍّ وَكَلَامِ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٍّ

(جملہ حقوقی نقل جزو آیا کلاً محفوظ ہیں)

آ۔ ع۔ کیا۔ خواہ۔ بھلا۔ الف کی دو قسمیں ہیں اگر ساکن ہو تو اُسے حرفِ لیلین کہتے ہیں جیسے قَامَ کا الف اگر متحرک ہو تو اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ ہمزہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) ہمزہ استخبار جس سے کسی چیز کے متعلق کوئی خبر دریافت کی جائے خواہ بصورتِ استفہام یعنی بطور سمجھنے کے ہو جیسے اَقْرَأْتُ رَکِیْتُ لِنَظَرِیَّ

یا اَتَجَعَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) کیا تو زمین میں اس کو ظہینہ بناؤں گا جو اس میں فساد برپا کرے بقرہ ۲۵ (۲) بصورتِ تہدید یعنی زجر و توبیخ کے لئے جیسے اَلْعَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ يٰ اٰنَسُ کیا اب تو یہ کرتا ہے

حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے) (۳) تشوید یعنی دو چیزوں کے درمیان برابری کا اظہار کے لئے اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بقرہ ۲ تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے برابر ہے اس لئے

وہ ایمان نہیں لائینگے یہ اَمْسَكَرَ مَعْنَى دِيَا ہے (۴) اِسْتَهْزَاؤُا یعنی مسخر اور اِسْتَهْزَاؤُا یا ہنسی مذاق اور دل کی کے طور پر جیسے اَصْلُوْا تِلْكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَشْرُكَ مَا يَعْجُبُ اَبَاءَنَا هُوَ مَا دَكَّرْتُمْ لِيْ مَا تَجْعَلُوْنَ

ہے کہ تم چھوڑ دو اس کو جسکی عبادت کرتے تھے ہمارے بزرگ (۵) اِسْتَيْطَاءُ یعنی ڈھیل یا ہمت دینے کے لئے جیسے اَلْمُرْيَانِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ سَدِيدًا کیا نہیں آباد

ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کہ عاجزی کریں اور ڈر جاویں ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے۔ وغیرہ وغیرہ تفصیل
..... کتاب لغات القرآن المجید بطرز جدید الموسوم بہ سبیل الفرقان المجید میں ملاحظہ کریں۔

ف۔ متحرک الف یا ہمزہ دونوں طرح لکھا جاسکتا ہے یعنی آ اور ع کی شکل میں۔
آ اور آ۔ حرف نداء قریب کے لئے یا الگ حرف نداء (کسی کو افسوس کے ساتھ یاد کرنا) بھی استعمال ہوتا ہے
آبَجَد۔ لغت میں حساب جمل کے آٹھ مشہور کلمات جو حسب ذیل ہیں:-
آبَجَد۔ هُوَ ذُو حُطَى۔ كَلَمَن۔ سَخَقَص۔ قَرَشَتْ۔ تَخَذَ۔ ضَطَّغ۔ ان اعداد کی
ترتیب حسب ذیل ہے:-

ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰

ث۔ خ۔ ذ۔ ض۔ ظ۔ یغ۔ ناموں وغیرہ کی تاریخیں انہی اعداد کے مطابق نکالی جاتی ہیں۔

آبَدَ یَأْبُدُ أَبْوَدًا۔ ٹھہر جانا۔ رو پڑنا۔ یا اقامت کرنا کسی جگہ یا مقام پر۔ آبَدَ کسی چیز کو دائمی
کر دینا یا ہمیشہ رکھنا۔ آبَدَ جمع اَبَادٌ وَاَبْوَدٌ لانہا زمانہ ہمیشہ رہنے والا زمانہ مستقبل میں غیر معین زمانہ
آبَدُ الْاَبَادِ ہمیشہ ہمیش کے لئے۔ آبَدِیَّتْ ہمیشگی۔ دوام۔ آخرت۔ آبَدِیٌّ ہمیشگی والا ہمیشہ رہنے والا
آبُوکَہ۔ یمن کا ایک بادشاہ جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلا اور مکہ شریف کے قریب مع لشکر ہلاک ہو
گیا جس کے لشکر کو اصحاب انجیل کے نام سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو سورہ الفیل پارہ عمق۔

آبُوؤْسٌ۔ آبنوس۔ ایک سخت و سیاہ لکڑی والا درخت
أَبْهَةٌ وَاَبْهَةٌ۔ بزرگی۔ غرور۔ کبر۔ نخوت۔ شان و
شوکت۔ خوبصورتی۔ چمک۔

آبٌ جمع اَبَاءٌ۔ باپ۔ والد۔ ایجاد کرنی والا۔ اصلاح کرنی والا
أَبُوؤَا۔ باپ ہونا۔

آبَائِیٌّ۔ جسکی نسبت باپ دادا سے ہو جیسے آبائی پیشہ
وغیرہ۔

آبُو۔ آبا۔ آبی۔ حروف علت کے ساتھ باپ کے لئے آتا ہے
آبِی یَابِی اِبَاءٌ اَوْ اِبَاءَةٌ سخت انکار کرنا۔ ناپسند کرنا

نا منظور کرنا۔ اِبَاءٌ۔ ناپسندیدگی۔ نارضا مندی۔ غرور۔

اِبْرَئِیْمُ۔ خالص اصلی اور کھرا سونا۔

اِبْرِیْمُ۔ ریشم۔ لیشمی کپڑا

اِبْرَاهِیْمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔

اِبْوِیْقٌ جمع اَبَارِیْقٌ۔ قبضے والا لوٹا۔ آفتابہ

اِبَاشَةٌ۔ مخلوط جماعت یا گروہ۔

اِبَابِیْلُ۔ جھنڈ کے جھنڈ۔ ڈاروں کے ڈار۔ غول کے غول

اِبْلِیْسُ۔ شیطان۔ ابلیس۔

اِبْنٌ جمع اِبْنَاءٌ وَاِبْنُوْنَ۔ بیٹا۔ لڑکا۔

اِبْنَتْ۔ اِبْنَةٌ جمع اِبْنَاتٌ۔ بیٹی۔ لڑکی

اِبْنَةٌ۔ عیب۔ شرمناک عادت مَأْبُوْتٌ۔ شرمناک عادت والا

اَنْیَ یَاتِیْ اِثْبَاتًا اَنْتَابِ كے صلہ لانا۔ اَنْتِ۔ آنے والا
 اَنْتَابِکَ۔ امیر سرور۔ اَنْتَابِیْق۔ ادب کھلانے والا۔
 اَنْتَرِیْجُ و اَنْتَرِیْجُ و اَنْتَرِیْجُ۔ لیوں۔ نارنگی پکوزہ
 مَا قَمَّ غم کی مجلس۔ فونپ۔ گی۔ اکٹھا ہونے کی جگہ یا نام کا جمع۔
 اَنْیَ یُوْتِیْ اِیْتَاءً۔ دینا۔ عطا کرنا۔ بخشش دینا
 اَنْتَابِیْق۔ مرقی۔ ٹیوٹر۔
 اَنْتَوْنُ۔ استنی
 اَنْثَاتٌ۔ گھریلو ساز و سامان۔ گریستی مال و اسباب
 اَنْثَانُ۔ مال و سامان منقولہ۔
 اَنْثَرُ یَاْثُرًا اَنْثَرًا۔ عزت کرنا۔ احترام کرنا۔ ماننا
 اَنْثَرِیَا اَنْثَرًا اَنْثَرَةً و اَنْثَرَةً۔ بیان یا نقل کرنا (مثلاً)
 اَنْثَرَنِی كے صلہ سے۔ نشانات چھوڑنا۔ اثر کرنا۔ تاثیر کرنا
 اَنْثَرًا اِیْتَادًا۔ ترجیح دینا۔ پسند کرنا۔ فضیلت دینا۔
 اکرام و عزت کرنا۔ پیچھے لگانا۔ چُن لینا۔
 اِشْتَا اَنْثَرِبِ كے صلہ سے۔ ترجیح دینا۔ چُننا۔
 تَا اَنْثَرُ۔ کسی کی پیروی کرنا۔ قدم بقدم چلنا۔
 اَنْتَرِیْجُ اِشَادٌ۔ نشان۔ علامت۔ اثر۔ تیسرک۔
 روایت حدیث شریف کی۔ منقولہ۔ یادگار۔ کھوج۔
 اَلْاِشَادُ التَّسَدِیْمَةُ۔ پرانی یادگاریں۔ تَا اَنْثَرُ اَنْتَرِیْجُ کرنا
 تَا اَنْثَرُ۔ اثر کرنا۔ موثر۔ اثر کرنے والا۔
 مَتَا اَنْتَرُ۔ جو اثر قبول کرے۔
 کَا اَنْثَرُ۔ نقل شدہ۔ حدیث شریف میں آیا ہوا۔
 مَا اَنْتَرُ۔ شاندار عمدہ کام۔ قابل یاد واقعہ۔
 اَنْثَبُ۔ ایضاً
 اَنْثَلُ۔ جھاؤ کا درخت۔ پھرواں (پنجابی)

اَنْتَمَ یَا اَنْتَمَ اِثْمًا و مَا اَنْتَمَ۔ گناہ کرنا۔ جرم کا
 از نکاب کرنا۔ ناجائز کام کرنا۔
 اَنْتَمَ جمع اِثْمًا۔ گناہ۔ جرم۔ قصور
 اِثْمًا و اِثْمًا۔ گناہگار۔ مَا اَنْتَمَ۔ خطا کاری
 گناہ جرم
 اَنْتَمَ یَا اَنْتَمَ۔ جانا۔ شعلہ مارنا
 اَنْتَمَ جمع اِجَابُجُ۔ گرمی۔ جوش۔ آگ (پنجابی) (آگ)
 جیم کاف سے بدل جاتی ہے جیسے آجکل مروج عربی میں
 فَوْقَ الْجَبَلِ کی جگہ فَوْقَ الْکَنْبَلِ ہتے ہیں۔ یا
 جِبِلَانُ۔ گیلان بن گیا ہے۔
 یَا اَنْتَمَ مَا اَنْتَمَ۔ دو طاقتور قومیں جن کا ذکر
 قرآن مجید اور بائبل میں ہے یعنی روس اور برطانیہ
 و اے یہ ان کے مورث اعلیٰ کے نام پر ان قوموں کا نام رکھا
 گیا ہے۔ نیز یہ دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی روس و امریکہ
 آگ سے کام لینے والی ہیں اس لئے بھی یا اَنْتَمَ جابو ج کہا گیا
 اَنْتَمَ یَا اَنْتَمَ اِجَادًا و اِجَادًا عَلٰی كے صلہ سے انعام
 دینا۔ مزدوری دینا۔ کر کے پر دینا۔ ادا کرنا۔ بدلہ دینا
 اِشْتَا اَنْتَمَ۔ مزدور بنانا۔ کرایہ پر لینا۔
 اَنْتَمَ جمع اِجَادُ۔ بدلہ معاوضہ۔
 اَنْتَمَ و اَنْتَمَ و اِجَادًا۔ مزدور۔
 مُسْتَا اَنْتَمَ۔ اِجَادًا۔ زمین ٹیکہ پر لیٹا زمین وغیرہ۔
 مُسْتَا اَنْتَمَ۔ مزارع۔ مُسْتَا اَنْتَمَ۔ مزدور۔ کرایہ پر
 لیا ہوا مکان۔ زمین وغیرہ۔
 اَنْتَمَ۔ مزدور۔ نوکر۔ اُجرت پر کام کرنے والا۔
 اِجَادُ۔ آلو بخارا کا درخت۔ ناشپاتی۔

أَجَلَ يَأْجِلُ أَجَلًا - تاخیر کرنا۔ دیر کرنا۔

أَجَلَ - مبعاد مقرر کرنا۔ بہلت دینا۔

تَأْجَلٌ - بہلت مانگنا (ادائیگی کے لئے)

إِسْتَأْجَلَ - مدت یا مبعاد طلب کرنا

أَجَلٌ - اُن۔ بیشک۔ یہ لفظ حرفِ جواب کہلاتا ہے۔

اور نَعَم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

أَجَلَ جَمْعُ أَجَالٍ - انسانی زندگی کی مدت۔ عمر کا فائدہ

أَجَلَ - سبب۔ وجہ۔ دلیل۔ مِنْ أَجْلِكَ تیری خاطر

تیری وجہ سے۔

الْأَجَلُ وَالْأَجَلَةُ - آئندہ زندگی۔ آخرت۔ دیر سے

آنے والا۔

أَجَلًا أَوْ عَاجِلًا دیر سے یا جلدی۔ مَوْجَلٌ جسکی

مبعاد یا مدت مقرر ہو۔

أَجَمٌ وَ أَجْمَةٌ أَجَمٌ وَ أَجَامٌ جَمَلٌ وَ خَمَلٌ جَمَلٌ

أَحَدٌ وَ وَحْدًا - ایک ماننا۔ ایک جاننا۔ ایک ہونے کا اعلان کرنا

اتَّحَدَ - الگ ہو جانا۔ اکیلا رہ جانا۔

اتَّحَدَ بِ - کسی کے ساتھ مل جانا۔ متحد ہو جانا۔

أَخَذَ جَمْعُ أَحَادٍ مَوْتٌ أَحَدِي - ایک۔ اکائیاں

يَوْمَ الْآخِرِ - اتوار۔ یکشنبہ

اتَّحَادٌ - ملاپ۔ رشتہ۔ أَحَدِيَّةٌ - توحید یکتائی و خدا

أَخٌ - آخ۔ افسوس۔ اُف - نفرت یا تکلیف کے اظہار کا

أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا - لینا۔ قبضہ میں لانا۔

أَخَذَ مَوْأَخَذَةً بِ يَأْخُذُ بِ يَأْخُذُ بِ يَأْخُذُ بِ يَأْخُذُ بِ

سزائش کرنا۔ ملامت کرنا۔ عتاب کرنا۔ گناہ کی سزا دینا۔

اتَّخَذَ - کر دینا بنا دینا کسی چیز پر قبضہ کر لینا بہت چیزوں

ایک کو پسند کر لینا۔

أَخَذَ - گرت۔ سزا۔ أَخَذَ - اعضاء کی بے حتی یا پیوستگی۔

مَأْخُذٌ جَمْعٌ مَأْخِذٌ - وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی گئی ہو۔

منبع۔ کان۔

أَخَّرْتُ أَخْيَرًا - پیچھے رکھنا۔ ملتوی کرنا۔ پیچھے ڈالنا

دیر میں کرنا۔ دیر لگانا۔

تَأَخَّرَ وَ اسْتَأْخَرَ - پیچھے رہ جانا۔ دیر لگا دینا۔

أَخْرَجَ جَمْعُ أَخْرَاجٍ مَوْتٌ أَخْرَاجٌ جَمْعُ أَخْرَاجٍ

أَخْرَاجٌ - اور۔ ایک اور۔ دوسرا۔ دیگر۔ اس کے

سوا۔ دوسری۔

أَخْرَجَ أَوْ أَخْرَجَ - آخر۔ انجام۔ سیرا۔ اختتام

أَخْرَجَ - اخیر صمد۔ انجام۔ قیام۔ يَوْمَ الْآخِرَةِ - قیام

إِلَى الْآخِرَةِ (در الخ) آخر تک۔ ختم تک علیٰ ہذا القیاس وغیر

أَخْرَجَ - منسوب بہ آخرت۔ أَخْرَجَ سَبَّ بَحْثًا - آخری

أَخْرَجَ - انجام کار۔ اخیر پر۔ بِالْآخِرِ

مَوْخَرٌ - بچھلا حصہ پیچھے چھوڑا ہوا۔ آخری حصہ جہاز کا۔

مَتَأَخَّرَ - پیچھے رہ جانے والا۔ دیر لگانے والا۔ سست۔ بھسڈی

أَخِي يَا أَخُو - دوست یا بھائی یا بہن بن جانا

بھائی چارہ ہونا۔

أَخِي مَوْأَخَاةٌ وَ إِخَاءٌ کسی کے ساتھ برا درانہ سلوک

بھائی چارہ کرنا۔ دوست یا بھائی بننا۔ أَخِي جَمْرِي شَمْسِي

ہمینوں میں سے دسواں ہمینہ ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما بحرین مکہ اور انصار مدینہ کے

درمیان مَوَآخَاتٍ یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اور ایک

ہما جراور۔ ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا

اگر پاکستان میں آپ کے اس اُسوۂ حسنہ پر عمل ہوتا

آذی۔ تَأْذِیْتُهُ رَالی۔ پہنچانا۔ ادا کرنا۔ واپس کر دینا
(کسی کا حق)

تَأْذِیْ بِہِ مِنْ حَقِّہِ۔ اس نے اس کا حق ادا کر دیا
آذَاءً۔ فرض کی ادائیگی کسی پوجید یا ذمہ داری کو ادا کر دینا
تکمیل۔ مکمل کر دینا

رَآذ۔ تب۔ جبکہ۔ گزشتہ زمانہ کے لئے ظرف زمان ہے۔
رَآذُ ذَآلِکَ۔ چنانچہ۔ لہذا۔ اِذَا۔ جب۔ اچانک ناگہان
اگر زمانہ مستقبل کا ظرف ہے۔ اس صورت میں جب
اس کے بعد ماضی مطلق ہو۔ اِذَا اَوْ اِذَا ذَآلِکَ۔ اس صورت
میں۔ لہذا اس وقت۔ تب۔

آذُ ذَیُّوٰنٍ۔ سورہ تکوین کا پودا۔ اِذَا تَقَابَ اُیُتُ۔
اِذَا مَا۔ دو فعلوں کو جزم دینا اور شرط کے معنی دینا ہے
جیسے اِذَا مَا تَقَمَّرَ تَقَمَّرَ۔ اگر تو کھڑا ہو گا تو میں بھی
کھڑا ہوں گا۔

اِذْنَ یَا اِذْنَ اِذْ نَارِیْ وَا۔ کان کلتا۔ وہیں ان کو
اِذْنَ اِذْ نَارِیْ۔ لی کسی کام کی اجازت دینا
دینا۔ یا رو کرنا۔ جائز قرار دینا۔

اِذْنَ بِ دَکْسِ بَاتِ کَا۔ علم ہونا۔
اِذْنَ۔ اذان دینا۔ اعلان کرنا۔

اِذْنَ اِیْذَانًا۔ اذان دینا۔
اِشْتَاذْنَ۔ اجازت یا اجازت مانگنا
اندرون کی اجازت مانگنا۔

تَاذْنَ۔ قسم کھانا۔ آگاہ کرنا۔ پ ڈرانا۔
اِذْنَ۔ اجازت۔ رخصت۔ اِذْنَ جِ اِذَاتْ۔ کان
لوٹنے کا دستہ۔

تو کسی قسم کے جھگڑے پیدا نہ ہوتے۔ اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی آسمانی مصلح اور ربانی راہنما کی
اشد ضرورت ہے جو ان میں دوبارہ زمانہ نبوی جیسی موافقہ
پیدا کر دے۔

اِخْوَانٌ وَاِخْوَانٌ۔ بھائی۔ دوست۔ ساتھی
شریک۔

اِخْوَانٌ اَقْوَاتٌ۔ بہن۔ بہیلی۔ ہم شیرہ۔ خواہر
اِخْوَانٌ۔ اسطیل

اِدْبٌ۔ یَا اِدْبٌ اِدْبًا۔ خوب پڑھا لکھا ہونا۔ با سلیقہ
شائستہ ہونا۔ اچھا تربیت یافتہ ہونا۔ دانشمند ہونا۔
اِدْبٌ۔ اچھی تعلیم دینا۔ ادب پڑھانا۔ عمدہ تعلیم و تربیت کرنا۔
سزا دینا۔ اصلاح کرنا۔

تَاذِبٌ۔ اچھی تربیت پانا۔ ہتھب ہونا۔ ادب پڑھنا۔
اِدْبٌ۔ اِدْبٌ۔ خوش اخلاقی۔ سلیقہ۔ عمدہ روش
ادبی مشاغل۔ تہذیب۔ شائستگی

عِلْمُ الْاِدْبِ۔ زبان دانی کا علم۔ علم لغت و صرف و معانی
و بدیع وغیرہ۔

اِدْبٌ۔ علوم و معارف۔
تَاذِبٌ۔ سزا۔ ادب کھلانا۔ اخلاقی تعلیم دینا۔ اصلاح۔

اِدْبٌ جِ اِدْبًا۔ عالم فاضل۔ زبان دانی کا علم رکھنے
والا۔ دانا۔ خوش اخلاق۔ مَوَدِبٌ۔ پیر۔ معلم۔ ٹیوٹر۔

اِدْمٌ۔ انسانوں کا پہلا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنس کے
افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ گندمی رنگ والا گندم گوں۔

اِدْحِیْ۔ منسوب بہ آدم۔ آدمی۔ اِدْمِیَّةٌ۔ انسانیت
شرافت۔

اَذِنُ الْقَارِیَ - پب کئی - مرز خوش یا مرز خوشش۔
 اَذَانٌ - بانگ نماز کے لئے - مَوَدُّنٌ - بانگ دینے والا
 بِرَعْدَةٍ مِّنْهُ مَا ذَمَّنَهُ ذِثٌ - منارہ اذان دینے
 کا جگہ - مَوَدُّنٌ

اَذَى بِأَذَى آذَى - تکلیف پانا - ضرر پانا۔
 تَأَذَى مِنْ تَكْلِيفٍ اُتْمَانًا - نقصان برداشت کرنا۔
 اَذَى بِتَأْذُرٍ اُتْمَانًا -

دکھ

اَذَى وَ اَذَى بِيْتَهُ وَ اَذَاةٌ - نغور نقصان - نغور اضربا
 عَمَلِيٌّ - نقصان وہ - ضرر رساں - دکھ دینے والا۔
 اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - بوزپ کا باشندہ
 اَذَى وَ اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - حاجت - مدعا - اذیت
 عقلمندی

اَذَى بِيْتَهُ - ہنرمندہ ڈیرک - وانا - ماہر - ہوشیار۔
 اَذَى بِيْتَهُ - ہر شے - ترکہ

اَذَى بِيْتَهُ - ہر شے کا پھول - ارغوان کا درخت - مرغ
 اَذَى بِيْتَهُ - تاریخ میں کرنا - تاریخ کی کتاب (ہسٹری) لکھنا
 اَذَى بِيْتَهُ - تواریخ - عید - سن - علم تاریخ - کسی واقعہ
 یا خط کی تاریخ - عینہ کا کوئی دن - سالانہ سرگذشت -

اَذَى بِيْتَهُ - تاریخ لکھنے والا - واقعات کا بیان کرنے والا
 مَوَدُّنٌ - تاریخ دیا ہوا (کوئی واقعہ) - عِلْمُ التَّارِيخِ
 علم واقعات و حوادث مع ان کے وقوعہ کے اوقات
 اور تاریخوں کے تاریخیں - تاریخی

اَذَى بِيْتَهُ - دیو دلہا صنوبر کا درخت - اَذَى بِيْتَهُ - چاول
 اَذَى بِيْتَهُ - اَذَى بِيْتَهُ - زمین - کرہ خاک - سطح زمین
 اَذَى بِيْتَهُ - زمین - زمین

اَذَى بِيْتَهُ وَ اَذَى بِيْتَهُ - آرگن - ایک باجہ کا نام جس کو
 حکیم افلاطون نے ایجاد کیا تھا۔ اب اصطلاح کے طور
 پر کسی جماعت کا قومی آرگن یا اس قوم کی آواز۔ اس کا
 قومی اخبار یا گزٹ کہلاتا ہے اس باجہ کے اندر آدمی بیٹھ کر
 گایا کرتا ہے اور اس سے آواز نکلتی تھی۔ یہی حال قومی اخبار
 کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہوا آواز نکلتی ہے وہ اس قوم
 کی آواز سمجھی جاتی ہے۔

اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - اونچا مزین تخت یا پتنگ۔
 دہن کی مسند یا بیٹھنے کی جگہ۔
 اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - البانیہ میں رہنے والی مسلمانوں
 ایک جنگجو قوم کا نام ہے جس کے بعض افراد دمشق - شام
 میں معزز فوجی عہدہ دار ہیں

اَذَى بِيْتَهُ - شہر عدا - نام قبیلہ - ایک باغ جس کو شہزاد نے
 ملک شام میں بنایا تھا

اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - خرگوش۔
 مِثْرَابٌ - پر نالا - پانی کی نالی - بندرو
 اَذَى بِيْتَهُ - ازار بند باندھنا۔ اپنے آپ کو ازار (تہ بند) سے بھرا
 لینا۔ اَذَى بِيْتَهُ - مدد - کمزوریت - اَذَى بِيْتَهُ - تہ بند - لمبی چادر - اردو
 میں شلوار اور پاجامہ پر بولا جاتا ہے۔

اَذَى بِيْتَهُ - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ یا چچا تارخ کا نام
 اَذَى بِيْتَهُ اَذَى بِيْتَهُ - اَذَى بِيْتَهُ - قریب آجانا - نزدیک آجانا۔
 يَوْمَ الْاِذْفَةِ - قیامت کا دن۔

اَذَى بِيْتَهُ وَ اَذَى بِيْتَهُ - وہ زمانہ جس کی ابتداء نہ ہو جیسے
 اَبَدٌ وہ زمانہ جسکی انتہا نہ ہو اَذَى بِيْتَهُ - قدیمی۔
 اَذَى بِيْتَهُ - سامنے مقابل - آگے - اَذَى بِيْتَهُ - آگے سامنے
 یا بالمقابل - یا آگے آگے

آسَسْ بِنِیَادِ رَکْعَا - آسَاسٌ بِنِیَادِ - مُؤَسَّسٌ - بِنِیَادِ
رَکْعَتِیْ وَالْآسَاسِیُّ - بِنِیَادِی - اَصُولِ -

تَأَسَّسَ - بِنِیَادِ رَکْعَتِیْ جَانَا - تَأَسَّسَ بِنِیَادِ رَکْعَا -
اِسْتَبَاحَ - پَالِکِ کَاسَاکِ -

اِسْتَبَدَّ اِجَّ وَ اِسْتَبَدَّ اِجَّ - سَفِیْدَہِ کَاشْفَرِی -
اَلدَّشْتُ - مَقْعَدِ - چَوڑا -

اِسْتَاذُجَّ اِسْتَاذَةُ - مَاسْرُ مَعْلَمِ - عَالِمِ - پروفیسر -
اِکونٹنٹ جنرل -

اِسْتَبْرَقَ - مَوْتَا اِسْتَبْرَقِیْ کِیڑا - مَوْتَا اِطْلَسِ کِیچُوَابِ -
زَرِیْفَتِ یعنی ریشم اور سونے کی تاروں کا بنا ہوا کپڑا -

اَسَدُجَّ اُسُوْدُ - شِیْرِ شِیْرِی - اَسَا اَلْاَسِدِ - جِذَامِ -
کُوڑہ - مَ اَسَدَاةُ - شِیْرِی - مَ اَسَدَاةُ - شِیْرِوِ وَالِی جِکِ -

اَسْرَیَا سِرَا اَسْرَا وَا سَاَدَا - بَانْدَہِیْنَا - قِیْدِ کَرِیْنَا
اِسْتَا سَرَلِ - اِپنے آپ کو بطور قیدی کے حوالہ کر دینا

اِسْبُو قِیْدِی جَ اُسَا دِی وَ اَسْرَی -
پَا سِرِہِ - سَب کَا سَب - بَلَا اِسْتِثْنَا - پُو رَا کَا پُو رَا

اُسْرُو - پِشِیَابِ کِی بِنْدَش - اُسْرُو اَلْبُو لِ - بُو لِ مَفْقُوْدِ
ہو جانے کی مرض

اِسْرَا اِیْبِلُ - حَنْرَتِ یَعْقُوْبِ عَلِیْہِ السَّلَامِ کَا لِقَبِ
خدا کا بہادر

اَسْرِبُ - سِیْسَہِ یَا سِکَہِ - گِیچھلی ہونی چاندی -
اِسْطَبْلُ - اِصْطَبْلِ - تھان - گھوڑے باندھنے کی جگہ -

اَسْتُرَا لَابُ - اُصْطُرَا لَابِ اِیْکِ اَلہِے جِس کِے
ذریعہ ہیئت دان ستاروں کی بلندی کا اندازہ لگانے

اِسْطَقْسُ - اِصْلِ - جِڑ غِصَہِ یعنی ہوا - پانی - خاک و آگ -
اور کیسے دھوئے ہیں - پوٹا سس - اکل

اُسْطُوْرَاةُ جِجَّ اَسَا طِیْرُ - قِصَہِ - کہانی - سُوْرِی - فِیْنَا
اُسْطُوْلُجَّ اَسَا طِیْلُ - جِنگی جہازوں کا بیڑہ -

اُسْطُوَا فَاةُجَّ اَسَا طِیْنُ - سْتُوْنِ - کَتْمِ - پُوڑھی سِلْ
اَسِیْفَ یَا سَفَ اَسْفَا وَا سَفَا عَلِی - تَمْلِیْسِ ہونا

اِفْوسِ کرنا - غم اور غصہ کرنا -
اَسْفَا اِیْسَا خَا - غِصَہِ دِلَانَا - تَارَا ضِ کرنا یا اَسْفَا

اِسْفَا اِفْوسِ - اِیْسَا وَا اِیْسَبُفَ وَا اِیْسَبُفَ - غم کھا ہونا
اِفْوسِ کرنے والا -

اِسْفَنْجُ - اِسْفَنْجِ - اِسْفَنْجِ - اِسْفَنْجِ - اِسْفَنْجِ
اِسْفَنْدُ - سَفِیْدِ رَاہِی -

اِسْتَقْمُوْرُ وَا سَقْمُوْرُ - رِیْگِ ہونی - اِسْتَقْمُوْرُ
اِسْکَاةُجَّ اَسَا کِلُ - بِنْدِ رَگَاہِ - خَشْکِ پَر اِسْکَا کِرْگِ

اِسْمَرُجَّ اَسْمَا وَا اَسْمَا - اِسْمَرُجَّ
اِسْمَاةُ - شِیْرِی کِے لُحْمِ - بِنْسِ -

اِسْمَا اِیْبِلُ - حَنْرَتِ اِسْمَا اِیْبِلِ - اِسْمَا اِیْبِلِ
جو حضرت مابوہ علیہما السلام کے بیٹوں کے نام تھے

اِسْتُ بَدْبُوْدَارِ - سُرَا ہُوَا (پانی)
اِسْی - مُوَا اَسَاةُ - کِی ہمارے دی کرنا - اِسْتُ اِسْمَا اِیْبِلِ

کَا بَرْتَا وَا کرنا - تَسْلِ دِیْنَا - عَمْمُوَارِہِ کِے
اِسِ مَعْلُجِ - یِکَمِ - اِسِ مَعْلُجِ - اِسِ مَعْلُجِ

حَبِ اَلْاِسِ - تَمْمِ دِیْوِی - جُو فَا اِسِ وَا فِی سِہِ
اَسُوْةُ - نَمُوْنہِ - پِیْرِی - مِثَالِ - تَسْلِ جِس کِے نَقْلِ کِے

اِسْقِیْلُ اَوَا اِسْقِیْلُ - جِنکلی بیاز جو مَحْرَمِ بِلْغَمِ دُوَاہِہِ
اِسے بَحْصَلُ اِنْفَادِہِ بھی کہتے ہیں -

اَسْتَانُ - اِیْکِ بھارتی دار اودا جسے جلا کر سخی یا کھار جاتے
اور کیسے دھوئے ہیں - پوٹا سس - اکل

اَشْتَمَةٌ۔ ایک خوشبودار گھاس جو کاہی کی طرح ہوتی ہے اور
بیل کے درخت کی بڑوں اور پتھروں میں پیدا ہوتی ہے
پھڑیلہ بوتیلوں میں استعمال ہوتا ہے۔

أَصْلُ بَأْسَلٍ أَصْلَةٌ۔ مضبوطی سے جڑھ پکڑنا۔
شریف الاصل ہونا۔ سمجھ کا پختہ ہونا۔

اِسْتَأْسَلُ اِسْتِئْصَالَآ۔ جڑھ سے اکھیڑ ڈالنا۔
أَسْوَلُ اُسْوَالٌ۔ جڑھ۔ اصلیت۔ قاعدہ حسب نسب
خاندان۔ اُسْوَلٌ۔ بنیادی و ابتدائی امور۔

مَا فَخَلْتَهُ أَصْلًا۔ میں نے اس دکام کو قطعاً نہیں کیا
شَرِيفٌ اَلْاَدْبِلُ۔ اچھے خاندان والا۔

اَصْبَلٌ۔ شریف خاندان۔ شام کا وقت پچھلا پھر۔
اَصْلَةٌ۔ یعنی کبیل کے بغیر خود لین دین کرنا۔

اَقْبٌ۔ ہم فعل بمعنی میں ناپسند کرنا ہوں۔ بیقرار ہوتا
ہوں کسی کی حقارت کرنے کے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا
ہے۔ اَقْبُوْهُ۔

يَا فَرِيْحٌ۔ تالو۔ وہ حصہ سر جو بچپن میں نرم و سحرک ہوتا ہے
اَفْرَجٌ وَاَفْرَجَةٌ۔ یورپین۔ فرنجی۔ فَرَجٌ۔ بوی
کار بننے والا۔

اَفْسَنْتَيْنِ۔ فسنتین جو امراض جگر اور معدہ و مرق
میں استعمال ہوتی ہے مجل اور ام باطنی ہے اور سخت کر دہی وانی ہے
اَفْقٌ اَفَاقٌ۔ کنارہ آسمان جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے
اَفَاقٌ۔ بہت سفر کرنے والا۔ سیراج۔

اَفْطٌ اَفْطٌ اَفْطٌ۔ جھوٹ بولنا۔ بہتان باندھنا۔ کسی پر
جھوٹی تہمت لگانا۔ اَفْطٌ۔ جھوٹ۔ بہتان۔ بناوٹ۔

اَفْرَاقٌ۔ بہت جھوٹا۔ اَفْرَاقٌ۔ وہ بستیاں جن کو اشد
زلزلہ سے (تباہ کر کے) اَلْمَآدِیَا۔

اَفِيْوْنٌ۔ اِیْم یا اِیوِن۔ جو خشک ساس کے پودہ سے حاصل
ہوتی ہے اور نشہ آویا اور نیند لانے والی دوا ہے اِیھال
وغیرہ کو روکنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

اَقَاقِيَا۔ کبک کے درخت کا جو مابس اور خشک کرنے والی
دوا ہے۔

اُقْحُوَانٌ۔ گل بابونہ جسے تیل میں شامل کر کے تحلیل اور ام
کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

اَكْدٌ۔ وَاَكْدٌ۔ پختہ کرنا۔ مضبوط اور پکا کرنا۔ اَكْدٌ کرنا
تَاَكْدٌ۔ مضبوط ہونا۔ تصدیق شدہ ہونا۔ اَكْدٌ پختہ کرنا۔

اَكْيَدٌ۔ پکا یقینی۔ محکم۔ تَاَكْيَدٌ۔ پختہ کرنا۔ زور۔ وثوق۔

اَكَلٌ۔ يَأْكُلُ اَكْلًا۔ کھانا۔ فنا کرنا۔ خرچ کر ڈالنا۔
اَكَالٌ۔ بہت کھانے والا۔ اَكُوْلٌ۔ کاکولانٹ

کھانے کے لائق چیز۔ خوراک۔ جو کھا یا جائے۔

اَكْلٌ۔ پھل۔ خوراک۔ اَكْلَةٌ۔ لقمہ۔ نوالا۔

اَكْلَةٌ۔ گلانے والا زخم۔ گوشت کھا جانے والی مرض
اَلْ۔ حرف تعریف۔ اسم نکرہ کو معرفہ بنانے والا حرف۔ اَلْ

تین قسم پر ہے (۱) عہدی جیسے اِسْتَرَيْتُ عَبْدًا اَنْتُمْ
بِعْتِ اَنْعَبَدَ میں نے غلام خریدا۔ پھر اس غلام کو بیچ دیا

(۲) جنسی۔ جیسے خَلِقُ اَلْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا۔ انسان
کمزور پیدا ہوا ہے۔ (۳) بمعنی اسم موصول یہ اسم فاعل

اور اسم مفعول کے شروع میں آتا ہے۔

اَلَا۔ خبردار۔ کیا ایسا نہیں ہے یہ حرف یا تو تنبیہ کا کام
دیتا ہے جیسے اَلَا يَصَاحُ قُمْ۔ خبردار اے دوست کھڑا

ہو جا۔ یا عرض کا۔ جیسے اَلَا تَنْزِلُ بِنَا كَيْمَا بِنَا
پاس نہیں اترینگے یا تخصیص کا جسے اَلَا تَتَّوْبُ وَتَرْتَدُ

عَنْ غِيْثٍ۔ خبردار توبہ کر اور گمراہی سے باز آ جا۔

آلَا أَنْ لَا - یہ کہ نہیں۔ یہ حرف تخصیص کا کام دیتا ہے
جیسے آ لَا تُكْرِمُوا أَبَوَيْكَ - کیوں تو والدین کی عزت
نہیں کرتا؟

لِئَلَّا - تاکہ نہ۔ مبادا کہ

آلَا - بجز اس کے۔ مبادا۔ علاوہ ازیں۔ مگر حرف
استثنا ہے جیسے جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا - زید کے
سوا سب قوم آئے۔ صفت یعنی غیر لُجَّ رِجَالٌ إِلَّا
وَجَالِكَ مِيرَے آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں نفی
کے بعد حصر کا کلمہ جیسے مَا ضَرَبَ إِلَّا ذَيْدٌ - صرف
زید نے ہی مارا۔

الَّذِي وَاحِدٌ وَالَّذَانِ تثنیه الَّذِينَ جَمْعٌ الَّتِي
وَاحِدَةٌ وَالَّتَانِ تثنیه۔

الَّتِي وَ الَّتِي جَمْعٌ مؤنث یہ سب اسم موصول کے صیغے ہیں
جو۔ جس کو۔ جس کا۔ وہ جو۔ جو چیز۔ جو شے کے معنوں میں
أَلِفٌ يَأْتِي الْفَاءَ - اُس کرنا محبت کرنا۔ خوگر ہونا
أَلِفٌ يَتَّقُ يَنْفَقُ وَمُخَدَّرٌ - باہم ملا دینا۔ دوسٹ بنانا
أَلِفٌ الْكِتَابِ - کتاب جمع کرنا۔ تالیف و تصنیف کرنا
مَوْلَفٌ - جوڑنے والا۔ اطلاق کرنے والا۔

أَلِفٌ وَ أَلْفَةٌ - دوستی محبت۔ أَلِيفٌ - دوست۔
إِيْلَافٌ - عہد نامہ۔ اجازت۔ اِتِّتْلَافٌ - دوستی ہوا
أَلْفٌ أَلْفٌ وَأَلْفٌ - ہزار۔

تَأْلِيفٌ - کتاب مجموعہ۔ مَا لَوْفٌ - پیارا۔ واقف
مَوْلَاةٌ - تالیف کی ہوئی (کتاب)

مَلَكٌ مَلَائِكَةٌ - فرشتہ۔ فرشتے

أَلَمْ يَأْلَمْ أَلْمًا - درو مند ہونا۔ دُكَّ اَطَّحَانَا یا محسوس کرنا

تَأْلَمٌ - تکلیف اٹھانا۔ درد کو برداشت کرنا۔ أَلَمَ دُكَّ
أَلْمٌ أَلْمٌ - سخت دُكَّ و درد۔ أَلِيمٌ وَهُوَ أَلْمٌ - تکلیف
اور دُكَّ دینے والا۔ مَتَأْلَمٌ - دُكَّ برداشت کرنا والا۔

أَلْمَاسٌ - ہیرا۔ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر

أَلْمَةٌ - معبود بنانا۔ خدا سمجھنا یا الہ کا مرتبہ دینا۔

أَلْهِيَّةٌ - خدا ہونا۔ معبود والہ ہونا۔ خدائی

إِلَهٌ إِلَهَةٌ - خدا۔ معبود۔ دیوتا۔

أَلِلُّهُ - واجب الوجود کا ذاتی نام ہے جو جامع جمیع صفات

کاملہ ہے اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔

خالق المخلوق۔ رب العالمین۔ خداوند کریم۔

أَلِلَّهُمَّ - اے اللہ تعالیٰ۔

إِلَهِي - میرے معبود الہی۔ منسوب بہ الہ

عِلْمٌ أَلِیْهِتَاتٍ - مذہبی علم۔ علم دین۔ ابد الطبعیات

أَلْوٌ وَ الَّتِي جَمْعٌ الْإِیْلَافُ - عنایت۔ نعمت۔ مہربانی فضل

ایلافاً - شریعت کی اصطلاح میں وہ قسم جو توحیدی مباشرت

کرنے میں مانع ہو۔

أُولَا - اولیٰ جمع مذکر و مؤنث کا اسم اشارہ قریب

بمعنی یہ سب۔

إِلَى - تک۔ حرف جار ہے۔ یہ کہی جاتی ہے کہ

زَمَانِي يَأْمَكَنِي أَتَهَاكَ - اِسْمٌ إِلَى الْمَسَاءِ

اس نے شام تک پر عبادت سارا الی لَبِيتُ وَهْ كَهْرٌ

تک گیا۔ (۳) عَشْدُكَ بِمَعْنَى بِيءِ كَلَامُهُ أَشْهُي وَ

أَخْلَى إِلَى مِنَ الرَّجِيْقِ وَالْعَسَنِ - اِسْمٌ كَلَامٌ مِيرَے

نزویک شراب سے زیادہ مرغوب اور شہد سے زیادہ

میٹھی ہے (۴) مرادف اِلْمٌ بِيءِ اِسْمٌ اِلْيَكْ لَيْسَ

(۵) مرادف مع جیسے ضمہ ہذا الی ذاک یعنی
 مع ذاک (۶) الیک اسم فعل ہے جیسے الیک عنک
 الگ ہٹ۔ اپنے آپ کو مجھ سے دور کر۔ چل دور ہو یعنی
 ابعُد (۷) بمعنی خذ جیسے الیک ہذا اس کو لے
 الی ان۔ یہاں تک کہ۔ الی متی کب تک۔ تاکہ۔
 اَمَّ یَا مَمَّ اَمَامًا وَا مَامَةً۔ آگے آگے چلنا۔ لہری
 کرنا۔ امام بننا۔ کسی لشکر کا جنرل بننا۔
 اُمْرٌجُ اُمَّهَاتٌ۔ ماں۔ والدہ۔ اصل شو یا جڑھ
 اُمُّ الْقُرَیْیِ بکے شریف۔ اُمُّ الدِّمَاحِ جھلتی جس میں
 سر بیٹا ہوا ہوتا ہے۔

اَمَامَةٌ۔ آگے۔ اِمَامَةٌ اِمَامَةٌ۔ امام۔ پیشوا۔ کسی
 علم کا مستند اور مشہور عالم۔ اِمَامَةٌ۔ راہ نمائی۔
 اُمَّةٌ اُمَّةٌ۔ قوم۔ امت۔ قبیلہ۔ گروہ۔ جماعت۔
 اَمَامَتٌ۔ ڈرانے کا کلمہ ہے یعنی اِحْذَرُوا۔ ڈر جا۔
 اُمِّیٌّ۔ منسوب بہ اُمِّ الْقُرَیْیِ۔ اُن پڑھ۔ مکہ کا باشندہ۔
 اُمٌّ یہ حرف عطف ہے اور ہمزہ استفہام کے بعد آتا ہے
 یعنی یا جیسے اَقْرَبُ اُمٌّ بَعِیْدٌ کیا نزدیک ہے
 یا دور اور بَل کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے هَلْ یَسْتَوِی
 الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ۔ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ
 وَالتُّورُ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں بلکہ
 کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں ؟

اَمَّا۔ حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد اکثر قسم کھائی
 جاتی ہے۔

اَمَّا وَاللّٰہِ۔ حرفِ عرض ہے اَمَّا تَنْزِیْلٌ بِنَا۔
 اَمَّا حرفِ شرط و تاکید یعنی لیکن بہر حال۔ جیسے

اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ
 لیکن جو لوگ ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے
 اے پرکھنے والوں میں اور بمعنی تفصیل جیسے اَمَّا زَیْدٌ
 فَزَیْحٌ اے پر زید نے تو فائدہ اٹھایا۔

اَمَّا اِنْ مَّا۔ یا تو۔ یا یہ کئی معنی رکھتا ہے حرف
 تفصیل جیسے اِنَّا هٰذِیْنَا السَّبِیْلُ اِمَّا شَاكِرًا وَا
 اِمَّا كَفُوْرًا (۲) شک و ابہام جیسے جَاءَ اِمَّا زَیْدٌ وَا
 اِمَّا عَمْرٌ وَا (۳) اباحت و تخییر لَعَلَّمُ اِمَّا الْفِیْقَةَ
 وَا مِمَّا الْفِیْقَةَ خَوَاهُ فَقَدْ سِیْکُمْ خَوَاهُ عِلْمٌ لَفْتٌ۔
 اَمَدٌ۔ آخری حد۔ نایت۔ مدت جسکی انتہا نہ ہو۔

عَلَى الْاَمَدِ۔ دائمی طور پر۔ ہمیشہ سے۔
 اَمْرًا یَا مَرَّ اَمْرًا۔ حکم دینا۔ ارشاد کرنا۔ آرڈر دینا۔
 اَمْرًا یَا مَرَّ اِمَارَةً عِنْدَ۔ امیر ہونا۔ سردار یا راہنما
 یا بادشاہ ہونا۔

اَمْرًا۔ حاکم بنانا۔ اختیار دینا۔
 اَمْرًا وَا مَرَّةً فِی۔ کسی معاملہ میں مشورہ کرنا۔
 اِسْتَمْرًا وَا سْتَمْرًا۔ مشورہ کرنا۔ باہم صلاح کرنا۔
 مَوْتَمِرًا۔ مجلس شوریٰ۔ مشورہ کی کونسل۔
 اَمْرًا وَا مَرًا وَا مَرًا۔ حکم فیصلہ۔ طاقت
 اختیار۔ کام۔

اِمَارَةٌ۔ علامت۔ نشان۔ امارت۔ دولت مندگی۔ امیری
 اِمَارَةٌ۔ حکم دینے والی۔ شرارت پر اُکسانے والی۔
 اُولُو الْاَمْرِ۔ علماء۔ فقہاء۔ رؤسا۔ بزرگوں کا حکم دینے والے
 مندوبین لوگ۔ حکام۔

اِمْرًا وَا مَرًا۔ حکم دینے والا۔ سردار۔ شاہزادہ۔ حاکم۔

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ۔

أَمِيرُ الْبَحْرِ - جہازوں کا افسر اعلیٰ۔

مَا مَوْدِرِيَّةٌ - مشن گورنمنٹ کا عہدہ۔ وکیل کا اختیاء۔

مَا مَوْدٌ - حکم دیا ہوا اللہ کی طرف سے حکم دیکر بھیجا ہوا۔

أَمْسٍ - کل کا دن جو گذر چکا ہے۔ قریب کا گذرا ہوا زمانہ۔

أَمَلٌ يَا مَلُّ أَمَلًا - امید کرنا۔ کسی چیز کی امید رکھنا

تَأْمَلُ هُوَ وَفِي تَأْمَلًا - سوچنا۔ غور کرنا۔ سوچ بچا کرنا

أَمَلٌ جِ امَالٌ - امید۔ آرزو۔ مأمولٌ جس امر کی امید ہو

أَمِنٌ يَا مَنُ امَانَةٌ - وفاداری اور خبر خواہ اور امین ہونا

أَمِنٌ يَا مَنُ امْنَا وَا مَنَا وَا مَنَةٌ - امن میں ہونا۔

محفوظ رہنا۔

أَمِنٌ بِ كِسْفٍ شَخْصٍ بِ كِسْفٍ شَخْصٍ لِكَيْ اعْتِبَارُ كَرْنَا -

أَمِنٌ وَا اِثْمَانٌ عَلٰی - امین بنانا۔ بھروسہ کرنا۔

أَمِنٌ يَوْمٌ اِثْمَانًا بِ تَصْدِيقٍ كَرْنَا - یقین لانا۔

ایمان لانا۔

أَمَنَةٌ - اطمینان۔ تسکین قلب۔

أَمِنٌ وَا امَانٌ - حفاظت۔ بچاؤ۔ سلامتی۔

مُؤْتَمِنٌ - جس کو امر میں بتایا جائے یا اعتبار کیا جائے معتبر

أَمَانَةٌ جِ امَانَاتٌ - امانت۔ حفاظت۔ وفاداری

وہ چیز جو کسی کی حفاظت میں سپرد کی جائے۔

اِثْمَانٌ - تصدیق کرنا۔ مان لینا۔ خدا کی وحی پر یقین لانا۔

أَمِينٌ جِ امَانَةٌ - دیانتدار۔ وفادار۔ قابل اعتبار

أَمِينٌ - اہم فعل معنی قبول کرنا یا ایسا ہی ہو۔

أَمْنِيَّةٌ - نڈر ہونا بے خوف ہونا۔ کاموں معتبر

أَمْنٌ جِ امَانٌ - لوندی۔ خادمہ

مَا مَنٌ - امن کی جگہ۔ مؤمنٌ - مصدق۔ ایمان لانا والا۔

مُسْتَأْمِنٌ - جس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہو۔

آن یہ کہ یہ حرف مضارع پر داخل ہو کر زبردیتا ہے اور

مضارع کو مصدر کے معنوں میں تبدیل کر دیتا ہے جیسے

أَنْ تَصُومُوا أَخِيَّو تَكْفُرُوا تَهَارًا رُوزَةً رَكْنَا تَهَارًا

لئے بہتر ہے۔ اور کبھی تفسیر کے لئے بمعنی قول استعمال ہوتا

ہے جیسے اَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمُ أَنْ اَمْثَلُوا

وَاضْبِدُوا - ان میں سے سردار بولے یعنی انہوں نے

کہا پلو اور صبر کرو۔ کبھی اَنْ سے مخفف ہو کر افعال یقین

یا اَنْ سے مشابہ کے بعد آتا ہے جیسے سَلِمَ اَنْ سَبَّكَو

مِثْلُكَ مَرْضًى اس کے جان لیا کہ ضرور تم میرے بعض

بیمار ہونگے۔ زاید بے تاکید جیب وَلَمَّا اَنْ جَسَا عَو

الْبَشِيرُ - اور جب اس کے پاس تو شخیری دینے

والا آیا۔

ان - اگر یہ کئی طریقہ پر استعمال ہوتا ہے (۱) حرف

شروط و فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے ان تجلسن اجلس

اگر تو بیٹھے تو میں بھی بیٹھوں گا۔ (۲) حرف نفی جیسے

اِنْ اَذْرِي اَقْرَبِيَّتِ اَقْرَبِيَّةً مَّا اَنْ سَدَّ اَنْ

میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور۔ (۳) حرف

جائے ہو (۴) اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ

لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَدَيْنَا

حاضر ہوگا۔ (۵) زائد جیب مَا اِنْ ذَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ

کھڑا نہیں ہے۔

ان بے شک۔ بلاشبہ یقیناً یا تحقیق۔ یہ حرف مبتدا

اور خبر پر داخل ہو کر اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے

اور اس کے بعد مستقل جملہ ہوتا ہے۔ جیسے اِنَّ اللّٰهَ
عَفُوٌّ۔ یَقِیْنًا خدا بخشنے والا ہے جب اس کے بعد
دنا ہو تو حصر کے معنی دیتا ہے اور اس کا عمل کچھ نہیں ہوتا
جیسے اِنَّمَا الْمَشْرِکُوْنَ مُجْسِمٌ لِّلْحَرْفِ بِجَوَابِ مَعْنٰی
ہاں جیسے کوئی کہے لَعَنَ اللّٰهُ نَاقَةَ حَمَلَتْنِیْ
اَلْبَیْطَ۔ خدا اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھے تیرے تک
اُكْطَلَا لَی۔ اور اس کو جواب دیا جائے اِنَّ وَاکِبَهَا
ہاں اور اس کے سوار کو بھی۔

اِنَّ۔ اِنَّ کی طرح عمل کرتا ہے اس کے مابعد کا جملہ مفرد
کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اَعْجَبَنِیْ اَنَّكَ تَخْرُجُ
یقیناً تیرے نکلنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ اِنَّمَا۔ حرف
مگر۔ واقعی۔

اَنۡجَحَ نَحۡوَتَ۔ میں۔ ہم۔ ضمیر مرفوع برائے متکلم۔
فِی۔ نَا۔ مجھے۔ ہمیں۔ فعل کے ساتھ ضمیر مفعول۔
اَنۡنَابِنۡنَ۔ خودی۔ لاف۔ گھمنہ۔ غور۔ تکرار۔ اپنے آپ کو
بڑا سمجھنا۔

اَنۡبُوۡبَتَہٗجِ اَنۡا بَیۡتِہٖ۔ پچھرا ٹونٹی۔ نلکی۔
اَنۡبِیۡقُ۔ عرق کشید کرنے کا آلہ۔ قرع انبیق
اَنۡتِ تِ اَنۡتُمَا جِ اَنۡتُم۔ تو ایک مرد۔ ضمیر
مرفوع منفصل برائے مذکر مخاطب۔ اَنۡتِ تِ اَنۡتُمَا
جِ اَنۡتُنِ تِ تو ایک عورت ضمیر مرفوع منفصل برائے
مؤنث مخاطب۔

اَنۡتِ یَاۡنُتِ اَنۡتَا۔ زمانہ ہونا۔ غنٹی ہونا۔
اَنۡتِ۔ مؤنث کا صیغہ بنا دینا۔ مادہ شمار کرنا۔
تَاۡنُتِ۔ مادہ ہونا۔ تَاۡنِیۡتِ۔ مؤنث بنانا۔

اَنۡتِجِ اَنۡتِجِ اَنۡتِجِ اَنۡتِجِ۔ مادہ۔ مؤنث۔ مادہ۔ یحجر۔ زنا
الذَّحِیۡلِ۔ عہد جدید کی کتاب جس میں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے حالات ہیں۔

اَنۡسَ یَاۡنَسُ اَنۡسًا۔ ملنسار ہونا۔ غلیق ہونا۔
اَنۡسَ مَوَاۡنَسَہٗ۔ ملنسار ہونا۔ اِنۡسَاۡنَسَ
سنا۔ دیکھنا۔ اُنۡسَ حاصل کرنا۔

اَنۡسَ اَدَمَ زَادَ۔ اُنۡسُ مِیۡلُ جَوْلِ۔ اِنۡسَانُ جِ اَنۡسَانِ
اِنۡسَانُ الْعَیۡنِ اَنۡکِہِ کِیۡ پَتْلِ۔ مردک چشم

اِنۡسَانِیُّ۔ منسوب بہ انسان۔ خوش اخلاق۔ آدمیت والا۔
اِنۡسَانِیۡتَہٗ۔ آدمیت۔ جو انمردی۔ خوش اخلاقی۔
اِنۡسَہٗ نَاکِتِہٗ لَطِکِ۔ مس۔

اِنۡیۡسُ مَوَاۡیۡسَہٗ۔ دوست۔ مہربان۔ نرم دل۔
اِنۡیۡسُوۡنَ۔ سونف روی۔

اَنۡفَ جِ اَنۡوَفَ۔ ناک۔ اُجھرا ہوا حصہ کسی چیز کا۔
اِنۡفَا۔ ابھی ابھی۔ شروع میں۔ سابق میں۔
اِسۡتِیۡنَاۡفَ۔ کسی چیز کا آغاز۔

اَنۡا مَ وَا اَنۡا مَ۔ مخلوق۔ پیدائش۔ انسانی نسل۔
اِنۡیۡقُ خَوۡبِصَوۡرَتِ۔ جھلس اِسۡتِیۡنَاۡفِ عَدَلَتِ
اَنۡیۡ یَاۡنِیۡ اَنۡا۔ نزدیک ہونا۔ وقت قریب ہونا۔
تَاۡنِیۡ تَاۡنِیۡ فِیۡ اَوۡبِ کِیۡ مَعَاۡلِمِ غَوۡرِ وَاۡنۡکِرَا
آہستہ کرنا۔

اَنۡیۡ جِ اِنۡیۡۡتَہٗ وَاۡاۡنِ۔ برتن۔ تَاۡنِ اَہۡتِکِہٗ
اَنۡیۡ۔ کس طرح۔ کہاں۔ کہاں سے۔ جہاں کہیں۔ جس جگہ
ظرف مکان بمعنی جہاں۔ اَنۡیۡ تَجۡلِیۡسُ اَجۡلِیۡسُ۔ جہاں
توجیے گا میں بھٹوں گا۔ کہاں سے۔ اَنۡیۡ لَکِ ہٰذِہٗ اَلۡ
مجھے یہ کہاں سے ملا

(۲) ظرف زمان بمعنی مثنیٰ یعنی کب (۳) استفہام بمعنی
 کَیْفَ یعنی کس طرح ؟
 آہ و آہا۔ آہ۔ افسوس۔ ہائے درد کے اظہار کے
 لئے کام آتا ہے۔
 أَهْلٌ يَأْهَلُ أَهْوَالًا وَتَأْهَلُ تَأْهَلًا شَادِي
 کرنا۔ بیاہ کرنا۔
 أَهْلٌ بِكَيْسٍ كَوْخُوشٍ أَدِيدٍ يَأْهَلُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَ
 مَرْحَبًا کہنا۔ جو اصل میں صَادَفَتْ أَهْلًا كَا
 غُرَبَاءَ وَوَطِئَتْ سَهْلًا كَا وَعَرَّابٌ یعنی تم
 اجنبیوں میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں میں آگئے ہو اور سنت
 زمین میں نہیں بلکہ نرم اور فراخ جگہ میں پھر رہے ہو۔
 أَهْلٌ جِ أَهْلُونَ گھر والے گھر۔ باپ۔ بیوی۔ بچہ
 ایک جگہ کے لوگ یا رہنے والے۔ رشتہ دار۔ کنبہ ہم پیشہ
 أَهْلٌ لِي كَيْسٍ قَابِلٌ يَأْتِي أَهْلِيَّ گریلو یا تو
 أَهْلِيَّةٌ قابلیت۔ لیاقت۔ اردو اہل والی یعنی بیو
 آؤ۔ یا۔ تا وقتیکہ۔ یہ حرف عطف ہے اور ذیل کے
 معنوں آتا ہے۔ (۱) شَكَّ جِيبٌ يَثْنَانِيَوْمًا أَوْ
 يَوْمَيْنِ ہم ایک دن یا دو دن رہے۔ (۲) اِبْهَامٌ
 جِيبٌ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ يَا تَوْهَمٌ حَقٌّ پَر
 ہیں یا تم (۳) اِبَاحَتٌ جَالِسِ الْعُلَمَاءِ أَوْ الزُّهَادِ
 خواہ علماء کے پاس بیٹھو یا زاہدوں کے پاس۔ (۴)
 تَقْسِيمٌ جِيبٌ الْكَلِمَةِ اِسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ
 کلمہ۔ اسم۔ فعل۔ حرف میں تقسیم ہے (۵) بَعْضٌ وَت
 اِلَى أَنْ كَيْسٍ دِيْنَا ہے۔ جِيبٌ لَا لَزَمَتَكَ أَوْ
 تَوْفِيئِي حَقِّي یعنی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک

تو مجھے میرا پورا حق نہ دے۔ (۶) اِلَا كَيْسٍ مَعْنُوں مِیں
 جِيبٌ لَا تَقْتُلُوا الْعَدُوَّ أَوْ يَخْضَعُ مِیں دشمن سے
 لڑوں گا۔ جب تک وہ طبع نہ ہو جاوے۔
 اِبْ يَأْؤِبُ أَوْ بَا وَمَا بَا وَرَا يَأْؤِبُ لَوْثَانًا
 اَوْ اَبْتُ۔ تائب (بندہ) رجوع برحمت کرنے والا (غدا)
 مَابٌ۔ واپس لوٹنے کی جگہ۔ مرجع۔ ٹھکانا۔
 اَوْجٌ عَلُوٌّ۔ بلندی۔ آسمان کا بلند ترین نقطہ۔ چوٹی۔
 اَدْسٌ بَخْشِيشٌ عَطِيَّةٌ۔ اَوْئِيئٌ بھیریا۔
 اس بوڑھوں۔ مورو کے والے جس کی پتے بہت
 سبز اور تروتازہ ہوتے ہیں اور بچپش۔ اسہال مرض
 میں بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔
 اَفْجُجٌ اَفَاتٌ۔ بلائے آسمانی۔ موت۔ نقصان
 مَوْتُوَةٌ۔ آفت رسیدہ۔
 اَوْضَةٌ۔ کمرہ۔ اَوْتِيَانَتُوْسٌ وہ سمندر جو امریکہ
 اور یورپ کے درمیان ہے۔
 اَوْقِيَّةٌ نصف ظل کا پھٹا حصہ جو تہائی چھٹا تک
 ہوتا ہے۔
 اَكْسِيَجِنٌ۔ ایک قسم کی گیس۔
 اَلٌ نَسْلٌ۔ اہل۔ شریف خاندان۔
 اَلَّةٌ جِ اَلَاتٌ۔ ستارے۔
 اَوَّلٌ جِ اَوَّلٌ رَاوِلُوْتٌ مِ اَوَّلِي ت م
 اَوَّلِيَاتٌ۔ پہلا۔ ابتدائی۔
 اَلْ يُوْوَلُ اَوَّلًا وَمَا لَرَالِي۔ لوٹنا۔ واپس لوٹنا
 مَالٌ۔ مرجع۔ نتیجہ مطلب۔ انجام۔
 اَوَّلٌ وَتَاوَلٌ۔ تاویلًا تفسیر کرنا تشریح کرنا

الْ اِیَالَۃٌ - سردار ہونا کسی جماعت کا حکومت کرنا۔
 اِیَالَۃٌ ج اِیَالَاتٌ - صورت حکومت سیاست۔
 اَوْلَآءٌ وَاوْلَیٌّ - اسم اشارہ جمع قریب کا ہوا لاء
 اسم اشارہ جمع قریب کا اس کے شروع میں (ہا) تنبیہ کے لئے ہے اَوْلِیَّکَ اسم اشارہ جمع قریب
 وبعید کا اس کے آخر کا (ک) خطاب کا ہے اَوْلَآءِ
 وَاوْلَیٌّ - اَلَّذِیْنَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے
 اَوْلَآءِ جمع ہے مجھے ذُو و یعنی والے مفرد اس کا ذُو ہے
 اِنَّ وَاوْاِجٌ - وقت لمحہ اَلْاَنَّ اب اس وقت
 اَبْوَانٌ ج اَبْوَانَاتٌ - محل۔ دیوان خانہ محراب رمرہ
 اَوَّاهٌ - آد بھرنے والا۔ دردمند۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا
 اَهْتَمَّ مَصِیۡتٌ - ج اِهَاتٌ

اَوۡیَ بَاوِیَ وَاوۡیَ اِلٰی - گھر میں اتارنا۔ پناہ دینا۔
 مَاوۡیَ - جائے پناہ۔ رِبۡیۡتُ اَوۡیَ - گیدڑ
 اَیۡتۡرَجُ اَیۡاۡتۡرَ - نشان سلامت۔ قرآن کریم کی آیت
 اللہ تعالیٰ کا نشان و معجزہ۔ آئی (۱) حرف ندا بمعنی
 کیا۔ (۲) اور حرف تفسیر بمعنی یعنی (۳) اے۔ اولے
 اِیٰی سرف جواب۔ لیں۔ بیشک۔ بلاشبہ جیسے اِیٰی
 وَاَللّٰہِ لَآ اَسۡمُ جَدَا۔

اِیٰی - کئی معنوں میں آتا ہے م اِیۡتۡہُ جو کوئی بھی جو
 چیز بھی کون۔ کیا۔ (۱) شرط کے لئے اور اس وقت
 دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ اِیۡآ تَضَرِبُ اَضْرِبُ
 جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ (۲) استفہام کی
 لئے جیسے اَیۡکُمۡ اَنۡیٰ یعنی تم میں سے کون آیا ہے۔
 (۳) اسم موصول جیسے سَلِمَ عَلَآ اِبۡنِہِمۡ اَفۡضَلُ

جو ان میں سے افضل ہے اس کو سلام کرو وہ کمال
 کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے زَیۡدٌ وَّجَلُّ اَیُّ
 زَیۡدٌ یعنی زید کا مل مرد ہے (۵) مناوی معرف باللام
 کے شروع جیسے یَا اَیُّہَا الرَّجُلُ اے آدمی۔ اِیۡآ ضمیر
 منفصل منصوب کے شروع کا حصہ ہے جیسے اِیۡآکَ
 اِیۡآنَا۔ اِیۡآہُ۔ و غیرہ اِیۡآکَ مِثۡلُہُ۔ اُس سے خبر دلا
 رہنا۔ اِیۡآکَ اِنَّ تَفَعَّلَ۔ خبر دلا یہ کام مت کرنا
 اِیۡآ۔ مناوی بعید کے لئے حرف ندا۔

اَیۡدِیۡہِمْ اَیۡدِیۡہِمْ تَابِیۡدًا - مدد دینا۔ پختہ کرنا۔ تاکید کرنا۔
 اَیۡدِیۡہِمْ - قوت۔ طاقت۔ اِیۡآہُ - سہارا۔ طاقت۔
 اَیۡرُ عَضُوۡتِنَا سَل - اَیۡرُ بادشمال۔ اِیۡآہُ - ماہ مئی
 اَیۡسُ یَا اَیۡسُ اِیۡآسَا - س۔ نا امید ہونا۔ مایوس
 اَیۡسُ نا امید۔ مایوس۔ اِیۡآسُ - نا امید
 اَضُّ اَیۡضًا۔ لوٹنا۔ فَعَلَّہُ اَیۡضًا۔ دوبارہ کرنا۔ یعنی
 پر نصب یا تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے یا حال
 کی وجہ سے۔

اِیۡلُ - اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام ہے جس کے معنی غبرائی
 میں قوی اور قدیر کے ہیں۔

اِیۡلُ ج اِیۡآیلُ - بارہ سنگا۔ گوزن
 اَمَرِیۡتُمۡ اَیۡمًا۔ راند ہونا۔ بیوہ ہونا۔ اِیۡمَرُج
 اِیۡآی - راند عورت۔ بیوہ۔ مجرد عورت یا مرد۔
 اِیۡآن - کب اسم شرط ہے اور دو فعلوں کو جزم
 دیتا ہے جیسے اِیۡآن تَضَرِبُ اَضْرِبُ جب تو
 مارے گا میں ماروں گا۔ (۲) اسم استفہام جیسے اِیۡآن
 تَرَجِعُ۔ تو کب واپس آئے گا (۳) متضمن معنی شرط جیسے

آئین تَقِفْ آتِفْ جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ آئِنَمَا۔ جہاں کہیں الی آئِن۔ کہاں کس جگہ۔ کونسی جگہ
 اِیْدِ اسم فعل ہے کسی بات کی زیادتی چاہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

آیْوَاءٌ۔ وَآیْوَا۔ ہاں۔ نَعَمْ

حَرْفُ الْبَاءِ ۲

ب۔ ساتھ۔ اشارہ۔ دوران۔ واسطے۔ بدلے۔ پر
 میں۔ کو۔ بجانب۔ یہ حرف کئی طریقہ سے استعمال ہوتا
 (۱) الصاق۔ جیسے آضَسَكْتُ بِالْعِلَاحِ۔ میں نے
 غلام کو پکڑ لیا (۲) استعانت جیسے كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ
 میں نے قلم (کی مدد سے لکھا) (۳) مَصَانِعَتٌ جیسے
 اذْهَبْتُ بِسَلَامٍ۔ سلامتی کے ساتھ جاؤ (۴) تَرْقِیْتِ
 جیسے سَادَ بِاللَّيْلِ وہ رات کو چلا۔ (۵) بدل
 جیسے بَاعَ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ اُس نے کفر ایمان
 کے بدلے بیچ دیا۔ (۶) تعدیہ جیسے ذَهَبَ اللهُ
 بِنُورِهِمُ الشَّرَّانِ کے نور کو لے گیا (۷) قسم جیسے
 بِاللَّهِ فِدَا كِي قِسْم (۸) سببیت جیسے كَفَيْتُ
 بِزَيْدٍ اِلَّا هُوَ اَل زَيْدِ كِي وجہ سے میں خطر انت ملامت
 (۹) توكید خبر كات منفيہ۔ خبر كین اور ما بین
 كین اور فعل تعجب اور تاكید بلفظ نفس اور عین
 اور كفی کے مفعول اور فاعل میں زاید تاكید کے لئے
 آتی ہے اور سماعی طور پر بندار پر بھی آتی ہے جیسے
 بِعَشِيكَ دُهِمُّ نَجْمٌ وَرَهْمٌ كَافِي هُوَ اِدْرَاذَا

فَبِأَيِّئِيْنَةٍ كَيْ يَعْرِ قِيَا سَا آتِي هِي جيسے مَوْرَجَتْ قَا ذَا
 بِرَيْدِي فِي الطَّرِيقِ حَيْبٌ مِّنْ نَّكَلًا تُوْزِيْدُ رَا سْتَه مِّنْ تَقَا
 اور اس حال میں جس کا عامل منہی ہو جیسے فَمَا
 وَجَعَتْ بِعَنَابِ مِّنْ نَّكَامٍ وَايِسٌ مِّنْ آيَادِ
 مَعْنَى عَلَى جيسے مَن رَا نَأْمَنَهُ بِقِنطَارِ اس
 میں سے بعض کو اگر تو خزانہ کے ڈھیر پر امین بننا
 (۱۱) مَعْنَى عَنْ جيسے فَمَا سَمِعْتُ مِمَّنْ خَبِيْرًا (۱۲) مَعْنَى
 الی نبيہ آخِرِ مِّنْ لِّبْنِي (۱۳) زَايِدٌ جيسے لَمَّا مَنَعْتُ
 بِأَيِّدِيْكَ اِلَى الشَّهِيْكَةِ اِسْمٌ اِسْمٌ كُوْ بِلَا كَت
 میں نہ ڈالو۔

بَايَا۔ بڑا عالم۔ سردار۔ گرجا کا پوپ۔

بَايِلٌ۔ دریائے فرات پر فرو کرنے ایک شہر سیان
 بَابِلِيٌّ۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔
 بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔ جادوگر۔ بَابِلِيٌّ۔ سِمْبِر۔

ذمت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز سے سخت اظہار
ناراضگی کا کلمہ جیسے **بئس الرجل ذیئد**۔ زید
کیسا ہی بُرا آدمی ہے۔

بئس۔ سزا۔ عذاب۔ خوف۔ شجاعت۔ قوت۔ دلیری
لا بئس فی ذلک۔ اس میں کوئی نقصان یا ڈر یا ہرج نہیں
آ رہا۔ **عَلَيْكَ نِزَاكُوتِي** ہرج نہیں بے خوف رہو۔
بئس۔ لڑائی۔ ہمتی۔ معیبت۔ افلاس۔ **بئس**۔ بقلس۔
بئس۔ پورٹ۔ راہداری۔

بئس۔ بازو کی ایک رگ کا نام جسے امراض سر کے کھونٹوں
بائش۔ سر کی ہر رگ کہتے ہیں۔ ایک معزز لقب ہے۔ **بئس**۔
بئس۔ باشکر۔ جو عام طور پر چڑیوں کو شکار کرتا ہے۔
بئس۔ فوج کا چھوٹا افسر۔ **بئس**۔ کپتان۔
بئس۔ میجر۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

عبادت میں لگنا۔ تجرد اختیار کرنا۔ بئس۔ تجرد کی
حالت۔ کنوارا پن۔
بئس۔ تجرد و عورت جس نے شادی نہ کی ہو۔ دنیا سے تعلق
چھوڑ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہونے والی۔ حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مبارک لقب۔ جنہوں نے دنیاوی
مشاغل سے دل نہ لگایا تھا۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔
بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔ بئس۔

بَحَاثٌ - بہت تفتیش و تحقیق کرنا والا۔ صَبَاخَتُهُ - بچہ وغیرہ
 أَبْحَرَ - سمندر میں سفر کرنا۔ تَبَحَّرَ فِي الْعِلْمِ - بہت علم والا
 ہونا۔ مَبْحَرٌ ہونا۔
 بَحْرٌ - بَحْرٌ بِحَارٌ - آبِ بَحْرٍ - سمندر۔ بڑا دریا
 فیاض آدمی وسیع علم والا۔
 بَحْرٌ مَجِيْطٌ - پانچ پرا عظموں کو گھیرنے والا سمندر۔
 بَحْرٌ رُوْمٌ یا بَحْرٌ مُتَوَسِّطٌ - یورپ۔ ایشیا اور افریقہ
 کے درمیان والا سمندر۔
 بَحْرَانٌ - بَہْرُ حَوْضٍ - بَحِيْثَةٌ - جھیل۔ چھوٹا سمندر۔
 بَحْرَانٌ - طبیعت اور مرض کا مقابلہ جس میں دست یا
 پسینہ وغیرہ اگر مرض بدن کو چھوڑ جاتا ہے۔
 بَحْرِيْنٌ - ایک شہر۔ پرشین گلف۔ خلیج فارس۔
 بَحْرِيٌّ - سمندر سے تعلق رکھنے والا۔ مَلَّاحٌ - سمندری
 بَیْحٌ وَ مَخٌ - اسم فعل تعریف اور رضامندی کے لئے
 واہ۔ واوہ۔ شاباش۔ آفرین۔ مَرْحَبَا۔
 بَحْتٌ - نصیب خوش قسمتی۔ اچھا موقع۔ بَحْتٌ
 خَرَّاسَانِ كَيْ اَوْنَكِ
 بَحْتٌ وَ تَبَحْتٌ بَحْتَةٌ - نانہ سے چلنا۔ خود پسندی
 کی چال چلنی۔
 تَبَحْتٌ - نزاکت یا غرور کے انداز کی چال۔ خود پسند
 بَحْرٌ يَبْحَرُ بَشْرًا - بھاپ دینا۔ لاندھی کا بَحْرٌ
 بَحْرًا - منہ بدبو دار ہونا۔
 بَحْرٌ عَلِيٌّ - دھونی دینا۔ بَحْرٌ دَهْوَنِيٌّ - دھونی۔ دھوپ
 خوشبودار سلگنے والی۔
 بَحْرٌ مَنَّةٌ كِي بَدُوٌّ - آ بَحْرٌ بَدُوٌّ - منہ والا۔ تَبَحْتٌ
 بَحْرٌ مَنَّةٌ - بھاپ بنانا۔

بِحَادِجٍ أَبْحَدَةٌ - بھاپ۔ دھواں۔ بَاخِرَةٌ - ج
 بَوَاخِرٌ - دھانی جہاز۔ سِیْمَرٌ
 بَحْرٌ صَرِيْمٌ - ایک دوا کا نام ہے۔
 بَحْسِيْشٌ - عطیہ۔ بلا عومس عطا۔ عربی سرائین یا
 حُلُوَانٌ ہے
 بَحْلٌ يَبْحَلُ بَحْلًا - کنوس ہونا۔ بھیل ہونا۔ ب
 عَلِيٌّ وَعَوْنٌ - رخص ہونا۔
 اِسْتَبَدَّ بِ - خود مختار ہونا۔ اِسْتَبَدَّ اِدَّ - خود مختاری
 ظلم۔ خود سری۔ مطلق العنانی۔
 لَا بَدَّ - ضروری۔ لَا يَدِي - جس کے سوا چارہ نہ ہو
 بَدَأَ يَبْدُوْهُ بَدْءٌ وَ اِبْتَدَاَ اِبْتِدَاءً
 شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔ پہلے کرنا۔ بَدْءٌ اِبْتِدَاءٌ
 ج مَبَادِي - اصل جڑ۔ منبع۔ ابتداء
 يَبْدُوْهُ - ابتدا کرنے والا۔ مَبْدُوْهُ - ابتداء۔ شروع
 کسی فقرے کا۔ جملہ اسمیہ کا مُبْدِئِيَّةٌ - خبر سے جدا ہو جانا
 لفظ۔ (صرف و نحو کی اصطلاح میں)
 بَادَرٌ مَبَادِرَةٌ وَ بَدَا اِدَّ - جلدی سے جانا۔ بھاگ کر جانا
 يَبْدُوْهُ بَدْوٌ - پورا چاند پودھوں میں رات کا۔ کراؤ
 مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔
 جَنگٌ بَدْرٌ ہوتی۔
 يَبْدُوْهُ - جنگ بدر میں شامل ہو جانا۔ اسمی
 بَدْرَةٌ - روپوں کا تھیلہ۔ روپیہ کی بڑی مقدار۔ بَدْرٌ
 بَدْرَةٌ - راہنما۔ راہبر۔ گائیڈ۔ اصطلاح طب میں وہ چیز
 جو دوا کے ساتھ بطور نمونہ و معاون استعمال کی جائے۔ مثلاً
 کوئی شربت۔ عرق۔ دودھ وغیرہ۔

بَدَعَ يَبْدَعُ بَدْعًا - ایجاد کرنا شروع کرنا۔ وجود میں لانا۔
بَدْعَةً - ایجاد و عقیدہ جو ایمان کے خلاف گنہگار جائے۔ ایمان
کے خلاف ہونا عقیدہ۔

بَدِيعٌ - اچنبہ کی بات۔ تعجب انگیز وجود۔ بغیر نمونہ اور مثال
کے پیدا کرنے والا (خدا)۔

عِلْمُ الْبَدِيْعِ - کلام کے سنوارنے اور سجانے کا علم جس میں
منطق، حکمت و غیرہ کا ذکر ہو۔

بَدَّلَ يَبْدُلُ بَدْلًا وَ اَبْدَلُ وَ بَدَّلَ بِ اَوْ مِمَّنْ
بدلنا۔ بدلا لینا۔ بنا کر کرنا۔

تَبَدَّلَ وَ تَبَادَلَا - ایک دوسرے سے باہم زیادہ کرنا۔
اشتبہ بدل۔ ایک چیز دوسری سے بدلے میں دوسری چیز لینا۔
اَبْدَالَ - اولیاء اللہ کا ایک گروہ۔ مُتَبَادَلَا - یا ہمی ضمانت کا
دو طرفہ

بَدَنٌ وَ اَبْدَانٌ - جسم۔ بدن۔
بَدَنٌ يَبْدُنُ بَدَنًا وَ بَادَةً - اچانک آنا۔ اچانک چلنا۔
بَدَاهَةٌ وَ بَدَاهَةٌ - یکایک۔ اچانک۔ اگہاں ظاہری طور پر
بَدِيْهًا وَ عَلَي الْبَدِيْهِيَّةِ - سوچے بات کہنا یا تقریر کرنا۔

بَدِيْهِيٌّ - فوری۔ ظاہری بات جسکی دلیل کی ضرورت نہ ہو
بَدَا يَبْدُو بَدْوًا - ظاہر ہونا۔ کھل جانا کسی کے دل میں
تَبَدَّى - ظاہر ہونا۔ کھلنا۔ باد یعنی صحرا میں جا کر رہنا۔

بَدْوٌ بَادِيَةٌ - صحرا۔ ویرانہ بیابان۔ جنگل۔
بَدْوِيٌّ - بدو۔ خانہ بدوش بادیوں بادیوں جنگل میں رہنے والا
بَادِي التَّرَايِ - ظاہری یا معمولی یا سطحی رائے والا۔

بَدِيْعِيٌّ - بد اخلاق۔ بد زبان۔ بد بیلن۔
بَدْرٌ يَبْدُرُ بَدْرًا - بونا۔ بکھیرنا۔ پھیلانا۔ (علم)

بَدْرٌ مَرَجٌ بَدْرٌ - بیج۔ نسل۔ اولاد۔
بَدْرٌ وَ بَادِرٌ - تیز تیز۔ فصیح و لہجہ کرنا۔ مُبَدَّرٌ
بَدَلٌ - بَدَلٌ بَدَلًا - دینا۔ سخاوت کرنا۔ بَدَلٌ عَطِيَّةٌ -
کلام مُبَدَّلٌ - ردی کلام۔ عام کلام کثیر الاستعمال کلام
بَادِلٌ - سخی۔ فیاض۔ کشادہ دل۔ مُبَدَّلٌ خَرَجٌ كَيْفًا هُوَا
دے والا ہوا۔

بَدْرٌ يَبْدُرُ بَدْرًا - اطاعت کرنا۔ والدین سے حسن سلوک کرنا
بَدْرٌ يَبْدُرُ اَبْرَارًا وَ يَسْرَرَةً - نیکو کار۔ راست باز۔ محسن
والدین کا مطیع۔

بَدْرٌ خَشِيٌّ - بیابان۔ خشک مین۔ بَدْرٌ كَنَمٌ كَيْهَوْنَ
بَدْرِيٌّ - جنگل۔ خشکی پر رہنے والا۔ (جانور) بَدْرَانِيٌّ - بیرونی
بَدْرِيَّةٌ - بَدْرِيٌّ - بیابان۔ صحرا۔

مَبْدُوْدٌ - ایسا کام جس میں کوئی شبہ یا جھوٹ ہو نیک پریر کا
بَدْرٌ اَبْدُرٌ بَدْرًا - پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدم یا مادہ
بَدْرٌ يَبْدُرُ بَدْرًا - خلاصی پانا۔ نجات پانا۔ کسی
بیماری سے اچھا ہو جانا۔

بَدْرٌ تَبْدُرُ بَدْرًا - (دگر نادات) بَدْرٌ شَفَاؤٌ - شفا دینا۔
تَبْدُرٌ اَمِنْ بِيْرَانِيٌّ ظَاهِرٌ كَرْنَا - اشتبہ کرنا۔ بریت چاہتا گناہ
یا قرض سے۔

اَنَا بَدْرٌ مِّنْ كَدِّ اَمِنْ اَسْرٌ بَرِيٌّ هُوَا يَهْدِي لَفْظٌ مَفْرُوْدٌ كَرْنَا
بَدْرٌ اَبْدُرٌ - خلاصی۔ اجازت۔ پاسپورٹ۔ ڈپلوما۔ بَدْرِيٌّ - آزاد۔
بَادِيٌّ - خالق۔ پیدا کرنے والا۔ صحت پانیا۔ بَدْرٌ اَبْدُرٌ - صحت شفا
بَدْرِيَّةٌ - بَدْرِيٌّ - مخلوق۔ تَبْدُرٌ اَبْدُرٌ - خلاصی کا حکم
بَدْرِيٌّ - بربری۔ ملک بربرکار رہنے والا مصر۔ حیش زنجبار کا باشندہ
بَدْرِيَّةٌ - وحشی پن ظلم و استبداد و غیر مہذب کام کرنا۔

بِرْطَبٌ سادگی۔ بَرُوجٌ بَرُوجٌ قلعہ۔ کوٹ۔ گڑھی۔ محل۔
 بَرُوجٌ الْأَفْلَاقِ۔ آسمانی برج جو بارہ کی تعداد میں ہیں۔
 بَرُوجِیسٌ۔ مشنری ستارہ۔ بَارِجٌ وَبَارِجَةٌ۔ شب گذشتہ
 بَارِجٌ۔ گذرا ہوا وقت۔ بَارِجَةٌ أُولَى۔ پہلی رات۔
 بَرْدٌ۔ یَبْرُدُ بَرْدًا أَوْ یُرْوَدُ۔ ٹھنڈا ہونا۔ سردی محسوس
 بَرْدٌ تَبْرِیدًا۔ ٹھنڈا یا سرد کرنا۔ تسکین دینا۔

تَبْرَدٌ۔ ٹھنڈا ہونا۔ بَرْدٌ۔ ٹھنڈ۔ بَرْدٌ۔ اول۔ ڈالہ
 یُرْوَدُ۔ ٹھنڈک۔ بَرْدٌ۔ سردی سے آنکھ ٹھنڈی ہو
 بَرْدٌ مَبْرَدَةٌ۔ ایک دھار بیدار چلدر یا کپڑا بَرَادَةٌ۔
 لوہے وغیرہ کا چورا۔

أَبْرَدٌ۔ کسی کو بطور ایچی بھیجا۔ بَرِیدٌ۔ قاصد۔ ڈاک۔ ایچی
 بَارِدٌ۔ سرد۔ خوشگوار۔ غَنِیمَةٌ بَارِدَةٌ۔ لوٹ جو بغیر لڑائی
 حاصل ہو۔

بَارِدٌ۔ بارود۔ أَبْرَدٌ۔ زیادہ ٹھنڈا صَبْرَدٌ۔ ریتی
 بَرْدٌ یَبْرُدُ بَرْدًا۔ باہر نکلنا۔ ظاہر ہونا۔
 بَارِدٌ مَبَارِدَةٌ۔ مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔ مَبَارِدٌ۔ سامنے
 نکل کر لڑنے والا۔

بَارِدٌ۔ باہر نکلنے والا۔ ظاہر جو مخفی یا مستتر نہ ہو۔
 بَرَادٌ۔ پاخانہ۔ بَرَادٌ۔ چوڑا میدان۔ کنا بیاز قضا حاجت
 بَرَادٌ۔ قضا کے حاجت کیلئے باہر جانا۔ صَبْرَادٌ۔ قضا حاجت
 کی جگہ۔ مفعد۔

بَرَزَحٌ۔ دو چیزوں کے درمیان روک۔ مرنیک بعد جی اٹھنے
 تک کا زمانہ۔

بَرَسَامٌ۔ ذات الجنب۔ ذات القدر۔ سینہ یا پسلی کا ورد۔
 بَرَشٌ۔ جوز مائل۔ وھنورہ۔ بَرَشٌ أَبْلَاهُ أُنْدًا

بَرَصٌ۔ یَبْرُصُ بَرَصًا۔ کورھ یا پھلہری والا ہونا
 أَبْرَصٌ۔ برص کا مریض۔ مَبْرُوصٌ۔ ساقم أَبْرَصٌ۔
 چلیا سہ۔ چھپکلی
 بَرَطْلٌ۔ ٹوپی۔ بَرَطِیلٌ۔ رشوت۔ مستطیل پتھر۔
 بَرَعٌ۔ یَبْرَعُ۔ بَرَاعَةٌ۔ دوسروں سے علم۔ صحت۔
 خوب وقتی میں بڑھ جانا۔ مَتَبَرَعٌ۔ بخشش کرنے والا۔
 بَرَاعَةٌ۔ فضیلت و لیاقت والا ہونا۔

تَبَرُّعَاتٌ۔ عطیات۔ خیرات بہ نیت ثواب۔ ہدیہ جات
 بَرَعُوثٌ ج بَرَاعِیْتُ۔ پشو۔ پشہ۔
 بَرَقٌ۔ یَبْرُقُ بَرَقًا وَبَرِیقًا۔ بجلی کو ندنا روشن ہونا
 بَرَقٌ ج بَرُوقٌ۔ بجلی۔ چمک و مک۔ بَرَاقٌ چمکنے والا
 بَارِقٌ۔ بجلی والا بادل چمکنے والا۔

بَرَاقٌ۔ اس پوپا کا نام جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 شب معراج میں سوار ہوئے تھے۔

بَرَقٌ۔ قلمی شورہ۔ سہاگہ۔ بَرِیسٌ۔ بَرِیقٌ جھنڈا۔
 بَرَقٌ۔ برف چہنا۔ تَبَرَقٌ۔ برف چہنا۔

بَرَقٌ ج بَرَاقٌ۔ عورت کا روپوش ہونا۔ بَرَقٌ
 بَرَاکٌ وَبَارَاکٌ کَا وَکَلَهُ وَفِیْہِ وَعَلِیْہِ بَرَاکَاتٌ
 لے دیا کرنا۔ برکت دینا۔ تَبَرَاکٌ۔ بَرَاکٌ۔

تَبَارَاکٌ۔ بلند رتبہ ہونا۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ زیادتی۔ بَرَاکَاتٌ
 مَبَارَاکٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔

بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔
 أَبْرَامٌ۔ پکارا۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔ بَرَاکَاتٌ۔

مَبْرُومٌ۔ مستحکم یقینی قضا۔ مَبْرُومٌ۔ اہل تقدیر۔
 بَرْمِیلٌ ج بَرَامِیلٌ۔ پیہ۔ گپا۔ بَرْمِیلٌ ج بَرَامِیلٌ۔

بَشَمَلٌ بِشَمَلَةٍ - بِسْمِ اللّٰهِ صَا -
 بَشَّ - بَشَّشٌ - بَشَّاشَةٌ - خوش و خرم و کشادہ رو ہونا
 بَشَّاشٌ - مندہ رو
 بَشَّرَ يَبْشِرُ بِ - خوش ہونا - بَشَّرَ - خوش خبری دینا -
 اِسْتَبَشَّرَ بِ - اچھی چیز پر خوش ہونا -
 بَشَّرَ الْمَرْأَةَ - مجامعت کرنا - ایک کپڑے میں عورت کے
 بَشَارَاتٌ بَشَارَاتٌ بَشْرِي - خوش خبری -
 بَشْرٌ - انسان دنگر مونت واحد جمع استعمال ہوتا ہے -
 بَشْرِيٌّ - انسانی - بَشِيرٌ - خوشخبری دینے والا -
 تَبَشِيرٌ - تبلیغ - بَشَارَتٌ - مَبَشِّرٌ - مبلغ - خوشخبری دینے والا
 الْمَبَشِّرَاتُ - پانی کی خبر دینے والی ہوائیں - تَبَشِيرٌ - ہر
 چیز کا شروع - صبح -
 بَشَاعَةٌ - بد مزہ ہونا - بد شکل بد ہیئت ہونا -
 بَصْرٌ - يَبْصُرُ - بَصَارَةٌ - دیکھنا - سوچنا - ادراک کرنا
 تَبَصَّرَ - غور سے دیکھنا - سوچنا - تامل کرنا -
 اِسْتَبَصَّرَ فِي كَيْسٍ - چیز پر غور کرنا - سوچنا
 بَصْرٌ - بَصْرٌ - بَصَارَةٌ - آنکھ - دیکھنے کی حس - علم -
 يَصْرَةٌ - عراق کا ایک شہر سخت زمین - کنکر والی زمین
 بَصِيرٌ - دیکھنے والا بَصِيرَةٌ - آنکھ - بَصِيرَةٌ - عقل
 تَبْصِيرَةٌ - وہ چیز جو کسی امر کے علم کا ذریعہ بنے -
 بَصَاقٌ - تھوک - بَصَلٌ - پیاز - بَصَلُ الْفَادِ - جنگلی پیاز
 بَضْعٌ وَبِضْعَةٌ - چند رات کا ایک حصہ - تین سے
 نو تک کی تعداد -
 بِضْعَةٌ - دنگر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بَضْعٌ
 مونت کے لئے -

بُرَيْطَةٌ - انگریزی ٹوپی - ہیٹ -
 بُرْهَةٌ - عرصہ - زمانے کا حصہ - بُرْهَمٌ - بُرْهَمَةٌ
 بُرْهَمٌ عَلَى وَعَثٍ - دلیل دینا - تَبْرُوهَنٌ - دلیل سے ثابت ہونا
 بُرْهَانٌ - بُرْهَانٌ - دلیل ثبوت - مُبْرَهَنٌ - واضح
 بُرْأَةٌ - چاقو - چھری - تراشنے کا آلہ -
 بُرْأَةٌ - کپڑا فروخت کرنا - بُرْأَةٌ - کپڑے کی تجارت -
 بُرْدٌ - يَبْرُدُ - بُرْدًا - یونا - بھیرنا دینا - بُرْدٌ - اندھے دینا
 بُرْدٌ - بُرْدٌ - بُرْدٌ - بُرْدٌ - بیچ یا مصالح - بیچنے والا -
 بُرْعٌ - يَبْرُوعٌ - بُرْعًا وَبُرْعًا - سُورج کا نکلنا - بِأَيْحَتَرٌ
 بُرْقٌ - يَبْرُقُ بُرْقًا - تھوکنا - بُرْقٌ - تھوک - رال -
 مِبْرَقَةٌ - پیکدان -
 بَارٌ - بَارِيٌّ - بَارٌ - بُسْتَانٌ - بَسَاتِينٌ - باغ جو فصیلاً ہو
 بَاسُورٌ - بَوَاسِيرٌ - بواسیر کا مرض -
 بَسَطٌ - يَبْسُطُ بَسْطًا - بَهِجَانٌ - بَهِجَانٌ - وسیع کرنا
 اِنْبَسَاطٌ - پھیلانا - خوش ہونا - اِنْبَسَاطٌ - خوشی - مسرت
 مُنْبَسِطٌ - خوش و خرم -
 بَسْطَةٌ - کُشَادَةٌ - وَسْعَةٌ - بَسَاطٌ - فَرْشٌ - دُرُوطٌ
 بَسِيطٌ - مفرد - چوڑی زمین - بَسْطٌ - فراخی - کُشَادَةٌ
 مَبْسُوطٌ - کشادہ - پھیلا ہوا - خوش و خرم -
 بَوْسَطَةٌ - پوسٹ آفس - ڈاک - بَسَاقٌ - تھوک -
 بَاسِقٌ - بلند -
 بَسَلٌ - يَبْسُلُ - بَسَالَةٌ - بہادر و باہمت ہونا لڑائی میں
 بَاسِلٌ - منچلا -
 تَبَسَّمَ وَ اِنْتَسَمَ مَسْرَانًا - بَسَامٌ - بہت مسکرانے والا
 تَبَسَّمَ وَ اِنْتَسَمَ مَسْرَاهُٹ

بِضَاعَةٌ - پونجی - سرمایہ - رأس المال -

بَطَّ - بلخ - بَطَاطَةٌ - آلو -

بَطْوَاءٌ - بَطْوَاءٌ - وَاِبْطَاءٌ - دیر لگانا - آہستگی

کرنا - آہستہ آہستہ ہلنا

بَطْحُ الْحَرَكَةِ - آہستہ آہستہ چلنے والا - سست حرکت والا

اِسْتَبْطَاءٌ - آہستہ یا دیر کرتا ہوا شمار کرنا -

بَطْحَاءٌ - پانی بہنے کی وسیع وادی جس میں ریت اور

باریک باریک لکڑیوں - بَطِيخٌ - تر بوز -

بَيْطَدٌ - جانوروں کا علاج یا لعیندی کرنا - بَيْطَادٌ

سلوتری - ویشرری سرجن -

بَيْطَارِيٌّ - سلوتری کا پیشہ - بَطَارِيَّةٌ - بیڑی - جہاز

بَطْرِيقٌ - بَطَارِقَةٌ - عیسائی فوج کا جرنیل - کاخشتہ

بَطْرِيكٌ - بَطَارِكَةٌ - رئیس گرجا - عیسائیوں کے کسی

گروہ کا مذہبی سردار

بَطَشٌ - يَبْطِشُ - بَطَشًا - سخت پکڑنا - سختی کے ساتھ

بَطَشٌ طَاقٌ - بَطَشَةٌ - سخت گرفت - پورش - جملہ کرنا

بَاطِشٌ - سخت پکڑنے والا -

بِطَاقَةٌ - بِطَائِقٌ - خط چھٹی کارڈ - بیبل -

بَطْلٌ - يَبْطُلُ - بَطْلَانًا - جھوٹا ہونا - بے فائدہ ہونا

بَطَالَةٌ - وَبَطُولَةٌ - بہاوری - بَطْلٌ - سورما - بہاد

اَبْطَلٌ - وَبَطْلٌ - رو کر دینا - منسوخ کر دینا -

بَطَالٌ - کابل - سست بے فائدہ - بے کار -

اِبْطَالٌ - تروید - اَبَاطِيلٌ - لغو باتیں - جھوٹی باتیں -

مَبْطُلٌ - باطل پرست -

بَطْمٌ - وخت تارپین - گندہ ہروزہ کا درخت چیل کا چلوڑہ

بَطْنٌ - يَبْطُنُ - بَطْنًا - بَطُونًا - چھینا - پوشیدہ ہونا

بَطْنٌ - وَ اَبْطُنٌ - ولی دوست بنانا - اندرونی

بَطَانَةٌ - بھیدی - ولی دوست -

بَطْنٌ ج بَطُونٌ - پیٹ - اندرون - درمیان -

بَطِينٌ - بَطِيءٌ - مَبْطُونٌ - پیٹ کی بیماری والا -

اسہال کی مرض والا -

بَاطِنٌ ج بَوَاطِنٌ - اندرون - پوشیدگی - باطنیت

بَعَثٌ - يَبْعَثُ - بَعْثًا - بَعْثًا - کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا -

بَعَثٌ - بَعْثٌ - بَعْثًا - کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا -

يَوْمُ الْبَعْثِ - روز قیامت - اَبَاحِثٌ - بلانے والا

دُورٌ - ذَرِيْعَةٌ - وَجْهٌ - محرک

بَعَثَةٌ - رسولوں کا بھیجنا - مَبْعُوثٌ - بھیجا ہوا

وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ - اور جی اٹھانے کے بعد -

بَعْدٌ - يَبْعُدُ - بَعْدًا - فاصلہ پرست جانا

بَعْدٌ - وَ اَبْعَدٌ - فاصلہ پر ہونا - کسی سے جدا کر دینا

تَبَاعَدٌ - وَ اِسْتَبْعَدٌ - دور ہونا - دور بھجنا یا پانا

بَعِيْدٌ - دُورٌ -

بَعْدٌ - فاصلہ - دُورٌ - بَعْدًا - اَللّٰهُ اَعْلَمُ - ہلاکت

بَعْدٌ - وَ بَعْدًا - پیچھے اور بعد از ان کے

ہے اور مضاف ہو کر استعمال

مضاف الیہ مخذوف ہے اور مضاف الیہ مضاف الیہ

بَعَضٌ - تَبْعِيضًا - جسوں اور خبروں میں تقسیم کرنا

بَعْضٌ - حِصَّةٌ - ٹکڑا - کچھ - بَعْضَةٌ - مجتہد

بَعْلٌ - خاوندم بَعْلَةٌ - خاوند بیوی - ایک بت کا نام

بَعْلَبَكٌ - شام میں ایک شہر کا نام - بَعْدًا - عراق کا

بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ۔ اچھے کام۔ اَلْبَاقِي ہمیشہ رہنے والا ہے۔
بَكَّةٌ۔ مکہ معظمہ کا دوسرا نام قرآن کریم میں۔
بَكَرَ يَبْكُرُ بَكْرًا۔ سویرے اٹھنا نیند سے۔ صبح
سویرے نکل جانا۔

بَكْرَةٌ نَزَاكٌ۔ صبح سویرے۔ بَكْرُجٌ آبُكَادٌ۔ کنواری
بَكَارَةٌ۔ کنوار پن بَاكَوْرَةٌ۔ پہلا پھل۔ ہر چیز کا شروع
بَكْسِمَاءٌ۔ بَكْسِمَاطٌ وَبَقْسِمَاطٌ۔ بکٹ بکلتہ
آبِكُمْ۔ گونگا۔ ج بَكْمٌ۔ مَبِكْمٌ۔ خاموش کر دینے والا۔
بَكِيٌّ يَبْكِيُّ بَكَاءً۔ رونا۔ آنسو بہانا۔ چلانا۔

بَاكٌ م بَاكِيَةٌ۔ رونے والا۔ بَكِيٌّ بہت ہی رونے والا
بَلٌ۔ مگر۔ برخلاف اسکے۔ بلکہ نہیں یوں نہیں فی الواقع
علاوہ اس کے۔ حرف عطف ہے اس سے پہلے کلام
کو نسوخ سمجھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بل سے پہلے حکم کو
واضح کر کے اس کے مابعد زاید چیز بیان کی جاتی ہے
جیسے بَلْ قَالُوا أَضْغَاثٌ أَخْلَاصٌ۔ بَلْ
اِفْتِرَآءٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ۔ یعنی وہ صرف ہی
نہیں کہتے کہ یہ پراگندہ خوابیں ہیں۔ بلکہ اس سے
بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس نے افترا بانڈھا ہے اور
وہ جھوٹا ہے۔

بَلْبِلٌ ج بَلَابِلٌ۔ بَلْبِلٌ۔ لا ٹو۔
بَلْدَةٌ وَبَلْدٌ ج بِلَادٌ وَبِلْدَانٌ۔ شہر قصبہ
گاؤں۔ ملک۔ ولایت۔

بَلْدِيَّةٌ مَبْلُطِيَّةٌ بَلْدِيَّةٌ۔ دیہی شہر سے تعلق رکھنے والا
بَلِيدٌ۔ بیوقوف۔ کُذُوْبٌ۔ بِلَادَةٌ۔ کُذُوْبِيٌّ۔ بیوقوفی۔
بَلُوْدٌ۔ بَلُوْدٌ۔ بلور۔ کرسٹل۔ ایک قسم کا شیشہ بَلُوْدِيٌّ

بَغْتَةٌ اچانک۔ ناگہاں۔ بَكَيْكٌ۔ بُوْعَاذٌ۔ آبنائے۔
بَغِضٌ يَبْغِضُ بَغَاضَةً۔ نفرت کرنا۔ قابل نفرت ہونا
اَبْغَضٌ۔ دشمنی کرنا۔ تَبَاغَضٌ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا
بُغْضٌ۔ دشمنی۔ نفرت۔ عداوت بَغْضَاءٌ وسخت نفرت۔
بَغْلٌ ج بَغَالٌ خَجْرٌ ایسا جانور جس کا ماں باپ علیحدہ جنس سے ہو۔
بَغْيٌ يَبْغِي بَغْيًا۔ تلاش کرنا۔ چاہنا کسی چیز کی خواہش کرنا
بَغْيٌ عَلَى تَعْدِيٍّ کرنا۔ ظلم کرنا۔ بَغْيٌ اَلْاَمَةُ لوندی زنا کیا۔
يَبْغِي اَنْ يُوْنِ ہونا چاہیے۔ یوں مناسب ہے۔
اِبْتَغَى اِبْتِغَاءً چاہنا۔ تلاش کرنا۔ طلب کرنا۔
لَا يَبْغِي۔ لائق نہیں۔ مناسب نہیں۔

کَمَا يَبْغِي جیسا کہ چاہیے۔ بَغْيٌ بے انصافی۔ نافرمانی۔
بَغَاءٌ زنا۔ بَغْيٌ ج بَغَايَا۔ کچنی۔ زانیہ عورت۔ باغ چاٹو والا
بَغْيٌ مَبْرُوفٌ بَقِيَّةٌ بَقِيَّةٌ۔ بَقِيَّةٌ۔ کپڑوں کی گٹھڑی۔
بَقْرٌ يَبْقُرُ بَقْرًا۔ بھاڑ دینا۔ بَاقِرٌ کھولنے والا۔
بھاڑ دینے والا۔

بَقْرَةٌ۔ گائے۔ جَوْعُ البَقْرِ۔ سخت بھوک کی بیماری
بِس کا مریض سیر نہیں ہوتا
بَقِيَّةٌ ج بَقَاعٌ۔ زمین کا قطعہ۔ جگہ۔ پست زمین۔
بَقِيْعٌ مختلف قسم کے درختوں والی جگہ۔ جَنَّةُ البَقِيْعِ

مدینہ شریف کا قبرستان
بَقْلَةٌ سَبْرِيٌّ۔ بَقْلَةٌ اَلْحَمَقَاءُ۔ خرفہ۔ بَقَالٌ
سبزی فروش

بَقْمٌ۔ جھپٹ۔ سَرخ زنگ۔ پتنگ کی لکڑی جو خون کو کٹی ہو
بَقِيٌّ يَبْقِي بَقَاءً ہمیشہ رہنا۔ ثابت رہنا۔ رہنا رہنا
اَبْتَقَى۔ باقی رکھنا۔ بَقَاءٌ یا بَقِيَّةٌ۔ باقی ماندہ۔

بَا مَبَا۔ بھنڈی توری۔ بُنَّ۔ قہوہ کا درخت یا پھل۔ کافی
 بَنَجٌ بَهَنَجٌ بِنَانٌ۔ انگلیوں کے پورے۔ بَنَجَكِشْتٌ لَوْنٌ
 بَنَدَدٌ بِنَادِدٌ۔ بند گاہ۔ بِنْدُو قَبِيَّةٌ۔ بندوق۔
 بِنَصْرٌ۔ چھنگل کے ساتھ کی انگلی۔ بِنْفَسِجٌ۔ بنفشہ
 بِنِي بِنِي بِنَاءٌ وَبِنْيَانًا۔ بنانا۔ تعمیر کرنا (مکان)
 بِنَاءٌ جِ آئِنِيَّةٌ۔ مکان۔ عمارت۔ گھر۔ بِنَاءٌ عَلِيمٌ بِنْدَا
 بِنِيَّةٌ۔ جسم کی بناوٹ۔ ڈھانچہ۔ بِنْيَانٌ عِمَارَتٌ
 بِنَاخِي۔ بنانے والا۔ پنبار رکھنے والا۔
 مَبْنِيٌّ۔ بنایا ہوا۔ تعمیر کیا ہوا۔ نحو کی اصطلاح میں وہ
 کلمہ جس کا اعراب ہمیشہ یکساں رہے اور نہ بدلے جو مگر یہ ہے
 اِسْتَجَّ اَبْنَاءٌ وَبَنُوهُنَّ۔ بیٹا۔ لڑکا۔ متبنیٰ۔ بولا ہوا
 مَبَاتِي۔ عمارتیں۔ اِبْنَةٌ وَبِنْتُ جِ بِنَاتٌ بِنِي لَوْنِي
 بَهْتٌ يَبْهَتُ يَهْتًا وَيُهْتَانًا حَيْرَانٌ هَوَانٌ هَكَاءٌ يَهْرُجَانَا
 بَهْتَانٌ۔ جھوٹ۔ الزام۔ دروغ۔ افتراء۔ بَهْتَانٌ بَهْتَانٌ
 بَهَجٌ يَبْهَجُ بَهَجَةً خَوْشٌ كَرَانَا مَسْرُورٌ نَابِهَجَةٌ خَوْشِي
 اِبْتِهَاجٌ۔ خوشی منانا۔ مَبْتَهَجٌ۔ خوشی منانے والا۔
 بَهْرٌ يَبْهَرُ وَبَهْرًا۔ چمکانا۔ باہر لگانا۔ بَهْرٌ بَهْرٌ
 بَهْرَمَانٌ۔ زرد رنگ کا یا قوت بڑھانے والا۔ بَهْرَمَانٌ بَهْرَمَانٌ
 بَهْتٌ۔ چھپ۔ جسم پر دھانچہ۔ بَهْتٌ بَهْتٌ
 بَهْلٌ يَبْهَلُ بَهْلًا۔ بھلا۔ بھلا ہونا۔ بَهْلٌ بَهْلٌ
 مَبَاهِلَةٌ۔ ایک دوسرے کی ہلاکت کی دعا کرنا۔ بَهْلٌ بَهْلٌ
 اِلَى اللّٰهِ اس خدا سے عاجزی اور گرا گرا کر دعا کی مسدود
 اِبْتِهَالٌ تَضَرُّعٌ سے دعا کرنا
 بَهْلُولٌ بہت ہنسنے والا۔ خندہ رو۔ بَهْلُولَانٌ بَهْلُولَانٌ

آبِلَسٌ يَابُوسٌ هَوَانٌ۔ حیران و پریشان ہونا۔ اِبْلِسٌ
 شیطاں کا علم جنس ہے۔

بَلَسَمٌ۔ روغن بلسان۔ بَلَسَانٌ۔ اس کا روغن خوشبودار
 ہوتا ہے تحلیل اور ام کے کام آتا ہے۔ اور سوزاک کی بیماری
 میں استعمال ہوتا ہے۔

بَلُوطٌ۔ شاہ بلوط یا اس کا پھل جو محقق دوا ہے
 بَلَعٌ يَبْلَعُ بَلْعًا وَابْتَلَعَ نَكْلٌ لِيْنًا۔ جذب کرنا۔
 بِالْوَعَةِ بَدْرُو۔

بَلْعَمٌ۔ بہت کھاؤ۔ پیٹو۔

بَلَّغٌ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلَاغًا۔ پہنچنا۔ سن بلوغ کو پہنچنا۔
 بَالِغٌ فِي كِسْفٍ امْرِيٍّ مَبَالِغَةٌ كَرَانَا۔ بِلَاغَةٌ۔ فصیح و خوش
 بیان ہونا۔

بَلَّغٌ آبْلَغٌ۔ پہنچانا۔ اطلاع دینا۔ بَالِغٌ پوری عمر کا آدمی
 بَلِيغٌ۔ شیریں بیان۔ صاف اور مؤثر تقریر کرنے والا
 بَلَاغٌ۔ پیغام۔ مَبْلَغٌ۔ رقم۔ انتہائی حد۔

مَبْلَغٌ۔ خدائی پیغام کو پہنچانے والا۔ تبلیغ کرنا۔ بَلَّغٌ
 بَلْعَمٌ۔ کف۔ اطباق کے نزدیک ایک خلط کا نام جو ستر تر ہی
 آتَلَقٌ۔ سیاہ و سفید اغوں والا۔ زنگارنگ

بَلَّةٌ يَبْلُو بَلَاءَةً۔ سادہ لوح ہونا۔ بیوقوف ہونا۔
 آبَلَةٌ جِ بُلَّةٌ۔ سادہ لوح۔ بیوقوف۔ احمق۔

بَلَا يَبْلُو بَلَاءً وَرَابْتَلَى۔ آزمائش کرنا۔ جانچنا۔
 حقیقت معلوم کرنا

بَلِيَّةٌ وَبَلْوَى جِ بَلَا يَأْمُصِيْبَةٌ۔ آزمائش۔ بَلَاءٌ
 مُبْتَلَى۔ مصیبت زدہ۔ ابتلا یا آزمائش میں گرفتار۔

بَلِيٌّ۔ حرف تصدیق ہے بمعنی ہاں۔ بِمِـ۔ کس طرح۔ کیوں۔

بَشَرٌ أَبْهَمٌ مُشْتَبِهٌ هُونًا - مُبْهَمٌ يَأْخُكُ الْهُونًا
 بَهِيمَةٌ - پارہا یہ - بَهِيمِيَّةٌ جِوَانِيَّتٌ وَشِيَانٌ چھپانا
 أَبْهَامٌ - پوشیدہ کرنا - غَيْرٌ وَاضِحٌ رُكْحَانٌ - شک میں ڈالنا
 سَبْهَمٌ - مخفی - پوشیدہ - مشکوک - غیر معلوم
 بَهَاءٌ - بَهْوٌ - بَهَاءٌ - خوبصورت ہونا - خوبصورتی سے چمکانا
 بَهَاءٌ - خوبصورتی - چمک دکھانا - رونق - شان - بَهْمٌ - چمکانا
 خوبصورت

أَبْهَمٌ - بہت چمکانا اور خوبصورتی سے بَابُ جِ آتِوَابٌ دروازہ
 بَوَابٌ - دربان - بَابِئَالِي سُلْطَانِ مَعْظَمٍ - ترک بادشاہ کا لقب
 أَبَاحٌ يَبِيحُ - أَبَاحٌ - مباح ٹھہرانا - جائز قرار دینا
 أَبَاحٌ بِيْ مَدِينِي - دین سے بے قیدی اور لاپرواہی
 بَوَاحٌ - کھلم کھلا - آشکارا -

بَوَاقٌ - بوزک اسیڈ - بَاذٌ - باز - بُوَسِيْدٌ - بوا سیر مرض
 بُوَسِيْطَةٌ - ڈاک خانہ - بُوَسِيْطَةٌ - کٹھالی - بُوَسِيْطَةٌ - بوسہ
 أَوْبَاشٌ - بازاری لوگ - بُوَقٌ - بگل - تری - بجانے کا سنگ
 بَالٌ يَبُوْلُ بُوَلًا - پیشاب کرنا - بُوَلٌ - پیشاب
 بُوَمٌ - اُوَلٌ - بُوَرِيْصَةٌ - بِلٌ - چمک قبض الوصول - بَشِيْرٌ
 بُوَلِيْسٌ - پولیس - يَانٌ - مصری بید کا درخت -

بَاهٌ - شادی - قوت مردی بٹھہنی - مردانہ طاقت بڑھا کر
 يَاتٌ يَبِيْثُ يَبِيْثًا - رات گزارنا - شب باش ہونا -
 بَيْتٌ - گھر - مَبِيْثٌ رات گزارنے کی جگہ - بِيَاثٌ - شجر
 يَبْدُقٌ - شطرنج کا ہرہ جس کو پیادہ کہتے ہیں -

بَاضٌ يَبِيضٌ - بَيْضًا - انڈے دینا بَيْضٌ سفید کرنا
 بَيْضٌ زَهْرٌ مِيْطَا تَسْلِيَةٌ - بِيَاضٌ - سفیدی - نوٹ بگ
 بَيْضَةٌ - نڈا - بَيْضُوِيٌّ - انڈے کی طرح گول - بِيَاضٌ
 سفیدی

ت کی طرح استعمال ہوتی ہے (۱) فعل ماضی کے
 آخر میں متکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے ذہبت میں
 گیا - ذہبت تو گیا - ذہبت تو گئی وغیرہ وغیرہ
 دس فعل ماضی کے صیغہ واحد غائب میں مؤنث کی علامت
 جیسے ذہبت وہ گئی -

(۳) فعل مضارع مخاطب و مؤنث غائب کے شروع میں
 علامت مضارع جیسے تذهب وہ جاتی ہے یا تو جانا ہے
 تذهبين تو جاتی ہے -

(۴) اسم کے آخر میں علامت ثانیث جیسے قَائِمَةٌ
کھڑی ہونے والی۔

(۵) جنس بھی کے واحد کے لئے جیسے شَجَرَةٌ ایک

(۶) مبالغہ کے لئے جیسے عَلَا مَنَةٌ بہت ہی جانے والا

(۷) قسم کے لئے جیسے تَاللّٰہِ خدا کی قسم۔ میں خدا کی قسم
کھاتا ہوں۔

تَامَتْ تَانِ جَمْعُ أَوْلَادٍ مَوْتِ كَلِمَةٍ لِّمَعْنَى

تَابُوتٌ مَرَّةً كَصَدُوقٍ لِكُرْحَى كَصَدُوقٍ تَابُوتٍ
کتاب مقدس کا تابوت۔ قلب۔

تَارَةً ج تَارَاتٌ۔ باری۔ ایک دفعہ۔ وقت۔ کبھی کبھی
بعض اوقات۔ اب۔ تب۔ دوسری دفعہ۔

تَوَّأَمٌ تَوَّأَمٌ۔ جُطْرًا۔ دُہرے۔ ایک دوسرے
سے ملے ہوئے۔ جوڑے میں کا ایک۔ ثانی۔

تَبَابٌ۔ کمزوری۔ کمی۔ نقصان تَبَابًا لَكَ تَبْرِي تَبَابًا
ہو۔ تو تباہ ہو۔ خدا کرے کہ تیرا ستیا ناس ہو۔

تَبْرٌ۔ يَثِيرٌ تَبْرًا وَ تَبْرٌ۔ ہلاک ہونا۔

ہلاک کرنا۔ توڑنا۔ تباہ کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ گم کرنا۔
تَبَادٌ۔ ہلاکت۔ تباہی۔ تَبْرٌ۔ سونا جو کان سے نکلا

ہو بغیر صاف کیا ہوا سونا۔ یا چاندی۔

تَبِعَ يَتَّبِعُ تَبِعًا وَ تَبَاعًا وَ تَبَاعَةٌ
وَ اِتَّبَعَ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ۔ پیروی کرنا۔ مرید ہونا

تابع دار ہونا۔ ساتھ چلنا۔

أَتْبَعَ يَتَّبِعُ لِكَانَ جَالْمَنَ۔ دوسرے کے ساتھ چلنا۔

تَتَّبَعَ۔ پورا پورا مطالعہ کرنا عِلْمٌ كَأَمْسَدِ تَتَّبَعُ

تَبِعَ جَ اَتْبَاعٌ۔ مرید۔ رعیت۔ مالکیت۔ تابع ج

تَوَّابِعٌ۔ خادم

تَابِعِيٌّ۔ وہ مسلمان جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی
ہو اور اسلام پر مرا ہو۔

بِالتَّبَاعِ مَتَوَاتِرٌ۔ پے در پے۔ یکے بعد دیگرے۔

باری باری سے

مَتَّبِعٌ۔ وہ شخص جسکی پیروی اور اطاعت کی جائے

تَوَّابِلٌ۔ مصالحے۔ اچار چٹنی۔ وہ بیج جو ذائقہ دار

کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

تَبِغٌ وَ تَبْنٌ۔ تَبَاكُ۔ تَبْنٌ۔ گھاس۔ تَبْرٌ وَ

تَبَارٌ اسم جمع تَرْكٌ۔ تاتاری۔

تَبَانٌ۔ بھوسہ فروش تَبْنِيٌّ۔ بھوسہ کے رنگ والا

تَبْرِيٌّ۔ ہرکارہ۔ پوسٹمن۔ تَبْرِيٌّ۔ پے در پے

تَجَدَّرَ يَتَجَدَّرُ۔ تَجَادَةٌ وَ تَجَرُّ وَ اِتَّجَرَ

سوداگری کا کاروبار کرنا۔ خرید و فروخت کرنا۔

تَجَادَةٌ۔ سوداگری۔ تَجَارُجٌ تَجَادٌ۔ سوداگر

مَتَجَرٌّ۔ بیوپار۔ تجارت۔ سوداگری کا مال۔

تَحْتٌ نیچے۔ تَحْتَانِيٌّ۔ نیچے کی چیز۔ کم درجے والا

أَتَحَفٌ کسی کو تحفہ دینا۔ تَحْفَةٌ ج تَحَائِفٌ

بدیہ۔ نادار۔ چیز

مُتَحَفٌ وَ دَارٌ لَتَحَفٌ۔ عمارت۔ گھر۔

تَحْتٌ ج تَحَوْتُ تَحْتٌ۔ تَحَاتُّمٌ۔ تَحَاتُّمٌ

تَحَمُّ يَتَحَمُّ تَحَمُّمٌ۔ تَحَمُّمٌ۔ تَحَمُّمٌ۔ تَحَمُّمٌ

تَذْرُجٌ۔ تَذْرُو۔ لوہ۔ پکور۔ تَرَا جِيدِيًّا تَرَا جِيدِيًّا

تَرِبٌ۔ يَتْرَبُ تَرِبًا۔ خاک آلود ہونا۔ تَرِبٌ

ج أَثْرَابٌ۔ ہم عصر۔ ہم عمر۔ دوست۔ ساتھی ایک ساتھ

کھیلنے والے۔

تَعَبٌ تَعْبَانٌ تَحَا هُوَا تَحْسٌ تَبَاهِي بِرَبَاوِ
تَفْتُ مِيل كَيْل غَلَطت تَفَاحٌ سَيْبٌ
اَتَقَنَ يَتَقِنُ اِثْقَانًا مَجْتَرْنَا وَرَسَتْ كَرْنَا
تَلُّجٌ اَثْلَالٌ جَهْوَةٌ بِهَارِي طِيلَةٌ
تَلَسَّكُوْبٌ دُوْرٌ بِيْنٌ

تَلَفٌ يَتَلَفُ تَلْفًا هَلَاكٌ هُوْنَا تَبَاهٍ وَرَبَاوِ هُوْنَا
اَتَلَفَ تَبَاهٍ وَرَبَاوِ هُوْنَا تَلَفٌ بِرَبَاوِ تَبَاهِي ضَاعَ هُوْنَا

تِلْكَ مِثْلِي تَانِكَ جُ اَوْلَيْكَ وَهَ اِيكٌ مَوْنَتٌ
بَعِيْدٌ كَلِّ اِسْمٌ اَشَارَةٌ

تَلْمِذٌ شَاكِرٌ بِنَانَا سَكْمَانَا تَلْمِيْذٌ جُ تَلَامِيْذَةٌ
وَتَلَامِيْذٌ شَاكِرُوْ

تَلَا يَتَلَوُ تُلُوًّا وَتِلَاوَةٌ يَحْجُوْ جِلْنَا بِرَبِيْ كَرْنَا
پَرَحْنَا تِلَاوَتٌ كَرْنَا

تَالٍ وَتَلِيٌّ تِلَاوَتٌ كَرْنَا وَالا قَادِي بِالتَّوَالِي
مَنْوَالِي بِيْ دَرِيْ

تَمَّ يَتَمُّ تَمًّا وَنَمَامًا كَمَلٌ پُوْرًا كَامِلٌ وَتَمَامٌ پُوْرًا
تَمَّمَ وَآتَمَّ اِثْمَامًا پُوْرًا كَرْنَا كَمَلْنَا تَمَّمْنَا

ضَمِيْمَةٌ تَمَلُّ
مُتَمِّمٌ وَصِتْمٌ كَمَلٌ كَرْنَا وَالا تَمَامٌ سَبْ پُوْرًا
تَامٌ كَمَلٌ

تَمْرٌ كَجُوْرٍ تَمْرٌ اَلْهِنْدِي اِلِي تَمْسَا حٌ بَلْرَجِي
تَمَارٌ تَا حِيْرٌ خَرْمَا كَجُوْرٍ بِيْجِي وَالا

تَأْصُوْلٌ وَتَأْتِبُوْلٌ وَتَنْبُوْلٌ پَان كَا دَرْخْتِ پَانِي
تَنْبَلٌ سُسْتٌ وَكَاهِلٌ اَدْمِي تَنْوُورٌ جُ تَنْوُورٌ نِيُوْرٌ

تَنُوْرٌ بَهْمِي كَلْحَنٌ

تَوَابٌ مِي فَاكٌ تُوْبَةٌ قَبْرِسْتَانٌ قَبْرِ مَقْبَرَه
تَوَجَمَ يَتَوَجَمُ تَوَجَمَةٌ تَرْجَمَه كَرْنَا سَوَاخْمَرِي لَحْنًا
تَوَجَمَةٌ جُ تَوَا حِمٌ تَرْجَمَه تَعْبِيْرٌ مَطْلَبٌ سَوَاخٌ حِيَاثٌ
تَوَجْمَانٌ اِيكٌ زَبَانٌ سَي دُوْسَرِي زَبَانٌ مِيْنِ نَقْلِ
كَرْنِي وَالا سَوَاخٌ نِكَاْرٌ

مُتَوَجِمٌ تَرْجَمَه وَتَشْرِيْحٌ كَرْنِي وَالا مُتَوَجِمَةٌ تَرْجَمَه وَ
تَشْرِيْحٌ كِيَا هُوَا رَقْرَانٌ شَرِيْفٌ

تَوَجَمَةُ الْكِتَابِ كِتَابٌ كَا دِيْبَا جِي
تُوْسٌ جُ اَثْرَا سٌ وَهَالٌ تُوَا سٌ وَهَالٌ بِنَانِي وَالا

تَوِيَا قٌ زَهْرِي كِي اَثْرُوْ وَر كَرْنِي وَالا اَفِيُوْنٌ شَرَابٌ
تَوَكَّ يَتَوَكُّ تَوَكًّا جَهْوَةٌ دِيْنَا نَظْرًا اِنْدَا كَرْنَا

بِيْ هِيْزِرٌ كَرْنَا
تَوَكَّ لِي كَسِي كِي لِي كِي جَهْوَةٌ دِيْنَا وَصِيْتٌ مِيْنِ دِيْبِيْنَا

تَوَاكٌ مُتَوَاكَةٌ سَجْوَةٌ كَرْنَا مَصَا حَتٌ كَرْنَا
مُتَوَاكَةٌ صَلِحٌ

تَوَاكٌ جَهْوَةٌ دِيْنَا وَالا مَتَوَاكٌ جَهْوَةٌ هُوَا
تَوَاكَةٌ وَرَثَةٌ مِيْرَاثٌ

تَوَاكٌ جُ اَثْوَاكٌ تَرْكٌ قَوْمٌ كَا تَوَاكِي تَرْكِي كَا اَشْنُوْ
تَوَا سٌ بَا قَلَا لُوْبِيَا تَوَا نِيْجٌ تَرْجِي لِيْمُوْنٌ

تَوَا حَبِيْنٌ تَرْجَبِيْنٌ تَوَا هَا تٌ بِيْوَاسٌ بِرَطٌ
لَعُوْبَاتِيْنٌ جَهْوَةٌ

تَسْعَةٌ تِسْعٌ نُو تَا سِعٌ نَوَا تِسْعُوْنٌ نُو
تَعَالٌ اُوْ

تَعِبٌ يَتَعَبُ تَعِبًا تَحَا مَانْدَه هُوْنَا مَعْنَتٌ كَرْنَا
مُتَعِبٌ تَحَا لِي وَالا

اَثْبَاتٌ - ثابت کرنا۔ ثَبُوتٌ - مضبوطی۔ ثَابِتٌ - مضبوط
یقینی۔ مستحکم۔ اَثَلٌ -
مُثَبَّتٌ - اَثَلٌ - ثابت شدہ۔ ثَبَّتْ - مضبوطا و مستحکم
ثَابِتَةٌ - ثَوَابِتٌ - غیر متحرک ستارہ جو ستارہ نہ ہو
تَثْبِیْثٌ - استحکام۔ مضبوطی۔
ثَبَاتٌ - ایسی بیماری جس سے حرکت نہ ہو سکے۔

اَثْبَاتٌ - ایجاب۔ ثابت کرنا۔

ثَبُودٌ - ہلاکت۔ تَدْرِیٌّ - پستان۔ تَجَاجٌ - موٹا

تَرْتَادٌ - بکواس کرنا۔ تَرْتَابٌ - آنٹوں کی چربی دار جھلی

یَثْرِبٌ - مدینہ طیبہ کا پرانا نام۔ ثَوْبٌ - شوربا۔

ثَرَبٌ - بھگوئی ہوئی روٹی۔

ثَرَبٌ - سات سپیلیوں کا جھمکا۔ ثَرَبٌ - تور میں ستاروں

کا مجموعہ۔ فانوس۔ پروں۔

ثَرَوَةٌ - دولت کی کثرت۔ مالدار ہونا۔ دولت مند ہونا۔

ثَرَى - تری نمٹاکی گیلی زمین۔ ثَعْبَانٌ - لمبا اور موٹا

سانپ اڑوٹھا

ثَعْلَبٌ - لومڑی۔ دَاعُ الثَّعْلَبِ ہال گر جانے کی بیماری

عَنْبُ الثَّعْلَبِ مکو۔۔۔ ایک دوا ہے جو امراض

جگر اور اندرونی اورام کو دور کرتی ہے۔

تَخْرُجُ تَخْرُجٌ - سر سے سر سے نکلنا۔

تَقْلٌ - تلچھٹ۔ کھڑک۔ میل چیل۔

تَقَبٌ - یثْقَبُ ثَقِبًا - چھیدنا۔ سوراخ کرنا۔

صائب الرکے ہونا۔

ثَقِبٌ م ثَقِیَّةٌ - باریک سوراخ نہر۔ پائپ

ثَاقِبٌ - روشن ستارہ یا ستارہ (زحل)

تَهَامَةٌ - تگ شریف۔ حجاز کے جنوبی علاقے۔ تَنَاطٌ -
آٹھم کسی بات پر شبہ کرنا۔ تَهْمَةٌ - شک۔ الزام۔
تَابٌ - یَتُوْبُ تَوْبَةً وَ مَتَابًا اِلَى اللّٰهِ - ناوم ہو کر
اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ گناہ چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹنا
تَاثِبٌ - توبہ کرنے والا۔

تَوَابٌ - رجوع برحمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

معاف کرنے والا۔

تَوْتُ - توت کا درخت۔ تَوْتِیَاءٌ - طوطیا۔ جست

تَاجٌ یَتُوْجُ تَوْجًا - تاج پہننا۔ تَاجٌ ج تِیْجَانٌ

دِہیم تاج۔ کٹ

تَوَدْرِیٌّ - ایک دوائی کا نام ہے جو امراض مخفیہ میں استعمال

ہوتی ہے۔ یہ سفید و سیاہ دو قسم کی ہے۔

تَوْدَاةٌ - حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔

تَوْمَانٌ - دس ہزار۔ ایک ایرانی سکہ

تَیْسٌ بَکْرٌ - لَحِیةُ التَّیْسِ - بڑکی داڑھی

تَیْمًا - صحرا۔ بیابان۔ وادی عرب۔

تَیْمٌ - انجیر۔ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تَیْمٌ - بے آبدار

غزور۔ تکبر۔

بَابُ التَّاءِ

تَشَاءِبٌ - جمائی۔ انگریزی۔ تَشَادٌ - جرم کا بدلہ

تَوَلُّوْجٌ تَوَلُّوْجٌ - مسہ۔ خال مہکا۔ سر پیتا۔ خون کا بدلہ

ثَبَّتْ یَثْبِتُ ثَبَاتًا وَ ثَبُوتًا - برقرار ہونا۔ مستقل جابجا ہونا

ثَبَّتْ وَ اَثْبَتَتْ - قوی اور مضبوط بنانا۔ ثابت کرنا۔

وَدَّ اِلَیَّ - سے بیان کرنا۔

رَأَى ثَابِتًا - تہ تک پہنچنے والی رائے۔ درست اور صحیح رائے۔

ثَقِفَ يَثْقِفُ ثَقْفًا وَثِقَافَةً - ذہین ہونا۔ ہوشیار و دانا ہونا۔ کسی چیز میں ماہر ہونا۔ تیز پہنچنے والی عقل والا ہونا۔ جلدی سے معلوم کر لینا۔

ثَقِيفٌ - عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا نام۔ ثِقَافَةٌ - ہوشیاری۔ تہذیب و تمدن۔

ثَقُلَ يَثْقُلُ ثِقْلًا وَثِقَالَةً - بھاری و بوجھل ہونا۔ سست ہونا۔ گند ذہن ہونا۔ خورت کا حامل ہونا۔

ثَقُلَ يَثْقُلُ ثِقْلًا سَحْتًا بِيَارٍ هَوْنًا - مرض کا بڑھنا۔ ثِقْلُ جِ أَثْقَالٍ - بوجھ۔ وزن۔ کشش ثقل۔

ثَقِيلٌ - بوجھل۔ بھاری۔

أَلْثَقَلَانِ - انسان اور حق۔ بڑے اور چھوٹے آدمی مِثْقَالٍ - ساڑھے چار ماشہ کا وزن۔

مِثْلَبَةٌ جِ مَثَالِبٌ - قصور عیب۔ گالی۔ الزام محاسن ثَلَّثَ وَثَلَّثَ - تیسر حصہ۔ تہائی۔ ثَالِثٌ - تیسرا۔

ثَلَاثَةٌ تَيْنَ - ثلاثا تین بار۔ مِثْلَتُ تَيْنَ كُونِ يَاتِنَ ضِلْعُونَ وَاللَا - تین لفظوں والا حرف۔

تَثْلِيثٌ - تین خدا ماننا۔ ثَالُوثٌ جِ تَيْنَ سَ مَرَكَبٍ هُوَ يَعْنِي تَثْلِيثٌ

ثَلَاثُونَ - ثلاثا تین۔ تین عدد۔ ثَلَاثِيٌّ جِ صَغِيرٌ مِثْلُ حَرْفِ أَصْلِيٍّ هُوَ -

ثَلَجٌ بَرَفٌ - مثلوج برف سے ٹھنڈا کیا ہوا تَلَّاجٌ بَرَفٌ فَرُوشٌ

ثَمَرٌ - دُور کا اشارہ ہے) اُس جگہ۔ مِثْلُ ثَمَرٍ سَلْبٌ اس وجہ سے

ثَمَرٌ وَثَمَّتْ - ثب۔ لہذا۔ پھر۔ علاوہ ازیں۔ بعد ازاں۔ نیز۔ حرفِ عطف ہے ترتیب اور تراخی کے لئے آتا ہے۔ ثَمَرٌ كَانِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا - پھر اس میں یہ صفت بھی تھی کہ مومنوں کے زمرہ میں تھا۔

اِثْمَدٌ وَ اِثْمَدٌ - سرکہ کا پتھر۔ ثَمُودٌ - عربوں کی ایک قدیم قوم جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔

ثَمْرُجٌ اِثْمَارٌ - پھل۔ جائداد۔ پیداوار۔ منافع۔ دولت۔ ثَمْرَةٌ جِ ثَمَرَاتٌ - پھل۔ نتیجہ۔ بچہ۔ اخلاص اور محبت

مُثْمِرٌ - پھلدار (درخت) زرخیز۔ بار آور) ثَمَنٌ يَثْمِنُ - ثَمْنًا آطْهَوَا - ہونا۔ ثَمَنٌ - قیمت کرنا

ثَمَنٌ قِيمَتٌ - ثَمِنٌ آطْهَوَا - ثَمِينٌ - قیمتی۔ مِثْمِنٌ ہشت پہلو۔ آٹھ شعروں کی نظم۔ ثَمِنٌ آطْهَوَا حصہ۔

ثَمَانُونَ - اثنی عشری۔ ثَمْنِيٌّ ثَمْنِيًّا - دہرا کرنا۔ تہ کرنا۔ موڑنا۔ پیٹنا

اِشْتَشْنِيٌّ مِّنْ - کسی عام قاعدہ کلیہ سے نکال دینا۔ مِشْتَشْنِيٌّ اِشْتَشْنِيٌّ عَلَيَّ تَعْرِيفٌ كَرْنَا - ثنا کرنا۔ ثَمْنَاءُ تَعْرِيفٌ خَوْبِي بَيَانٌ كَرْنَا -

اِثْنَانِ - دو۔ ثَانٍ - ثَانِيٌّ - دوسرا۔ مِثْنِيٌّ - دو بنا یا ہوا ثَنْبِيَّةٌ - دو بنا نا ثَنْبِيَّةٌ - سیکند۔ منٹ کا ساٹھواں حصہ

ثَمَانِيٌّ - و حرف والا لفظ) اِشْتِثْنَاءٌ - علیحدہ کرنا) يَوْمَ اِثْنَيْنِ - سوموار۔ دو شنبہ۔

ثَنْبِيَّةٌ - گھاٹی کا راستہ۔ مَثَانِيٌّ - قرآن مجید کی آیات۔ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔

اِثَابٌ يَثِيبُ اِثَابَةً - بدلہ دینا۔ تندرست کرنا۔ ثَوَابٌ اچھے اور بُرے اعمال کا بدلہ۔ خصوصاً اچھے اعمال کا بدلہ۔

تَوَابُجُ آثَوَابٌ وَتِيَابٌ - کپڑا لباس عورت
 تَوَابٌ - کپڑے کا سوداگر۔ مَثَابَةٌ جمع ہونی کی جگہ۔ مَثُوبَةٌ
 تَوَدُّ بِل - ایک بوج کا نام۔ تَوَدُّوْكَ جوش۔ بغاوت۔ زیادتی۔ بلوہ
 تَوْدَانٌ - بگولہ۔ تَاوَدٌ غَضَبٌ نَاك - تَوَمٌ - لہسن۔
 مَثَوَى - گھر۔ منزل۔ ٹھکانہ۔ سرگے۔
 تَيْبٌ - بیوہ۔ خاوند سے جدا۔ جو کنواری نہ ہو۔

بَابُ الْجِيمِ

جَاوَدَسٌ - باجرہ۔ ایک قسم کا غلہ۔ جَبْتُ -
 گہرائیوں گہرا
 جَبَّةٌ - لبا کوٹ۔ مَجْبُوبٌ - سہمرا۔ نوبہ۔ جَبْتٌ - بت
 جَبْنَانَةٌ - میگزین۔ کار تو سوں کا صندوق۔
 جَبْرٌ - يَجْبُرُ - جَبْرًا - ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا
 جَبْرًا عَلَى مَجْبُورٍ کرنا۔
 جَبْرٌ - زبردستی۔ غرور و تکبر۔ طاقت۔
 عِلْمُ الْجَبْرِ - الجبر جو ریاضی کے علم کی شاخ ہے
 اور جس کے موجد مسلمان ہیں۔
 جَبْرُوتٌ - قدرت۔ طاقت۔ غرور۔ عظمت۔
 جَبْرًا - قوی مضبوط۔ اصلاح کرنیوالا۔ مَجْبُودٌ - بے بس۔
 جَبْرِيَّةٌ - ایک فرقہ۔ جَبْرَائِيلُ نبیوں پر وحی لانے
 والا فرشتہ
 جَبَلٌ - يَجْبُلُ - جَبَلًا - بنانا۔ پیدا کرنا۔ جَبَلٌ
 پہاڑ۔ جمع جِبَالٌ
 جَبَلَةٌ - پیدائشی شکل۔ سیرت۔ مزاج۔ طبیعت۔ بناؤ
 جَبَلٌ الطَّارِقُ - جِبْرَالُتْرُ - جَبَلِيٌّ - فطرتی۔ پیدائشی۔

جَبْمُولٌ - پیداشدہ۔ بڑے جسم والا۔
 جَبِينٌ يَجْبِينُ - جَبْنًا وَجَبَانَةً - بزدل ہونا
 نامرد ہونا۔
 جَبِينٌ وَجَبَانَةٌ - بزدل۔ جَبْنٌ وَجَبْنٌ - غیر
 جَبِينٌ - ماتھا۔ پیشانی۔ جَبَانٌ - بزدل آدمی۔
 جَبْهَةٌ جَبَاةٌ - ماتھا۔ سردار۔ قوم۔
 جَبْلِيْقٌ وَجَبْلِيْقٌ - لاٹ پادری۔ جَبْلَةٌ -
 جَبَدٌ يَجْبَدُ - جَحْوَدٌ اِب - انکار کرنا۔
 کسی کے حق کو تسلیم نہ کرنا۔ جَبْلَانًا - باوجود ہم سے
 کرنا۔ جَبَا حِدٌ - انکاری۔ مرتد۔
 جَحْوَةٌ حشرات الارض کا بل۔ جَحْوَةٌ -
 ڈھیلے کا بھرا ہوا
 جَحِيمٌ - دوزخ۔ تیز آگ۔ سخت گرم جگہ۔
 جَحْوَةٌ - ترکستان کے دریا کا نام تیسرا آمین
 جَدٌّ يَجِدُّ - جِدًّا - کوشش کرنا۔ کوشش کرنا۔
 اپنے آپ کو تندہی سے لگانا۔
 جَدٌّ - تندہی۔ سرگرمی۔ جانفشانی۔
 جَدِّدٌ يَجْدِدُ - تَجْدِيْدًا - نیا کرنا۔
 بنانا۔ از سر نو بنانا۔ مرمت کرنا۔
 تَجْدِيْدٌ - دوبارہ ٹیک لگانا۔
 مَجْدِدٌ - اصلاح کرنیوالا۔ نئے سرے سے دوبارہ
 بنانے والا۔ اسلامی اصطلاح میں وہ شخص جو ہر عہد
 کے سر پر اصلاح امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مبعوث کیا جاتا ہے اب تک چودہ صدیوں میں چوڑے

مجدد آچکے ہیں جیسے حضرت شیخ احمد سرہندی۔ حضرت

شاہ ولی اللہ دہلوی۔ حضرت سید احمد بریلوی۔ حضرت

امجد صد چہار دہم۔ رحمۃ اللہ علیہم۔

جَدُّنَ آجَدًا۔ داؤ۔ بزرگ۔ نانا۔ اسلاف۔

جَادًا۔ شاہراہ۔ سڑک۔

جَدَّةٌ۔ داوی۔ نانی۔ جدّاً۔ بہت تندہی اور گرمی

جدی۔ چپک۔ خسرو۔ جدّار۔ دیوار۔

جَدِيرٌ۔ لائق۔ مناسب۔ قابل۔

جَادِلٌ۔ يُجَادِلُ۔ جدال۔ جھگڑنا۔ لڑنا۔ جدل

يُجَادِلُ۔ سب سے بڑا۔ سخت جھگڑا ہونا۔

جَدَلٌ۔ بحث میں سخت کلامی۔ منطق کی شکل۔

عِلْمُ الْجَدَلِ۔ مناظرہ کا علم۔

جَدَالٌ وَقِتَالٌ۔ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت۔

جَدْوَلٌ۔ جہد اول۔ فہرست۔ رجسٹر کی سرخیاں

سائیمہ کتاب کا۔

جَدِيٌّ۔ ایک بڑج کا نام۔ ستارہ۔ پہلے سال کا بکری

کا بچہ۔ خطبہ۔

جَدِيْبٌ۔ بُجْدِيْبٌ۔ جَدِيْبًا۔ کھینچنا۔ گھسیٹنا

جَادِبٌ۔ کھینچنے والا۔

جَدُوْبٌ۔ تصوف کی اصطلاح میں وہ شخص جو خدا

کی طرف کھینچا گیا ہو۔ ولی اللہ۔

جَدُوْبٌ وَجَدِيْبَةٌ۔ وجد۔ جوش۔ جَادِبِيَّةٌ۔

قوت جاؤ بہ کشش۔

جَدْرٌ۔ جڑ۔ اصل۔ جَدْعٌ۔ کھجور کا تنہ

جَدْرٌ۔ يُجَدِّدُ جَدْرًا۔ کھٹنا۔ بے عضو کر دینا

عضو کاٹ دینا۔

جَدَامٌ۔ کوڑھ۔ جُدَامٌ۔ وہ مرض جس میں انگلیاں

وغیرہ جھڑ جاتی ہیں۔

جَدُوْمٌ۔ جُدَامٌ کی مرض والا۔ جذامی۔

جَرَّ يَجْرُ جَرًّا۔ کھینچنا۔ گھسیٹنا۔ مجرور بنانا کسی کو

جَرِيْرَةٌ۔ جرم۔ گناہ۔ هَلَمَّ جَرًّا۔ ایسا ہی۔ اسی طرح

جَرَّ الْأَثْقَالِ۔ علم بجز ثقیل۔ حُرُوفُ الْجَرِّ۔ حروف جاد

جَرَّةٌ۔ گھڑا۔ جَرَادٌ۔ بڑا لشکر۔ بہت کھینچنے والا

جَرَادَةٌ۔ زرد رنگ کا بچھو۔ ہوائے رنگ کو گھسیٹ کر

چلتا ہے۔

جَرَبٌ يَجْرِبُ جَرَبًا۔ کھجلی والا ہونا۔ جَرَبٌ

کھجلی کا مرض۔

جَرَبٌ يَجْرِبُ تَجْرِبَةً۔ آزمانا۔ امتحان لینا

مَجْرِبٌ۔ آزموہ۔ تجربہ کیا ہوا۔ جَوْلَابٌ۔ جراب۔

تَجْرِبَةٌ۔ تجارب۔ آزمائش۔ امتحان۔

جَرِيْبٌ۔ کھیت مارنے کا بیمانہ۔

جَوَابٌ۔ بقیچہ۔ تھیلہ۔ میان۔ غلاف۔

جَرْتُوْمَةٌ۔ جَرَاتِيْمٌ۔ جرم وہ کپڑا جو آنکھ سے

نہ دکھائی دے۔

جَرَجِيْرٌ۔ ترہ۔ ایک قسم کا پودہ۔ تارا میرا۔

جَرَحٌ يَجْرَحُ جَرْحًا۔ زخمی کرنا۔ کسی کی گواہی

کو باطل کرنا۔

اِحْتَرَحَ۔ برائی کا مرتکب ہونا۔ صل کر نیکی کے کوشش کرنا۔

جُرْحٌ جَرَاْحَةٌ۔ جَرَاْحَاتٌ۔ زخم۔ گھاؤ۔

عِلْمُ الْجَرَاْحَةِ۔ سرجری۔ جراحی۔ جَرَاْحٌ۔ اپریشن کرنا

تَجْرُوْحٌ۔ زخمی۔ جَوَادِحٌ۔ عضو خصوصاً لائق۔

جَوْرَحٌ - زخمی - مجروح

جَوْدٌ يُجْرِدُ - تَجْرِيدًا - ننگا کرنا مجرود کرنا - الگ کرنا
 مَجْرُودٌ - اکیلا - تنہا - تَجْرِيدٌ - تنہا کرنا - تَجْرُدٌ - اکیلا ہونا
 جَرِيدَةٌ جَوَائِدٌ - اخبار - روزنامہ - اصل معنی پھٹی
 مَجْرَدَاتٌ - غیر مادی اشیاء بِمَجْرَدٍ مَا - فقط - اس

سبب سے کہ

جَوْدُجٌ - جَوْدَانٌ - جنگلی چوہا - چھچھوند رگھونس -
 جَوَسٌ يَجْرُسُ - جَوَسًا - ہلکی آواز سے گفتگو کرنا -
 زم آواز نکالنا - ہلکے مہین لہجے سے بولنا -

جَوَسٌ جَ اجْرَاسٌ گھنٹی - جَوَسٌ - بھنبھناہٹ
 جَوَارِشٌ - مٹھانی - میٹھی چیز ایک قسم کی مرکب میٹھی دوائی
 جو عام طور پر معدہ کی امراض اور جگر کی اصلاح کے لئے کام
 آتی ہے - مثلاً جوارش جالینوس - جوارش کمونی - جوارش مصطلکی
 وغیرہ وغیرہ - مغرب ازگوارش -

جَوَعٌ - يَجْرَعُ جَوْعًا وَ تَجْرَعُ وَ اجْتَرَعُ
 گھونٹ گھونٹ کر کے پینا - یکبارگی نکل جانا - پی جانا - ایک
 کشش سے نکل جانا یا پی جانا - جَوْعَةٌ - پانی کا گھونٹ
 جَوْعَةٌ آب -

جَارِفٌ - جھاڑو دینے والی طاعون - عام تباہی پہلک
 جَرَمٌ يَجْرِمُ جَرْمًا - کاٹ ڈالنا - کترنا - قلم کرنا -
 اَجْرَمٌ وَ اجْتَرَمٌ - گناہ کرنا - جرم کرنا -

جَرَمٌ وَ تَجْرَمُ عَلَى جَرَمٍ كِي تَهْمَت لگانا کسی دوسرے
 جَرْمٌ جَ اجْرَامٌ - گناہ - خطا - جَرْمٌ جَ اجْرَامٌ
 بسم - ٹیل ڈول

الْاَجْرَامُ الْفَلَکِيَّةُ - اجرام سماوی - سورج چاند
 ستارے - وغیرہ

لَا جَرَمَ وَ اقْنَى - بے شک - بلاشبہ -

جَوِيْمَةٌ جَ جَوَائِمٌ - قصور - گناہ - پاپ - جرم (جرم)
 مَجْرَمٌ - خطا کار - مجرم - اَجْرَمٌ مَبِيْنَةٌ - ابتدائی گرامر
 جَوْمُوقٌ - موزہ - موزہ پر پہننے کا بڑا موزہ -
 جَوْهَرٌ - عرب کا پرانا تزیینہ -

جَوِيٌّ يَجْرِي جَوِيًّا وَ جَوِيًّا نًا - پانی کا بہنا
 دوڑنا - جاری ہونا - واقع ہونا - ہو پڑنا -

جَوِيٌّ وَ اجْوِيٌّ - بہا دینا - دوڑانا - شائع کرنا
 فیصلہ کرنا - دستخط کرنا - اہم کی گروہ کرنا -

اَجْوِيٌّ قَشْرًا - ایک - بیباک کرنا - اَجْوِيٌّ
 مانتے کرنا -

جَوِيٌّ وَ جَوِيَانٌ - رفتار - دوڑ کسی چیز کا بہنا -
 اصطلاحی طور پر ایک منفی مرض کا نام جس میں لاکھ لاکھ
 قضاے حاجت کے پہلے یا بعد بلا ارادہ خارج ہو جاتے

جَارٍ - بہنا - دوڑنا - (ماہ رواں) جاری
 جَارِيَةٌ جَ جَارِيَاتٌ وَ جَوَارِيَةٌ - نوجوان عورت
 لونڈی - خادمہ - لڑکی -

مَا مَوْدًا لِاَجْوَاءٍ - دربار میں ملاقات کرانے والا
 اَجْرَانِيٌّ - تعمیل کرانے والا - کواکر -

مَا جَرِيٌّ - حادثہ - واقف - جَوْرَحٌ - زخم
 مَجَارِيٌّ - راستہ - اَجْرَانِيٌّ - زخمی

جَوْرَاجٌ - يَجْرَأُ جَوْرًا - حصوں میں تقسیم کرنا
 تَجْرَأُ - حصوں میں تقسیم ہو جانا -

جَوْرَجٌ اجْوَرًا - کچھ حصہ - جَوْرَجِيٌّ - منسوب
 بہ جزئی کلی کے برعکس - عام میں سے خاص - خصوصاً جَوْرَجِيٌّ

جَزْوَةٌ رُوبِيَّةٌ جَزِيٌّ - ایسا جز جو بٹ نہ سکے - ایٹم
 أَجْزَاءُ مَبْنِيَّةٌ - کیمسٹری - علم کیمیا - دوا خانہ -
 أَجْزَاءُ فِيَّ - دوا فروش - عطار - پھساری -
 جَزْدَانٌ - بستہ - کیس - حِزْوَانٌ - جَزْوَةٌ كَا جَرِيْنٌ (دائم جمع)
 جَزْوَةٌ فَزْنٌ كَرِيْوَالَا - ظالم - قاتل - قصاب -
 جَزْوِيَّةٌ جَزْوَانِيٌّ - زمین کا وہ قطعہ جس کے چاروں
 طرف پانی ہو -

أَلْجَزِيْرَةُ - عراق - دو آب و جلہ و فرات
 أَلْجَزَائِرُ - شمالی افریقہ - علاقہ الجیریا -
 جَزْعٌ يَجْزَعُ جَزْعًا - بے تاب ہونا - ٹھیکن ہونا -
 رَجْبِيْرَةٌ ہونا - بے صبر ہونا - رنج ظاہر کرنا -

جَزْعٌ سِلْمَانِيٌّ - منکے جن میں سیاہی و سفیدی ہوتی ہے
 سنگِ سلیمانی

أَجْزَلٌ عَلَى وَدٍ - کسی کے ساتھ نبی ص ہونا بہت
 جَزِيْلٌ - بہت بڑا - زیادہ کثیر - بِرَّالْتَّهَاتِ - دینا
 جَزْمٌ يَجْزِمُ جَزْمًا - کاشا کسی بات کا تہیہ کر لینا
 تَجَزَمُ بِالْجَزْمِ - اخیر حرف پر جزم دینا - ساکن کرنا -
 جَزْمٌ - سکون - جزم - جَزْمٌ جَزْمٌ دِيْنَةٌ وَالْاَحْرَفُ
 جَزْوِيٌّ يَجْزِي جَزَاءً بِوَعْدِي - بدلہ دینا
 انعام دینا

جَزَائِيٌّ مَجَازَاةً بِبَدَلَةٍ دِيْنًا - جَزَائِيٌّ وَمَجَازَاةٌ
 کسی چیز کا بدلہ - فوجداری - قانون معواضہ عوض
 انعام -

قَانُوْنُ الْجَزْوِيِّ - ضابطہ فوجداری -
 جَزِيَّةٌ - زمین کا خراج - ٹیکس جو غیر مسلم رعایا کے

فی کس کے حساب سے لیا جاوے - لگان زمین -
 جَسَّ جَسَّ جَسَّ جَسَّ - محسوس کرنا - ٹٹولنا -
 چلنا - روندنا -

تَجَسَّسٌ - خبر دریافت کرنا - جَسَّسُوا ج
 جَوَّاسِيْنٌ - جاسوس - حالات دریافت کر نیوالا
 جَسَّاسٌ - بہت کھوج لگانیوالا - مَوْنُثُ جَسَّاسَةٌ
 تَجَسَّدَ - جسم والا ہونا - مضبوط ہونا - مَادِيٌّ يَجْمَانِيٌّ ہونا
 جَسَدٌ أَحْسَادٌ - بدن - جسم - جَسَدِيٌّ جَمَانِيٌّ
 تَجَسَّدَ - اونٹن - مجسم - جسم اختیار کرنا -
 جَسْرٌ يَجْسُرُ جَسْرًا عَلَى جَرَاتٍ كَرْنَا - دلیر
 سے کام لینا -

تَجَسَّرَ - دلیر و شوخ ہونا - جسارت دکھانا -
 جَسْرٌ يَلُّ - بند - جَسْرٌ صِرَاطٌ - پل صراط -
 جَسُوْرٌ - دلیر - بہادر - نڈر - متہور -

جَسْمٌ يَجْسَمُ جَسَامَةً - بڑا ہونا - جسم یا
 موٹا ہونا - مضبوط ہونا -

تَجَسَّمٌ - جسم اختیار کرنا - جَسْمٌ أَحْسَامٌ
 جسم - بدن -

جَسْمِيٌّ وَجَسْمَانِيٌّ - منسوب بہ جسم - بدنی -
 کھوس چیرا

جَسِيْمٌ - بڑے جسم والا - کھوس - موٹا - مضبوط -
 جَسَامَةٌ - فرہی - جسم - موٹا پا - اہمیت -
 مَجْسَمٌ - کھوس - مَادِيٌّ - جسم -

جَوْشَنٌ - ہتھیار - زرہ - جِصٌّ - چونہ - گچ -
 جَمَّاصَةٌ - چونے کی بھٹی -

جَعَدٌ وَجَعَدٌ گھونگر یا لے بالوں والا۔ گندل دار
بالوں والا۔

جَعْفَرٌ - نہر - دریا - ندی

جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا - بنانا - پیدا کرنا - تیار کرنا
تبدیل کرنا - کسی چیز کو دوسرے کی جگہ رکھنا یا استعمال
کرنا۔ (جعلی طور پر یا بناوٹی طریقہ سے)

جَعْدًا فَيْدَةً - علم جغرافیہ - زمین کے حالات کا علم -

جَفَّتْ يَجْفُ جَفًّا - سوکھ جانا - خشک ہو جانا -

جَفَفًا وَتَجَفَّفَ - سوکھنا - سُکھانا - سوکھ جانا - کھل جانا

تَجَفَّفَ خَشِيًّا - خشکی کرنے کا فعل - جَجَفَّ خَشَدًا

کرنے والا -

جَفَرٌ - علم جفر - جَفَادٌ - علم جفر بننے والا - یعنی حروف

تہجی سے غیب کی باتوں - علم جاننے کا مدعی -

جَفَنٌ جَ أَجْفَانٌ - آنکھ کی پلک پیوٹ -

جَفَا يَجْفُو جَفَاءً - اجڑپن یا سختی سے برتاؤ

کرنا - ظلم کرنا -

جَفَاءً - معاشرت میں سختی یا برا سلوک - ظلم - ناروا سلوک

جَلَّ يَجِلُّ جَلًّا وَجَلَالَةً - بڑا ہونا - طاقتور

ہونا - بزرگ ہونا - بڑی شان والا ہونا - عزت والا ہونا

أَجَلَّ إِجْلَالًا - تعظیم کرنا -

جَلَالٌ وَجَلَالَةٌ - حضور - بادشاہ کا خطاب

جَلَالَةُ الْمَلِكِ

جَلَالِيٌّ - نسوب بہ جلال - خلافِ جلال - شان و شوکت والا

جَلِيلٌ جَ إِجْلَاءً - بڑی قدر والا - عظیم الشان -

مِنْ إِجْلَالِكَ - آپ کی عزت کی خاطر -

جَلَّةٌ - کتاب - ضابطہ - رسالہ جو وقت مقرر پر شائع

ہو - کاغذ کا دستہ - جَالُوتٌ - ایک کافر کا نام جسے حضرت داؤد

جَلَّالَةٌ - انسانی شان و شوکت - اِحْتِشَامٌ -

جَلَبَ يَجْلِبُ جَلْبًا - ہانکنا - کھینچنا - لانا جمع کرنا

جَلَابٌ - کھینچنے والا - مادہ کو نکالنے والی دوائی - عرقِ کلاب

جَلْبَابٌ جَ جَلَابِيْبٌ - چادر - عورت کا کون -

جَلْبُلٌ جَ جَلَالٌ - گھنٹرو - چھوٹی گھنٹی - گویا نجی -

جَلْجَالٌ جَلْجَلَةٌ - گھنٹی کی آواز - کرک - گونج

جَلَدٌ يَجْلِدُ جَلْدًا - کوڑے مارنا - کوڑوں سے بیٹنا -

جَلَادَةٌ - جفاکش ہونا - قوت و صبر والا ہونا - استقلال -

جَلْدٌ جَ جُلُودٌ - کھال - چمڑا - جلد -

جَلَلًا - کوڑے مارنے والا - جَلَادٌ - بے رحم - سزا دینے والا

عَجَلِدٌ - جلد ساز - عَجَلَدٌ - جلد کی موٹی (کتاب)

جَلَسَ - يَجْلِسُ جُلُوسًا وَجَلَسًا - بیٹنا - بیٹھنا

أَجْلَسَ - بیٹھانا - جَلَسَةٌ - ایک بیٹھک یا نشست

جَلِيسٌ جَ جَلِيسَاءٌ - دوست سائے - جَلِيسٌ جَلِيسَةٌ

جُلُوسٌ بیٹھے ہوئے کی حالت - تخت نشینی - جَلِيسَةٌ

جَلْفَنٌ أَجْلَانٌ - گھٹنوں کا پھل

جَلَقَ ب - بمبارڈ کرنا - جَلَقٌ جَلَقٌ - جَلَقٌ جَلَقٌ

یعنی لاکھ مادہ ایسا کہ حالہ - جَالِقٌ وَجَلُوقٌ

اپنے لاکھ سے اپنے مادہ الحیات کو ضائع کرنے والا -

نامراد انسان -

جَلَقٌ ایک ایسا گھناؤنا - قبیح اور ہلاکت آفرین

فعل ہے جس سے انسانیت کی مٹی پیدا ہو جاتی ہے

جوانی کی تمام قوتوں کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔
قبل از وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ آدمی دنیا
میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ صحت براب
اور دماغی و ذہنی قوی مردار ہو جاتے ہیں۔ اس
فعل بد کا عادی بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ اور
متفرق امراض میں مبتلا ہو کر ایسٹریاں گھٹنے رگڑتا
ہوا جوانی میں ہی دنیا سے بصد حسرت و یاس رخصت
ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسی بد عادت سے ہر مسلمان
کو محفوظ رکھے آمین۔

جَلَّقَ - دمشق یا غوطہ۔ جَوَّالِقَ جَحْوَالِقَ - اُون
یا بالوں کا پورا۔

جَلَّقَ - پتھر پھینکنے کی مشین۔ فلاخن۔ گویا۔
جَلَّقَ - گل نغین کا معرب۔

جَلَّقَ - انار کی کلی۔ گل انار کا معرب

جَلَّأَ يَجْلُو - جَلَّأَ وَجَلَّأَ - صاف کرنا۔ صیقل
پالش کرنا۔

جَلَّأَ - واضح اور ظاہر ہو جانا۔ جَلَّأَ عَلَيَّ - دکھانا
ظاہر کرنا (دُہن کا دُولما پر)۔

أَجَلِي عَن بَلَدِي - شہر سے جلا وطن ہونا۔ تَجَلَّى - ظاہر ہونا۔
بے نقاب ہونا۔ اِتَجَلَّى - ظاہر ہونا۔ صفا ہونا۔

جَلَّأَ - صفائی۔ چمکیلا پن۔ جلا وطنی۔ چمک دمک۔
جَلَّى - صاف۔ ظاہر۔ صریح۔ واضح۔ صیقل شدہ۔

أَجَلِي - زیادہ چمکیلا۔ زیادہ روشن۔ خوبصورت۔ صاف
فَجَلَّى - ظاہر ہوا۔ عیاں شدہ۔

جَلَّى - يَجَلَّى جَلِيًّا - ماتمنا۔ رگڑنا۔ صیقل کرنا۔ چمکانا۔

جَمَّ - بڑی تعداد۔ جَمَّ غَفِيرًا - بہت بڑا مجمع
ہجوم۔ بھیر۔ ازوہام۔

جَمَّ جَمَّةً جَجَّ جَمًّا - کھوپری۔ سردار۔
جَمَّ يَجْمُدُ جَمْدًا أَوْ جَمُودًا - جمننا۔ منجمد ہونا۔

بستہ ہو جانا۔ خاموش ہو جانا۔ جَمَامِدٌ - ٹھوس چیز۔
وہ لفظ جو کسی سے نہ نکلا ہو۔ جَمَادُجُ جَمَادَاتٌ

معدنیات۔ ٹھوس چیزیں۔ دھات۔ بے جان چیزیں۔
نشوونما نہ پانے والا۔ جَمَادَى الْأُولَى - قمری مہینوں

میں پانچواں مہینہ۔ جَمَادَى الْآخِرَةَ - قمری مہینوں
میں سے چھٹا مہینہ۔

جَمَّوَةٌ - انگیٹھی۔ دھوپ داں۔ آتش دان۔
جَمْرَةٌ - سرطان یعنی کاربنکل کا پھوڑا۔ آتشک کا

زخم۔ دھکتا ہوا انگارہ۔ کنکر۔
جَامُوسٌ جَحْوَامِيْسٌ - گاؤ میش۔ بھینس۔ بھینسا۔

جَمَعَ يَجْمَعُ - جَمْعًا - ملانا۔ اکٹھا کرنا۔ شامل کرنا۔
مفروضے جمع بنانا۔

جَمَعَ - بہت اکٹھا کرنا۔ جَامِعٌ عَلِيٌّ - عورت سے
ہم بستری کرنا۔

اجْتَمَعَ - اکٹھا ہونا۔ متفق ہونا۔ جَمْعٌ جَمْعٌ - گروہ
فوج۔ بھیر۔ مجموعہ۔ الْجُمُعَةُ - جمعہ کا دن۔

جَمَاعٌ - مباشرت۔ قرین عورت سے۔ جَمَاعَةٌ وَقَرْنٌ
جَامِعٌ - مؤلف جمع کرنی والا۔ جَمْعُوعَةٌ - اکٹھا کیا ہوا۔

جَامِعَةٌ - مسجد جامع۔ یونیورسٹی۔ اعلیٰ تعلیم کا مدرسہ۔
جَمِيْعٌ - تمام سب۔ جَمْعِيَّةٌ - مجلس۔ کمیٹی۔ انجمن۔

اجْتَمَاعٌ - اتفاق کل۔ یکجہتی۔ مذہبی مسئلہ میں سب عالموں کا اتفاق۔

تَجْمَعُ جَمَاعًا مَجْمُوعًا - جمع ہونے کی جگہ مجلس۔

جَامِعِيَّةٌ - کسی بات کا جامع مانع ہونا۔

جَمَلٌ يَجْمَلُ جَمَلًا - جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

جَمَلٌ يَجْمَلُ جَمَالًا - خوبصورت ہونا۔ عمدہ ہونا۔

أَجْمَلٌ يُجْمَلُ إِجْمَالًا - اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔

تَجَمَّلَ - آراستہ ہونا۔ سجا ہوا ہونا۔

جَمَلٌ جَمْعٌ جَمَالٌ - اونٹ۔ جہاز کارستہ۔

حِسَابُ الْجَمَلِ - حروف سے حساب لگانا۔ حروف

سے عدد نکالنا۔

جُمْلَةٌ - مجموعہ۔ میزان کل۔ جملہ۔ فقرہ۔

جَمَالٌ - خوبصورتی۔ عمدگی۔ ادب و قاعدہ۔ حُسن

جَمِيلٌ - خوبصورت۔ حُسن۔ إِجْمَالٌ خلاصہ۔ اختصاراً

جَمَلٌ - مجموعہ۔ خلاصہ۔ میزان۔ بِالْإِجْمَالِ مختصراً

بِالْجُمْلَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ - مختصر کلام۔

جَمَّهَرًا - جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ جَمَّهَرًا عوام۔ پبلک

اکثریت۔ عام۔ بڑا حصہ۔

جُمْهُورِيَّةٌ - جمہوری حکومت بشرط۔ پارلیمنٹری

جُمْهُورِيَّةٌ - قوم سے متعلق۔ جمہوری۔ ہر لوگوں کی حکومت

جَنَ - يَجُنُّ - جَنًّا وَجُنُونًا - پردہ ڈالنا۔ ڈھانک دینا

چھپا دینا۔ پاگل ہونا۔ ج - ن کے مادہ میں چھپانے

کے معنی تمام مشتقات میں پائے جاتے ہیں مثلاً۔ جَنُّ

پوشیدہ مخلوق۔ جَانٌ یعنی روح جو نظر نہیں آتی۔

وہ باریک سانپ جو اپنی تیزی کی وجہ سے نظر نہ آسکے

جُنُونٌ۔ پاگل جسکی عقل چھپ جاوے۔ حَنَاتٌ دل جو

سینہ میں مخفی ہے۔ جَنِينٌ وہ بچہ جو رحم مادر میں

پوشیدہ ہے۔

جَنَّةٌ - ڈھال۔ جسکی اوٹ میں لڑنے والا اپنے آپکی

چھپاتا ہے۔ جَنَّةٌ جَنَاتٌ - باغ جو پتوں اور

شاخوں کی کثرت سے زمین کو چھپاوے۔

جَنَّبَ يَجْنُبُ جَنْبًا - دُور کرنا۔ علیحدہ کرنا جُنُبِي

یعنی ناپاک ہو جانا (مرد کا جماع یا احتلام کی وجہ سے)

جَنَّبَ يَجْنُبُ جَنْبًا - جنبی یا ناپاک ہونا۔

جَنَّبَ وَتَجَنَّبَ وَتَجَانَّبَ وَرَجْنَبَ دُور

ہونا۔ بچنا۔ دُور کرنا۔

جَنَّبَ جُنُوبٌ - پہلو۔ جسم کا نصف حصہ۔

جَانِبٌ جَوَانِبٌ طَرَفٌ - پہلو۔ اسی

ذَاتُ الْجَنْبِ - سینے کا دروازہ۔ لیسٹل کا دروازہ

صَاحِبُ الْجَنْبِ - سفر کا۔ اقامت

جَنَابٌ - درگاہ۔ بڑے آدمی کے خطاب کا لفظ۔

إِجْتِنَابٌ - الگ رہنا۔ جُنُوبٌ - الگ رہنے والا۔

جَنَابَةٌ - دوری۔ ناپاکی کی حالت۔ جَنَابَةٌ - دوری

جُنُوبٌ - دھن۔ جُنُوبٌ - دھن کی طرف والی

أَجْنَبِيٌّ - آجَانِبٌ - خیر۔ دُور۔ اُجْرِيٌّ - اُجْرِيٌّ

جَنَمٌ يَجْنُمُ جَنْمًا - جَنَمٌ - جَنَمٌ

جُنَاحٌ - گناہ۔ جُنَاحٌ - جُنَاحٌ

جَنَابٌ - جَنَابٌ - جَنَابٌ

جَنَدٌ - فوج بھرتی کرنا۔ جَنَدٌ - جَنَدٌ

تَجْنِيدٌ - فوج بنانا۔ جَنَدٌ - جَنَدٌ

جَنَدِيٌّ - سپاہی۔ فوجی۔ مَسْكِيٌّ - لشکر کی

جَنَدُ الْمَيْتِ - وہ کوئی بات میں رکھنا یا فوج کرنا

یاد دہن کا انتظام کرنا

جَنَاذَةٌ جَجَانِزُ - مروہ - تابوت - تھمیز و تکفین
 جَنَزَادٌ - زنگار کا معرب -
 جَنَسٌ ہم جنس کرنا - مشابہ کرنا - جَانَسٌ مَجَانَسَةٌ
 ہم جنس ہونا - یا ہم جنس معلوم ہونا - یکساں ہونا -
 جِنْسٌ جِ اجْناسٌ - جنس - قسم - ذات - نسل -
 تذکیر و تانیث - قومیت - جنسیت - قومیت - ہم قوم ہونا
 مَجَانَسَةٌ وَ جِنَاسٌ - ہم جنسی علم بیدیع میں ایک قسم
 کی صنعت ہے - قافیہ کی یکسانی - جَانَسٌ ایک ہی
 فرقے یا جنس کا -

جَنَفٌ - بے انصافی - ظلم - ایک طرف میدان
 مَنَجَنِبٌ لڑائی کی ایک مشین جس کے ساتھ پتھر پھینکے
 جاتے ہیں -

جَنِيٌّ مَجْنِيٌّ جَنِيًّا - لڑنا - پھلوں کا اکٹھا کرنا -
 جَنَابَةٌ گناہ کرنا - جرم کرنا - جَنِيٌّ - تازہ چنا ہوا پھل
 جَانٌ - جانی گنہگار - مجرم - جِنَابَةٌ ظلم - تعدی - گناہ
 جَهْدٌ جِهَادٌ - نقاد - وانا - صاحب الراي -
 جَهْدٌ يَجْهَدُ جَهْدًا فِي - بہت کوشش کرنا کسی کام میں
 جَاهِدٌ يَجَاهِدُ مَجَاهِدَةً وَ جِهَادًا بے دینوں
 سے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا - اللہ کی راہ میں دشمن دین سے جہاد کرنا
 اِجْتِهَادٌ وَ تَجَاهُدٌ - کوشش کرنا - اپنی طرف سے زور لگانا
 جَهْدٌ - طاقت - وسیلہ - قابلیت - کوشش - مشقت -
 جَهْدٌ سَخَتْ قَسْمُ كَهَانَا - جِهَادٌ وَ مَجَاهِدَةٌ - لڑائی
 جنگ بے دینوں کے خلاف لڑائی - مذہبی جنگ -
 اِجْتِهَادٌ - شقت - سرگرمی - مسائل دینیہ کا استخراج
 کرنے کی قابلیت - سعی - کوشش -

مَجَاهِدٌ - مذہبی جنگ میں لڑنے والا -
 جَهْرٌ يَجْهَرُ جَهْرًا وَ جِهَادًا اب اعلان کرنا -
 ظاہر کرنا - زور سے بولنا - مشہور کرنا - عام ہونا -
 جَهْرًا - علانیہ طور پر -
 اَلْجَهْلُ الصَّوْتِ - لاؤڈ سپیکر - بلند آواز والا
 جَهْرٌ - نثار کرنا - مہیا کرنا - تَجْهِيْرٌ - مردہ کی تھمیز و تکفین
 کرنا - جِهَادٌ - دلہن کا جہیز - سامان ضروری -
 جَهْلٌ يَجْهَلُ جَهْلًا وَ جِهَالَةً - نہ جاننا - ان پڑھ
 ہونا - ناواقف ہونا - بے وقوف ہونا -

تَجَاهُلٌ - بناوٹی جاہل بننا - جان بوجھ کر انجان بننا -
 جَهْلٌ وَ جِهَالَةٌ - بہالت - حماقت - بے وقوفی -
 جَاهِلٌ جُجَاهِلٌ وَ جُجُهَالٌ - جاہل - ان پڑھ
 بے وقوف

جَاهِلِيَّةٌ جہالت کی حالت - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پہلے اہل عرب کی کفر و شرک کی حالت حضور علیہ السلام
 کی بعثت سے پہلے کا زمانہ بے دینی -

جَهْوَلٌ بہت جاہل - تَجَاهُلٌ - مصنوعی یا بتاؤٹی م
 ناواقفیت
 جَهْوَلٌ - نامعلوم - گمنام - فعل غیر معروف - ایسا فعل
 جس کا فاعل معلوم نہ ہو - نامعلوم الاسم -

جَهْمٌ - دوزخ - زنگ - جَهْمِيٌّ - دوزخی -
 جَوٌّ - کرہ ہوائی - فضا - خلا - و سبوح و ادی -

جَاوِبٌ کسی سوال کا جواب دینا -
 اِجَابٌ بِجِيبٍ جَوَابًا - جواب دینا - قبول کرنا
 اِسْتِجَابٌ لِجَوَابٍ دینا - سن لینا - التجا قبول کرنا -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سہ ماہی آسان عام فہم عربی لغات حصہ چہارم تعلیم العربیہ المعلومہ تلمیح العربیہ محمدیہ و تصالی علی رسولہ الکریم

تلمیح تلمیح العربیہ

پاکستان کا

واحد آرگن -

نمبر ۱ تا ۱۲

ماہ اکتوبر نومبر دسمبر ۱۹۶۸ء

ماہ جنوری فروری مارچ ۱۹۶۹ء

جلد نمبر فرینک لطیف لغات جدید

انتباہ :- اس سے پیشتر رسالہ میں دو سو اسی صفحوں پر قرآن کریم کے ساتھ تین پاروں کے ۹۸ اسباق چھپ چکے ہیں اور چالیس صفحوں پر خلاصتہ القرون و خلاصتہ النوا اور اسکے بعد چالیس صفحات پر عربی زبان کی لغات بھی شائع کی گئی ہیں یہ مطالعہ رسالہ میں بھی اسی لغات کا بقیہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اور جب تک لغات ختم نہ ہو جائے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لغات کے دو سو صفحات چھپ جانے پر پہلا سال ختم ہو جائے گا اور پہلی جلد چار سو اسی صفحات پر مکمل ہو جائے گی جو سال بھر کیلئے پورے کورس کا کام دے گی۔

جَبَابَةٌ جَبَابَةٌ - سوال کا جواب - اتر -
 اجَابَةٌ وَاِسْتِجَابَةٌ - درخواست کی منظوری - قبولیت -
 حَبِيبٌ مُّحِبٌّ - جو اپنے والد الاءہ سے سنجیدہ منظر شدہ
 درخواست اور سنی ہوئی دعا مقبول دعا یا عرض -
 حَبِيبٌ جَبِيْبٌ - گریبان - کارہ -
 جَادٌ يَجُوْءُ جَوْدًا - عمدہ ہونا - فضیلت و فوقیت
 لے جانا - عمدہ مہذات والا ہونا - علی کے سلسلے سے فیاض
 ہونا - سخی ہونا -
 جَوْدٌ - سخاوت - فیاضی - جَوْدَةٌ - عمدگی - خوبی -
 جَوَادٌ سَخِيٌّ - فیاض - جَبِيْدٌ - عمدہ - خوب -
 جَوْدِيٌّ ایک پار کا نام جس پر حضرت نوح کی کشتی ٹھہری تھی
 جَوْدٌ - جَوِيْدٌ - عمدگی سے قاری کا قرآن کریم پڑھنا -
 سنوارنا - نوا کر تلاوت قرآن پاک کرنا -
 جَوَادٌ يَجُوْدُ جَوْدًا عَلِيٌّ - کسی کو ستانا - کسی پر ظلم و ستم کرنا -

جَوَادٌ مُّجَاوِدٌ - جَوَادًا - کسی کا پڑوس ہونا ہمسائیگی
 میں رہنا - جَوَادٌ جَبِيْرَانٌ - پڑوسی -
 جَوْرٌ زیادتی - جبر و تعدی -
 جَوَارٌ - سماگی پڑوس - قرب -
 اِجَادَةٌ حِفَاظَةٌ - پناہ - اِجَادَةٌ - پڑوسی -
 حَبِيْرٌ پناہ دینے والا - حَبِيْرٌ پناہ طلب کرنے والا
 جَائِرٌ ظَالِمٌ بے انصاف - جَوَارَةٌ - پڑوسی -
 جَوْرَبٌ جَوَارِبٌ - جراب -
 جَوَارِسٌ باجرہ
 جَوَارٌ يَجُوْدُ جَوَادًا - جَوَارِبٌ - سفر کرنا -
 جَوَارٌ يَجُوْدُ جَوَادًا - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - درست ہونا
 جَوْرٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ -
 جَوَارِبٌ جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ -
 جَوَارِبٌ جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ -
 جَوَارِبٌ جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ - جَوَارِبٌ -

اِسْتِجَارَ - اجازت مانگنا - اجازت طلب کرنا -

جَوَزُ الخُرْدِ جَوَزٌ اُخْذِيَّتِي - اریں جوڑا لٹی - اریں جوڑا لٹی میں پھل -

جَوَزَاءُ ایک برتن کا نام ہے -

تَجَاوَزَ فِي - حد سے گزر جانا کسی چیز میں حد اعتدال سے

بڑھ جانا - جَوَزُ اَلْاَسْنَسِ - لہ پاری - پاسپورٹ -

اِجْازَةُ اِجْازَت - ڈپلوما - لائسنس - اجازت کی اجازت

جَوَزُ اِجْازَتِ جَوَازِيْز - انعام - صلہ - عطا - بخشش -

جَوَازٌ - گزرگاہ - وہ لفظ جو کسی مراد سے کسی کی وجہ سے کسی

دوسرے معنی میں استعمال ہو - استعارہ جو حقیقت نہ ہو

جَوَازٌ - استعارہ غیر حقیقی طور پر

جَبَّاسٌ يَجْرُسُ جَوَسًا - جاوسی کرنا - کھون لگانا -

بہت تازہ کرنا - جَوَاشٌ نکتہ چینی - بہت جستجو کرنے والا

جَوَسُوٌّ - قصر - محل - حویلی -

جَوَشِيٌّ - چار آئینہ زرد کتہ

جَبَّاعٌ يَجْوَعُ جَوْعًا وَجَبَاعَةً - بھوکا ہونا -

جَوْعٌ بھوک - جَبَّاعٌ - بھوکا - گرسلا

جَوْعٌ كَلْبِيٌّ وَجَوْعٌ بَقْرِيٌّ - ایک بیماری جس میں سخت

بھوک رہتی ہے اور آدمی سیر نہیں ہوتا -

جَوْفٌ يَجْوِفُ جَوْفًا - کھوکھلا ہونا - اندر سے خالی ہونا

جَوْفٌ - پیٹ - سوراخ - ہوا خندا - پیٹ کے اندر -

تَجْوِيفٌ سوراخ - غار - خالی - جَوْفٌ - کھوکھلا ہونا - اندر

اَجْوِيفٌ - وہ فعل جس کا عین کلمہ جو فون علت ہو -

جَوْفٌ جمع اَجْوَافٌ گروہ - بڑی جماعت - مجمع

جَبَالٌ يَجْوَلُ جَوْلًا وَجَوْلَانًا - گھومنا - گردش کرنا -

پھرتے رہنا - جَوَالَةٌ بہت چکر اگانے والا -

جَبَالٌ - راستہ - (اردو طاقت) گھومنے کی جگہ

جَوْلَانٌ گردش - سیر - آوارگی - گشت -

جَامِرٌ جَامَاتٌ - ساغر - کٹورا - پیالہ -

جَاهٌ - عزت - شان و شوکت - مرتبہ

جَوَاهِرٌ جَوَاهِرٌ - مقابلِ عرض ہونے و جود میں اور کا

محتاج نہ ہو - ہر ایک پتھر جس سے مفید چیز نکالی جاسکے -

قیمتی پتھر - موتی - گوہر - مہیرا - نظرت - عنصر - قدر و قیمت -

خوبی روح - جَوَاهِرٌ - قیمتی پتھر -

جَوَاهِرِيٌّ - جواہر فروش - جوہری - ذاتی -

جَوَّجِيٌّ جَوَّجًا - آنا - پہنچنا - واقع ہونا - کرنا -

جَنِيْبٌ جَنِيْبٌ - قیصر کا گریبان - دل - سینہ - کعبہ

تھیلہ - جَنِيْبٌ - گریبان - لہاف -

جَنِيْدٌ جَنِيْدٌ - گردن - زرہ

جَنِيْدٌ حَبِيبٌ جواب ہے جیدا کہ نعم کو معنی ہاں -

جَنِيْشٌ شکر جمع کرنا - جَنِيْشٌ جَجِيْشٌ شکر نون

جَنِيْقَةٌ لاش - مردار - مردہ جسم - شہری ہونے لاش -

جَبِيْلٌ جَبِيْلٌ - قوم - ایک ندی کے لوگ - نسل

حرف الحاء

حَبَبٌ يَحْبَبُ حَبًّا وَحَبًّا مَحَبَّتٌ كَرَامٌ مَحْبُوْبٌ هُوَا -

حَبَبٌ ہا - پیارا بنانا - محبوب بنانا کسی کو پیارا بنانا -

اَحَبُّ - پسند کرنا - محبت کرنا - کسی چیز سے خطا ٹھاننا

تَحَبَّبَ اِلَى مَحَبَّتٌ وَدُوسْتِي كَا اِظْهَارٌ كَرَامٌ -

اِسْتَحَبَّ مَحَبَّتٌ كَرَامٌ - پسند کرنا - خوش ہونا -

حَبٌّ جَحْبُوْبٌ - دانہ - بیج - گولی - آبلہ - منگہ

إِخْتِدَاءً أَرَا - اوپر سے نیچے اترنا کہنگار

آثار - نازل - تَنْهَدُ ارَادَ اترنے والا

حَيْدَارٌ - شیر

هَذَا سَيِّدٌ يَحْدِثُ حَقًّا مِدَّ اُقْيَاسٍ يَأْتِي بِتَحْمِينَةٍ كَرِيمَةٍ
کرنا - اندازہ کرنا

حَدَاسٌ - دانائی - تیز فہمی - فراست

حَدَاقٌ يَحْدِثُ حَقًّا قَا - احوالہ کرنا - گھیرنا

حَدَاقَةٌ جِ اَحَدًا قِيٌّ بَعَثُ بِالسَّيَاحِ هَاتِقًا اَلْأَكْبَادَ

حَدَاقَةٌ جِ حَدَاقَةٌ - فسیلہ - بزمِ جِنِّ اَلْأَرْدَنَّ
دیوار یا احاطہ کھینچا ہوا ہو

حَدَا يَحْدُو حِدًا اَرَادَ نُوْحًا اَلْأَدْنَى خَوَانِي سَا
چلانا - آگ بگاکر ہانکنا - ترغیب دینا

حَادِجٌ حَدَا اَنْجُو - حدی خواں - اذموا کو تیز چلانے
کیلئے بد رفتاریں گایا جاتا ہے اس سے مومئی کہتے ہیں

حَادِجِيٌّ فَشَرٌّ كَمَا سَمَوَاں - یازدم

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا وَحَدْرًا اَنْتَ - بچا ہوشیار رہنا
پرہیز کرنا - حَذَرٌ - خطرہ سے آگاہ کرنا

حَدَرٌ - بچاؤ - پرہیز - احتیاط - تَحْدِثُ اَنْتَ اَرَادَ

حَدْرًا - اسم فعل ہو بمعنی ڈرنا خوف کر

حَدِرْتُ اَنْتَ اَوْ بَشِيرٌ مَحْدُورٌ - خطرہ - خوف

حَدَاثٌ يَحْدِثُ حَدَثًا - گرا دینا - طلاق دینا

حَدَاثٌ طَلَّقْتُ اَنْتَ مَحْدُورٌ - طلاق دینا

حَدِيقٌ يَحْدِقُ حِدَاقَةً - ماہر ہونا - فطرت ہونا

حَادِقٌ - ماہر - ہوشیار جمع حِدَاقٌ - مہنگا مسکن
المقالب - جوتا - چپلی - تلا

تَحْدِثُ اَنْتَ اَوْ بَشِيرٌ مَحْدُورٌ - اسی سے میرا ہونا متجاہل

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا وَحَدْرًا اَنْتَ اَرَادَ اترنے والا

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
وقف کرنا تا جب وغیرہ کھنسا - تَحْدِثُ اَنْتَ اَرَادَ اترنے والا

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ
حَدَرَ يَحْدِرُ حَدْرًا - اذموا ہونا - حِدْرٌ يَتَّبِعُ اَلْأَدْنَى اَنْتَ

حَرَزٌ یَحْرُزُ حَرَزًا - خوب حفاظت کرنا۔

یَحْرُزُ - تعویذ - حفاظت - پناہ - بچاؤ۔

حَرَسَ یَحْرَسُ حِرَاسَةً - حفاظت کرنا نگہبانی کرنا۔

حَارِسٌ حِرَاسٌ - محافظ - نگہبان - چوکیدار - سنتی

حِرَاسَةٌ - دارالخلافہ - زیر حفاظت علاقہ

حَرَسَ یَحْرَسُ حِرَاسَةً عَلٰی حَرَمٍ کرنا - لالچ کرنا - بہت چاہنا۔

حَرَسَ عَلٰی - آسانا حَرَسَ لالچی بہت چاہنے والا۔

حَرَفٌ یَحْرِفُ حَرَفًا یَحْرِفُ حَرَفًا - سنانا

حَرَفٌ یَحْرِفُ حَرَفًا - کلام میں کانٹ چھانٹ کرنا۔

اِحْتَرَفَ کُنَّارَهُ یَحْرِفُ - مائل ہو جانا اشرف کرنا۔

اِحْتَرَفَ - اختیار کرنا - حَرَفٌ کُنَّارَهُ

حَرَفٌ حَرَفٌ یعنی حرف - لفظ - بخوبی کے نزدیک

وہ کلمہ جو دو حرفوں سے مل کر بنے اسے حَرَفٌ یعنی

حَرَفٌ لفظ بہ لفظ - حَرَفٌ پیشہ - حَرَفٌ ہمیشہ

حَرَفٌ زبان کو چبنے والی دوا - حَرَفٌ اپنی اصل سے

پھیرا ہوا کلمہ کانٹ چھانٹ کی ہوئی کتاب (تادوست -

بیرس) کچھ حَرَفٌ کچھ - شیرسوا - ایک طرف جھکا ہوا

حَرَفٌ یَحْرِفُ حَرَفًا - آگ سے جلانا۔

اِحْتَرَفَ - جل اٹھنا - بھڑکنا - جلنا۔

حَرَفٌ حَرَفٌ گرمی - سوزش - جلن - تڑپ

حَرَفٌ آتش نشان جہاز - تار پسیڈو۔

حَرَفٌ آگ کی بھڑک - شعلہ آگ لٹنا

حَرَفٌ جلانے والی (تپ) احتراقی جل جانا جل اٹھنا

حَرَفٌ یَحْرِفُ حَرَفًا - ہلنا جلنا - حَرَفٌ - ہلانا۔

آسانا - ابھارنا - حَرَفٌ حرکت دینے والا - حَرَفٌ کرنا والا۔

ترغیب دہینے والا

حَرَکَاتٌ - اردو میں (ناجاہزہ کام)

حَرَکٌ یَحْرِکُ حَرَکًا - منع کرنا - روکنا حرام کرنا۔

حَرَمٌ یَحْرَمُ حَرَامًا - ناجاہزہ ہونا - ممنوع ہونا۔

حَرَمٌ یَحْرَمُ حَرَامًا حَرَامًا - دینا یا مقدس ٹھہرانا

اِحْرَامٌ - حرم میں داخل ہونا - حج میں مقدس حد میں داخل

ہونا - احرام باندھنا - اِحْتَرَامٌ مقدس سمجھنا - عزت

وحرمت کرنا - بزرگ جاننا - تعظیم کرنا - حَرَمٌ گرواگرد

بیت اللہ شریف - حَرَمَانٌ - مکہ و مدینہ شریف۔

حَرَمٌ حَرَمَاتٌ مقدس چیز - ممنوع چیز۔

حَرَمٌ - بیوی - خاندان - گھروالے۔

حَرَمٌ مکان کا زمانہ حصہ - شاہی محل کے گرواگرد

کی وسیع جگہ۔

اَلْاَشْهُرُ الْحَرَمُ - عزت کے چار مہینے - ذوالقعدہ۔

ذوالحجہ محرم اور رجب ان میں عربی زبان نا جاہزہ سمجھتے

تھے اسلام نے بھی اس بات کو برقرار رکھا۔

حَرَامٌ - خلاف حلال - ناجاہزہ - قابل عزت۔

حَرَمٌ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔

حَرَمٌ - ممنوع - ملعون - مردود۔

اِحْرَامٌ معین مقامات سے زیارت کعبہ اور حج کرنے

کے چند جاہزہ باتوں کو چھوڑ دینا اور بن سبیلے کپڑوں کے

ساتھ بدن کو ڈھانکے رکھنا۔

مَحْرَمٌ - بزرگ - معظم - معزز۔

مَحْرَمٌ واقف - لاچار دہ زبان اردو

حَرَامٌ - چودہ - ڈاکو - بددیانت۔

مَحْرَمٌ ج مَحَارِمٌ - ناجائز کام - جرم
 حَوْمَلٌ ہرمل - کالا دانہ - اسپندہ - ایک قسم کی بودا
 بُولٌ جُودِ صَوْنِ کے کام آتی ہے -

حِزْبٌ یَحْزِبُ حِزْبًا - کتاب کو ابواب میں تقسیم کرنا
 حِزْبٌ ج أَحْزَابٌ - گروہ - پارٹی - جتھا - کتاب کا حصہ
 اوراد و وظائف کی کتاب -

حِزْمٌ یَحْزِمُ حِزْمًا - پکے ارادہ والا اور مستقل
 مزاج ہونا حِزْمٌ مَضْبُوطٌ ارادہ والا -

حِزْنٌ یَحْزِنُ - رنجیدہ کرنا - غمناک کرنا -
 حِزْنٌ ج أَحْزَانٌ - غم - رنج - اُداسی حِزْوَةٌ غمگین
 حِزِیْنٌ غمگین - اداس -

حِشٌّ یَحِشُّ وَاحِشٌ حِشًّا - معلوم کرنا - محسوس کرنا
 حِشٌّ - حرکت - آہستہ آواز - احْشَاشٌ اوراک
 حَاشَتْ ج حَوَاشٍ دریافت کرنے کی قوت
 حَوَاشٍ خَمْسٌ پانچ نہیں (سو گھنٹا - سنڈا - دیکھنا -
 پکھنا - چھوٹا -) حِشِیْسٌ آہٹ - نرم آواز
 حَسِیْبٌ یَحْسِبُ حِسَابًا - شمار کرنا - گننا - پرواہ کرنا -
 حَاسِبٌ حساب چکانا -

حَسِیْبٌ یَحْسِبُ حِسْبَانًا - خیال کرنا لگان کرنا بوج
 بچار کرنا - غور کرنا -

حَسْبٌ یَحْسِبُ حَسْبًا حَسْبٌ وَاحِدٌ ہونا بشارت
 اور معزز خاندان سے ہونا -

حَاسِبٌ حَاسِبَةٌ کسی سے حساب پوچھنا -

إِحْتِسَابٌ اندازہ کرنا - ثواب کی امید رکھنا -

حَسْبٌ جُودٌ ہونا کفایت - اندازہ - خاندانی شرافت شمار -

حَسْبًا - موافق - مطابق

حَسِیْبٌ بدلہ لینے والا - معزز - منتہی

حِسَابٌ ج حِسَابَاتٌ - شمار - اندازہ - تعداد - کافی -

حِسَابَاتٌ مصیبت - محسوب شمار کیا ہوا - گناہوا

حَاسِبٌ حساب لینے والا حَسِیْبٌ مساوی - برابر -

حَسَدًا یَحْسِدُ حَسَدًا - حد کرنا حَاسِدٌ حد کرنے والا -

حَسُوْدٌ جُودٌ سے حد کیا جائے -

حَسْرٌ یَحْسِرُ حَسْرًا - تھکنا - جانا - کمزور ہونا -

حَسْرٌ - افسوس کرنا - تھکنا - افس بھرنا -

حَسْرَةٌ - افسوس - ندامت - تھکنا - افس -

حَسِیْرٌ افسوس کرنے والا -

حَسَمٌ یَحْسِمُ حَسْمًا - کاٹنا حَسَامٌ کاٹنے والی تلوار -

حَسُوْمٌ بد بختی -

حَسَنٌ یَحْسِنُ حَسَنًا - خوبصورت ہونا -

أَحْسَنٌ - نیک سلوک کرنا -

إِحْسَانٌ - اچھا جاننا - پسند کرنا -

حَسَنٌ ج حَسَائِنٌ - خوبصورتی - زینت - نیکی -

حَسِیْنٌ خوبصورت - أَحْسَنٌ زیادہ اچھا

حَسَنَةٌ ج حَسَنَاتٌ نیک - اچھا کام

إِحْسَانٌ - فائدہ پہنچانے والا

حَسِیْنٌ پسندیدگی - زینت زیبائت -

حَسَائِنٌ - اچھے کام - نیک عمل -

حَشِیْشٌ - خشک گھاس - بھنگ کا پودا

حَشَا شِیْنٌ - بھنگ پینے والے -

حَشْرٌ یَحْشُرُ حَشْرًا جمع کرنا - اکٹھا کرنا -

یَوْمَ الْحَشَاةِ - قیامت کا دن - اَلْوَا ہونے کا روز
 حَشَاةٌ ج حَشَاةٌ اَلْحَشَاةُ کبیر سے لکھتے -
 حَشَاةٌ جمع ہونے کی جگہ - میدان قیامت
 اَلْحَشَاةُ شرمندہ ہونا - مرعوب ہو جانا - ہدیت
 زور اور خوف زور ہو جانا -

اَلْحَقِیْقَاتُ ایک مردانہ مرض میں باوجود قوت باہ
 اور طاقت مردی کے موجود ہوتے ہوئے فریق ثانی
 کا شائبہ پڑنے کی وجہ سے طاقت مردی زائل ہو
 جاتی ہے اور مرد اپنے آپ کو امر و خیال کرنے لگتا ہے
 اس مرض کا علاج تقویٰ و مفرح قلب اور یہ کے استعمال
 سے کیا جاتا ہے -

حَشَاةٌ و حَشَاةٌ خاندان کو کہہ کر جاہ و جلال
 حَشَاةٌ - کنارہ لگانا - حاشیہ لکھنا -
 حَشَاةٌ اونی لوگ کتاب کا حاشیہ (اردو)
 حَشَاةٌ کلام کا زائد حصہ -

حَشَاةٌ فضول کلام والا - بکواسی
 حَشَاةٌ - بھرتی والا - بھرا ہوا - وہ کتاب جس کے
 کنارے پر حاشیہ لکھا ہوا ہو -
 حَشَاةٌ - استثنائے کلمہ جیسے مَرَبَّتِ الْقَوْمُ
 حَشَاةٌ سوائے زید کے میں نے قوم کو مارا
 کلمہ تشریح جیسے حَاشَا لِلّٰہِ خدائی پناہ -

حَاشَا لِلّٰہِ خدائی پناہ -
 حَصٌّ یَحْصُّ حَصًّا - کسی کے حصہ میں آنا -
 حَصٌّ ج حَصَصٌ - بخرہ - بجز حصہ قیمت نصیب
 حَصِبٌ یَحْصِبُ حَصْبًا - چوپا کا نکل آنا -

حَصْبٌ شکر ہے - کٹری - ایندھن
 حَصْبَةٌ - چوپا - خسرہ - ماٹا
 حَاصِبٌ ایسی سخت اور تیز آمدی جو چھوٹے پتھروں
 کو اڑالے جائے

حَصَصٌ - صاف اور عیاں ہو جانا -

حَصْرٌ یَحْصِرُ حَصْرًا وَاَحْصَرَ - گھیرنا - قید کرنا
 روکنا - باندھنا - حَصْرٌ حَصْرًا چاروں طرف سے غی
 گھیرنا - اَحْصَرَ روکا جانا - باندھا جانا - حَصْرٌ قید
 بندنا - حَصْرٌ قلعہ - ناکہ بندی

بِالْحَصْرِ - فی الحقیقت - صحیح طور پر حَصْرٌ پر تیز کار
 حَصِیرٌ تپالی حَصْوْرٌ قلعہ بند - گھرا ہوا - بند کیا ہوا
 حَصَلَ یَحْصُلُ حَصُولًا - ثابت ہونا - باقی رہنا -

حَصَّنَ یَحْصِنُ حَصْنًا - حاصل کرنا - جمع کرنا - اکٹھا کرنا
 حَاصِلٌ جمع حَوَاصِلٌ - باقی نتیجہ اَلْحَاصِلُ حصہ کوتاہ
 المختصر - نتیجہ - ناکہ - نفع حَصْوَلٌ - وقوع - وصولی -
 حَصْوَلٌ ج حَاصِلٌ نتیجہ - پیداوار - حاصل زمین
 حَصْنٌ یَحْصِنُ حَصْنًا و حِصَانَةٌ - منسوب و مستحکم
 ہونا - عورت کا پاک دامن ہونا حَصْنٌ قلعہ بند ہونا -

حِصْنٌ ج حَصُونٌ - قلعہ حَصِینٌ مضبوط حِصَانٌ
 گھوڑا حِصِینٌ حِصْنَةٌ پاک دامن -
 حَضَرَ یَحْضُرُ حَضْرًا - موجود ہونا - حاضر ہونا کسی جگہ
 آنا - پہنچنا -

حَضْرًا - حضور - سرکار کلمہ تعظیم ہے
 حَضْرَتِی شہر کار ہونے والا - حَاضِرٌ حَضْرًا
 موجود - آنکھوں کے سامنے

حَفِيدًا ج حَفَاةً پوتا۔ بیرو پیری
حَفَصَةٌ بھلائی کو اکٹھا کرنے والی۔
حَفِظَ يَحْفَظُ حِفْظًا عنایع ہونے سے بچانا۔ یاد کرنا
تَحَفَّظَ مَحَاطًا رہنا۔ چوکنا اور ہوشیار رہنا
حَافِظَةٌ قوت حافظہ یا ورکھنے کی طاقت۔
حَافِظٌ ج حُفَاظٌ زبانی یاد رکھنے والا۔
حَافِظَةٌ نگہبانی۔ سرپرستی۔ تحفوف بچایا ہوا یا دیکھا ہوا
حَفَلٌ يَحْفَلُ حَفْلًا لڑکوں کا اکٹھا ہونا۔
إِحْتِفَالٌ مجلس جمنا۔ جلسہ منعقد ہونا۔ اکٹھا ہونا۔
حَفْلٌ ج حَفَائِلٌ مجلس۔ جلسہ۔ انجمن۔ محفل۔
حَقٌّ يَحِقُّ حَقًّا۔ بحث میں غالب آنا۔ ثابت کرنا۔
معاوم کر لینا۔ یقین رکھنا۔
حَقَّقَ تصدیق کرنا۔ تحقیق کرنا۔
تَحَقَّقَ ثابِت ہونا۔ یقین کرنا۔ ضروری ہونا۔
إِسْتَحَقَّ حقدار ہونا۔ ضروری ٹھہرنا۔
حَقٌّ۔ سچائی۔ درست۔ ٹھیک۔ سچ۔ بطور ثبوت اور یقین
حَقِيقٌ بے زور اور۔ حق۔ لائق۔
حَقِيقَةٌ ج حَقَائِقٌ۔ واقعیت۔ سچائی۔ حقائق۔
حَقِيقٌ۔ اتلی۔ واقع۔ درست۔
أَحَقُّ زیادہ حق دار۔
حَقِيقٌ۔ تحقیق کرنا۔ یقین کرنا۔
حَقَّةٌ دُوبند وغیرہ یعنی عطر وغیرہ کی۔
حَقَبَةٌ ج أَحْقَابٌ لداغ۔ اسی سے جان یا نایزوانہ
حِقْدٌ کینہ۔ پوشیدہ دشمنی۔ نفرت۔
حَقْرٌ يَحْقِرُ حَقَارَةً۔ حقیر یا ذلیل جاننا۔ اہانت کرنا۔

الْحَاضِرُ۔ زمانہ موجودہ۔ زمانہ حال
حَضَانَةٌ و حَاضِرَةٌ شہری زندگی کی تہذیب
حَاضِرَةٌ۔ گفتگو سوال و جواب۔ حاضر جوابی۔
مَحَضَّرٌ۔ جمع ہونے کی جگہ۔ دستاویز۔ تمسک
حَضِنٌ يَحْضِنُ حِضَانَةً۔ اندھے سینا
حِضَانَةٌ بچوں کی پرورش اور خبر گیری اور تربیت
حِضْنٌ گود۔ بغل
حَطَّ يَحْطُّ حَطًّا گر جانا اِنْحَطَّ گرنا اترنا۔ نیچے آجانا
إِنْحِطَّ۔ انا۔ مفرولی۔ تنزل۔ حَطٌّ۔ یا حَطَّةٌ اُنْحِش
حَطَبٌ يَحْطِبُ حَطْبًا جلانے کی لکڑیاں کاٹنا یا جمع کرنا
حَاطِبٌ ایدھن چننے والا۔
حَاطِبُ اللَّيْلِ۔ کلام میں رطب و یابس ملانے والا۔
بہت کلام کرنے والا والا۔
حَطَامٌ الدُّنْيَا دُنْيَا كَا سَامَانٍ۔
حَطِيمٌ کعبہ شریف کی دیوار جو بیت اللہ سے باہر ہے
حَطْمَةٌ دوزخ کی آگ۔
حَطَّ يَحْطُّ حَطًّا نسیب والا ہونا
حَطٌّ خورش قسمتی۔ سعادت۔ حصہ دولت۔
مَحْطُوظٌ نعمت سے متمنع ہونے والا
إِحْتِفَاطٌ حِظٌّ یا لطف حاصل کرنا۔
حَذَرَ يَحْذَرُ حَذْرًا موشی کو باڑ کے اندر بند کرنا۔
منع کرنا۔ حَظِيرَةٌ باڑ۔ باڑا۔
حَظِيرَةُ الْقُدْسِ بھشت۔ فردوس۔ جنت
مَحْطُورَاتٌ منع کی ہوئی یا برام چیزیں۔
حَقْفَةٌ عورت کی سواری کی پالکی۔

تَحْقِیرٌ - تحقیق کیا ہوا - ذلیل سمجھا ہوا۔
 تَحْقِیرٌ ذَلِیلٌ - رسوا - خوار - تحقیق ذلیل سمجھنا
 حَقْلٌ ج حَقُولٌ سبز کھیتی - زرخیز کھیت
 حَقْنَةٌ ہر ایسی دوائی جو بیمار کی مقبرہ میں نشانی نکالنے
 کے لیے چڑھائی جائے۔
 اِحْتِقَانٌ حَقْنَةٌ کرنے کا عمل و پچکاری کرنا۔
 حَقْنَةٌ پچکاری کرنے کا آلہ۔
 حَاكٌ یَحْكُ حَكَّابٌ او علی گڑنا - ملنا - چھیلنا۔
 كَهْرَبَا - سونا کسوٹی پر کسنا۔
 حِلَّةٌ كَهْلٌ - خارش کی مرض حِكَاكٌ کسوٹی - حِكَاكٌ بَرْدٌ
 چھیل چھال۔
 حَكَاكٌ پتھروں کو رگڑ کر تھریں اور نگینہ بنانے والا۔
 حَكْمٌ حَكْمٌ حَكْمًا وَحُكُومَةٌ ب فیصلہ کرنا حکم دینا اختیار کرنا
 حَاكٌ حَكْمٌ حَاكِمَةٌ عقلمند ہونا - دانا ہونا۔
 حَاكِمٌ وَاحَاكِمٌ حکم کرنا - حاکم بنانا - فیصلہ صادر کرنا
 تَحَكَّمَ - اپنی مرضی سے فیصلہ نہوانا یا اپنی رائے سے
 فیصلہ دینا اِسْتَحَكَمَ - اچھی طرح عمل میں لانا مضبوط بنانا
 حَاكِمٌ ج اَحْكَامٌ - فیصلہ دانا - قانون - حَاكِمٌ حَاكِمَاتٌ
 حِكْمَةٌ ج حَاكِمٌ عقل - علم - دانائی - فلسفہ - فن طبیب - نبی
 باتوں کا علم - حکمت کی بات۔
 حَكُومَةٌ - بادشاہت - گورنمنٹ۔
 حَاكِمٌ ج حَاكِمٌ - قاضی - جج - گورنمنٹ کے عہدہ دار
 حَاكِمٌ ج حَاكِمَاءٌ - دانا - طبیب - فلاسفر - عالم - ڈاکٹر
 حَاكِمَةٌ مَالٌ - حَاكِمَةٌ كَهْرَبَى - عدالت
 حَكُومَةٌ مَانِحَةٌ - حَاكِمٌ بَجْتَةٌ - مستحکم۔

حَاكِيٌ یَحْكِي - حَاكِيَةٌ عَن - بیان کرنا - نقل کرنا - کہنا۔
 قَصْدٌ كَاذِرٌ كَرِيْمٌ - حَاكِيٌ - حَاكِيَةٌ بیان کرنے والا۔
 حَلٌ یَحِلُّ حَلًا حَلُولًا - اترنا - آرام کرنا - شیم ہونا۔
 اَزَادٌ كَرِيْمٌ - اَزَادٌ كَرِيْمٌ - آزاد کرنا۔
 حَلٌ یَحِلُّ حَلًا وَحَلًا لًا - جائز ہونا اور اہل حلال ہونا
 درست ہونا - اَحَلَّ - اِحْلًا - اِحْلًا سے نکالنا حلال قرار دینا۔
 اِسْتَحَلَّ - جائز سمجھنا یا حلال شمار کرنا۔
 حَلٌ - جائز - حلال - قسم سے بیت۔
 حَلَّةٌ ج حَالٌ - بنبہ - لہارہ - پوشاک
 حَلِيلَةٌ ج حَلَالٌ - بیوی - ساتھی۔
 اِحْلَالٌ ج حَلٌّ - کی رسومات سے فارغ ہونا۔
 تَحْلِيلٌ ورم اتر جانا - حل ہو جانا - گلانے کا عمل
 حَلُولٌ بگولا ہوا - حل کیا ہوا۔
 حَلَّةٌ سَرَاةٌ - اِسْتِشْنٌ - قیامگاہ۔
 حَلٌ - اترنے کی جگہ - ٹھہرنے کا مقام
 حَلَبٌ یَحْلِبُ حَلَبًا - دودھ دوہنا۔
 حَلَبٌ وَحَلِیْبٌ نکالا ہوا دودھ
 حَلَوْبٌ گڑ گڑ دودھ کی طرح بنایا ہوا۔
 حَلْبَةٌ سَبْتٌ - حَلَاجٌ رَوْنٌ وَهَنْنٌ والا
 حَلَزُونٌ گونگا - سنگھ۔
 حَلَفٌ یَحْلِفُ حَلْفًا - قسم کھانا۔
 حَلِیْفٌ پکا دوست - ہم عہد - رفیق۔
 حَلْفٌ ج اَحْلَافٌ - قسم - عہد - پیمان۔
 حَلَقٌ یَحْلِقُ حَلَقًا - سر توڑنا - حلق پر مارنا
 حَلَقٌ ج حُلُوقٌ - گلا - حلقوم - تالو۔

حَلَقَةٌ ج حَلَقَاتٌ - دائرہ کنڈل - گھیر - بالی - چھلا - کڑا
لوگوں کا مجمع حَلَاقٌ نائی - حجام - سر تراش
حَلَقُومٌ نرزا - گلا -

حَلَمٌ يَحْلُمُ حَلْمًا - خواب دیکھنا - نیند میں رویا دیکھنا -
حَلَمٌ يَحْلُمُ حِلْمًا - نرم خو ہونا - نرم دلی اور بردبار ہونا -
اِحْتَلَمَ - جوان ہونا - بالغ ہونا - حَلْمٌ يَحْتَلِمُ - نرم خوئی
حَلْمٌ ج اَحْلَامٌ خواب - رویا - بلوغت
يَحْتَلِمُ خواب دیکھنے والا حَلِيمٌ ج حَلَمَاءٌ نیک مزاج
بردار - درگزر کرنے والا -

حَلَا يَحْلُو حَلَاوَةً - میٹھا ہونا - لذیذ ہونا -

حَلِي الْجَلِي حَلِيًّا - عورت کا زیور پہننا -

حَلَاوَةٌ مِثْهُاسٌ حَلْوِيٌّ - مٹھی پیز مٹھالی -

حَلْوَانٌ - عطیہ - بخشش - نیس -

حَلْوَانِيٌّ - شیرینی فروش - حلوانی -

حَلْوٌ مِثْهُا - اھلی - بہت بیٹھا -

يَحْلِي مَزِينٌ ہونا - حَلِيَّةٌ زیور -

مَحْلِيٌّ - آراستہ - زیور پہنایا ہوا -

حَلِيَّةٌ - حلیہ - شکل و صورت

حَمٌّ يَحْمُ حَمًّا - گرم ہونا - کلا ہونا -

حَمٌّ يَحْمُ حَمًّا - بخارا ہونا -

حَمِيمٌ - گرم پانی - گہرا دوست -

حَمِيٌّ ج حَمِيَّاتٌ - بخار -

حَمُومٌ بخار والا - جسے بخار چڑھا ہو -

اِسْتَحَمَ - گرم پانی سے نہانا - حمام کرنا -

حَمَامَةٌ ج حَمَامٌ کبوتر - فاختہ ہر طوقدار پرندہ حمام ہوت

حَمَامِيٌّ - حمام والا -

حَمْدٌ يَحْمَدُ حَمْدًا او حَمْدَةً تعریف کرنا - قدر دانی کرنا -

بلکہ دینا حَمْدًا خدا کی تعریف کرنا - الحمد شدہ کہنا -

حَمِيدٌ - تعریف کیا گیا قابل تعریف -

الْعُودُ اَحْمَدُ - اعادہ زیادہ قابل تعریف ہے -

تَحْمِيدَةٌ ج مَحَامِدٌ - قابل تعریف کام

حَمْدًا بہت تعریف کرنے والا -

تَحْمِيدٌ تعریف کیا ہوا - منزا اور ثنا

اَحْمَدٌ زیادہ ... تعریف کرنے والا -

مَحْمَدٌ ہے شمار عمدہ خصالتوں والا -

حَمْرٌ لَالٌ رَنُكُنَا - لال کرنا

اِحْمَرٌ لال ہونا یا ہونا - سرخ ہونا -

حَمْرٌ مَسْرُوحٌ حَمْرٌ مَسْرُوحٌ گدھا

اِحْمَرٌ ج مَسْرُوحٌ مَسْرُوحٌ مَسْرُوحٌ کرنے والا

اِحْمَرِيٌّ - سخت سرخ - حَمْرٌ مَسْرُوحٌ مَسْرُوحٌ سے رنگا ہوا

حَمِيٌّ يَحْمِقُ حَمَقًا و حَمَاقَةً بیوقوف ہونا -

حَمِقٌ بیوقوف کہنا - اِحْمَقٌ بیوقوف

بِقَلَّةٍ اِحْمَقَاءٌ نرفہ -

حَمَلٌ يَحْمِلُ حَمْلًا اِطْمَانًا - برداشت کرنا - اطمینان

حَمَلٌ حَمَلَةٌ عَلَيَّ حَمَلِكُنَا - حَمَلٌ حَمَلٌ اِطْمَانًا

اِحْتَمَلٌ ہے ہانا - اطمینان ہونا -

حَمَلٌ ج اِحْمَالٌ - بوجھ - جنین - بچل -

حَمَلٌ ج حَمُولَةٌ بوجھ - بار - حَمَلٌ ج حَمْلَانٌ - بھیر کا بچہ

بَرَجٌ حَمَلٌ - حَمَلَةٌ - دھاوا - یوش - لِسَانٌ اِحْمَلٌ اِرْتَمٌ

حَمَالٌ پانڈی - قاب - بوجھ اٹھانے والا -

حَمُولٌ - بردبار۔ صابر۔ حَامِلٌ و حَامِلَةٌ - حَامِلٌ
 داملہ عورت۔ باردار عورت۔ اِحْتِمَالٌ - صبر۔ برداشت
 تحمل۔ تحملٌ عماری۔ کجاوہ۔ جنازہ۔ تاوت فحْمُولٌ اٹھایا
 محْتَمِلٌ - غالباً۔ قیاساً قابل برداشت۔ مَحْتَمِلٌ - برداشت
 کرنے والا۔ بردبار۔ مَحْمُولٌ بچائی نگہبانی کرنا۔ و کذا
 حَمِيْدَةٌ - ثنوت۔ نفرت۔ مَمْرُوتٌ - سرگرمی۔
 حَارِثِي حَفَاظَتٌ کرنے والا اَحْطَا اِم قانوان دان۔ کیں
 حَارِثِي حُنْفِيًّا عَلِيُّ كَسِي شَفَقَةٌ کرنا۔ ترس کھانا۔ کھ کرنا۔
 حَارِثِي زَمٌ دلی۔ رحیم۔ تَحَنُّنٌ رَحْمٌ دلی۔ شفقّت کرنا۔
 حُنْفِيٌّ ایک ادوی تمہ اور طوائف کے درمیان۔
 حَنِيفٌ رَقْتٌ یا رَحْمٌ سے بھر کی ہوئی آواز۔ جوشِ محبت
 حَنِيفٌ - مضبوط اور بڑے سے پیشا والا۔
 حَنِيفٌ - حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ غایبہ کی رائے
 کا پیرو جو فرقہ کے چوتھے امام تھے مگر احمد بن حنبل
 آپ کی تالیف کر یہ حدیث کی کتاب ہے۔
 حَنِيفٌ - گناہ۔ جھوٹی گواہی۔ جرم۔ دروغ۔ حافی۔
 حَنِيفٌ قُوْقٌ - بکھیرا۔ مُغْبِلٌ الْيُطَيْبٌ۔
 حَنْطٌ وَا حَنْطٌ - مردہ کو خوشبو لگانا۔ حَنْطٌ خَوْشْبُوْدٍ وَ حَنْطٌ
 مردہ کو مٹی کرنا۔ حَنْطَةٌ كِنْدِمٌ - حَنْفٌ يَحْنِفٌ حَنْفًا مَجْلَانًا
 حَنْفٌ حَنْفِيٌّ ہونا حَنِيفٌ مخلص موحّد۔ راست رو
 حَنْفِيٌّ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
 اجہاد اور رائے پر عمل کرنے والا۔
 اَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ امام اعظم کی کنیت آپ
 کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔
 حَنْطٌ - اندرائن کا پھل۔ تَحْنِيٌّ وَا حْنِيٌّ بئرھا ہونا۔

حَنْفِيٌّ بئرھا۔ تَرْحِيًّا - خمیدہ۔
 حَانُوْدُ حَانُوْدِيَّتٌ - دکان۔ ہر اسے شراب خانہ
 حَوْبٌ گناہ۔ تقصیر۔ خطا۔ حَوْتٌ مجھنی ایک بیج کا نام۔
 صَا حَبُّ الحَوْتِ لقب حضرت یونس علیہ السلام۔
 حَاجٌ يَحْوِجٌ وَا حْوِجٌ وَاِحْتِاجٌ اِلَى حَاجٍ ہونا۔
 حاجت مند ہونا حَا جَةٌ حَاجَاتٌ وَا حْوَارِجٌ حاجت
 ضرورت۔ مقصد۔ مراد۔ خواہش۔
 قَنْضِي حَا جَةٌ - پاننانہ پھرنا۔ اِحْتِيَاجٌ مُفْلِسٌ
 حُتَاجٌ - عاجز۔ تنگ دست۔ ضرور تمند۔
 حَارِ يَحْوَرٌ حَوْرًا - حیران ہونا۔ دھونا۔ سفید کرنا کپڑا
 دھوکر حَاوَرٌ حَاوَرَةٌ کسی سے باتیں کرنا سوال
 و جواب کرنا گفتگو ہیں۔
 حَارَةٌ حَارَاتٌ - کوچہ۔ شہر۔ محلہ۔ پڑا مکان۔
 حَوْرِيَّةٌ حَوْرٌ گوری عورت۔ سفید رنگ کی عورت
 حَوَارِيٌّ دوست۔ مددگار۔ صحابی۔
 حَوْرِيَّةٌ يَابِلِيْنٌ یا سنڈر کا دھرا۔
 حَاوَرَةٌ مکالمہ۔ مباحثہ۔ باہم گفتگو کرنا۔
 حَوْرَةٌ - بارہ۔ اعاطہ۔ وار الخلافہ
 حَوْصَلَةٌ کسی پرندے کا پوٹا یا معدہ
 حَاوُضٌ يَحْوِضٌ حَوْصًا پانی اکٹھا کرنا۔ حَوْضٌ بنا نا
 حَوْضٌ - تالاب۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 حَاوُضٌ يَحْوِضٌ حَيَا طَةً وَا حَاوُضٌ حَاوُضٌ
 حَاوُضٌ يَحْوِضٌ حَيَا طَةً وَا حَاوُضٌ حَاوُضٌ
 اِحَاطٌ يَحْوِطٌ بگھرنا۔ احاطہ کرنا۔
 اِحْتَاطٌ عَلِيٌّ نَگہبانی کرنا حَاوُضٌ ديوار۔ احاطہ باخ
 اَحْوَالٌ بہت ہوشیار۔ اِحْتِيَاطٌ ہوشیاری۔

مَحِيْطٌ اَعْلَاهُ كَرْنِي وَاللَّاحِظُ سَمْدَرٌ

حَاكٌ يَحُوْكُ حَوْكًا وَحِيَاكَةً مَبْنَا كِبْرًا وَغَيْرِهِ -

حَايِكٌ - جَلَاہَا كِبْرًا بِنْتِ وَاللَّاحِظُ كَلْبٌ كَلْبِي -

حِيَاكَةً بَاغِي كَالْكَامِ -

حَاَلٌ يَحُوْلُ حَوْلاً اِيكٍ حَاَلَتٍ سَي دُوسَرِي مِي بَدَلْنَا

حَوَّلَ تَبْدِيْلٌ كَرْنَا - تَحْوِيْلٌ كَرْنَا - اَحْوَالٌ اَتَمُّهُ طِيْرٌ صِي بَنَانَا -

تَحْوَالٌ اِلَى الْمَنْتَقَلِ هُوْنَا اِحْتِمَالٌ اِحْتِمَالًا - مَكَارَهُ هُوْنَا جَاكِرُهُ

اِسْتِحْوَالٌ مَتَغِيْرٌ هُو جَانَا - بَدَلٌ جَانَا - مَحَالٌ وَنَا مَكْنٌ هُوْنَا

حَاَلٌ جَ اَحْوَالٌ - حَاَلَتٌ - صَفَتٌ - وَضَعٌ قَطْعٌ

فِي الْحَاَلِ وَحَاَلًا - فُوْرًا - مَسْرُوْمَتٌ حَاَلَةٌ مَحَاَلَاتٌ

حَاَلَتٌ - طُوْرٌ - طَرِيْقَةٌ - حَاَلِيٌّ مُسَوْبٌ بِرِزْمَانَةٍ مَحَالٌ مَبْجُوْدٌ -

حَوْلٌ - طَاَقَتٌ - اِيكٌ سَاَلٌ - اَحْوَالٌ - مَبِيْنَا -

حَوْلٌ مَبِيْنَا بِن - حَوْلٌ - چَارُوں طَرَفٌ گِرُو اَگِرُو -

حَوَالَةٌ - قَرْضٌ اَتَا رْنَا - حِيْلَةٌ جَ حِيْلٌ - دَاوُلُكَاَتٌ

تَدْبِيْرٌ - حَكْمَتٌ - بَهَانَةٌ - تَحْوِيْلٌ وَ اِحْوَالَةٌ تَغْيِرٌ تَبْدِيْلٌ -

اِتْقَالٌ - مَحَالٌ خِلَافٌ عَقْلٌ لَّا مَحَاَلَةٌ بِي شَبِّهِ نَسْرُوْرْنَا

مَحْتَمَلٌ مَكَارَهُ جَدِيْدٌ مَسْتَحْتَمِلٌ - نَا مَكْنٌ -

حَبِيْثٌ نَظْرٌ مَكَانٌ مَبْنِي رَضْمَةٌ مَعْنِي كِهَا لٌ - چُوْنَكِه -

حَيْثُمَا - جِهًا لٌ كِهِيں جِبٌ كِهِيں -

حَوَاءٌ حَضْرَتٌ اَدَمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بِيُوِي نَسْلٌ اِنْسَانِي

كِي مَاں - حَيْثِيَّةٌ - اَرُوُو مِي لِيَاَقَتٌ - ثَرُوْتٌ طَاَقَتٌ

پَر بِلَا جَا تَا هِي - مِيْن هِيْذِهِ الْحَيْثِيَّةِ اِس دَمِ سِي

حَوِيٌّ يَحْوِي حَوَاِيَةً - اَكْمَا كَرْنَا - جَمْعٌ كَرْنَا -

اِحْتَوَى تَبَعٌ كَرْنَا - جَا مَعٌ هُوْنَا -

حَاوِيٌّ مَحْتَوِيٌّ كَبِيْرٌ نِي وَاللَّاحِظُ كَرْنِي وَاللَّاحِظُ كَرْنِي

حَاَرٌ يَحَارُ حَيْرَةً وَحَيْرَانًا حَيْرَانٌ وَپَرِيْشَانٌ هُوْنَا -

رَاہ بھول جَانَا تَحْيِيْرٌ كِسِي كَامٌ مِيں گَبِرْنَا حَيْرَانٌ وَحَاَرٌ

پَرِيْشَانٌ - بِي قَرَارٌ - مَتَحْيِرَةٌ جَ مَتَحْيِرَاتٌ سِيَارَهُ -

حَيْرٌ وَهٌ كُنْجَالُشٌ يَافِتْحَا جِس مِيں كُوْنِي جِسْمٌ سَا جَا و سِي -

حَيْضٌ وَبَيْضٌ مَجِيْدِيہ بَا تِ جِس سِي نَكْلْنَا مَحَالٌ هُو -

مَحْيِيضٌ مَجَا گِنِي كِي جَاہ -

حَاَصَتِ الْمَرْأَةُ عُوْرَتُ كِيُوْنٌ حَيْضٌ اَنَا -

حَيْضٌ مَا هُوَارِي كَا خُوْنٌ حَمَا يُضُّ حَيْضٌ وَ اِلَى عُوْرَتِ

اِسْتِحَاَصَةٌ خُوْنٌ حَيْضٌ كِي كَثْرَتٌ -

حَيْفٌ نَا اِنْسَانِي شَرْمٌ وَ اِلَى بَا تِ ظَلْمٌ مَسْتَمٌ - عُوْرُو تَعْدِي -

حَاَنٌ يَحِيْنٌ حَيْثًا وَ قَتٌ كَا نَزْدِيكٌ اَنَا -

حِيْنٌ جَ اَحْيَانٌ - وَ قَتٌ - رِزْمَانَةٌ -

اَحْيَانًا - كِهِيں كِهِيں - وَ قَتًا فُوْقًا - حَيْثِيْنٌ - تَبٌ - اِسْوَقَتٌ

حَيِيٌّ يَحْيِي حَيَاَةً - زَنْدِهٌ هُوْنَا - جِيْنَا - زَنْدِي كِي بِي سَرِيْنَا -

حَيِيٌّ حَيَاَةً مَشْرَانَا -

حَيَاَةٌ حَيَاَةً سَلَامٌ كَرْنَا - كِسِي كُو زَنْدِي كِي دُعَا دِيْنَا - اِسْتَحْيِي

كِسِي كُو زَنْدِهٌ رَكْنَا -

حَيٌّ وَ حَيٌّ هَلَا وَ حَيَّهْلٌ اُو - جِلْدِي اُو - پُحْرِي كُو

مَتَوَجِّهٌ هُو - اِسْمٌ فَعْلٌ هِي -

حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ - نَزْدِي كِي كِسِي كُو جِهٌ كَرُوِيَا نَا زِيْرُ هِي كُو

حَيَاَةٌ شَرْمٌ - حَيَاَةٌ زَنْدِي - حَيٌّ جَمْعٌ اَحْيَاءٌ زَنْدِهٌ -

حَيَّةٌ جَ حَيَاَتٌ سَا نِبٌ حَيَوَانٌ جَ حَيَوَانٌ جَانُوْر -

چُو چِيْر جَانٌ رَكْتِي هُو - جَانُوْر -

حَيَوَانِيٌّ فَطْرَتٌ تَتَعَلَقُ بِالنَّبْتِ رَكْنِي وَاللَّاحِظُ كَرْنِي

حَيَوَانِيَّةٌ حَمَا قَتٌ - جَانُوْرِيں - بِيُو قُوْنِي -

إَحْيَاءُ - زندہ کرنا - تَحْيِيَةٌ - تحفہ - سلام مبارک باوجود
 مَحْيَا - زندگی کا وقت یا جگہ اِسْتَحْيَاءُ شرم کرنا شرمیلیا
 مَحْيِي - جان بخشنے والا - زندہ کرنے والا -

بَابُ الْخَاءِ

خَبِثَتْ يَخْبِثُ خُبْنًا وَخَبَاثَةً ناپاک ہونا خراب ہونا
 خَبِثَتْ يَخْبِثُ خُبْنًا شرم ہونا رزی ہونا -
 خَبِثَتْ لِسَةً كِي مِيل -

خَبِيثٌ وَخَبَاثَةٌ شرارت - بدی -

خَبِيثٌ ج خَبَائِثٌ فائس قاجر -

خَبَائِثٌ بدنامی و رسوائی کے کام -

خَبِيرٌ يَخْبِرُ خَبِيرًا وَخَبِيرَةً جَا بِنَا اَزْمَانَا

اَخْبَرَ كَسِي اَكَاہ كَرَا اِسْتَفْبَرَ اَطْلَاعَ وَاَعْمَلُ كَرَا اَبْرَامَا كَرَا

خَبْرٌ ج اَخْبَارٌ - اَطْلَاعٌ وَاَقْفِيَةٌ -

خَبْرَةٌ عِلْمٌ - تَجْرِبَةٌ خَبِيرٌ وَاَقْفِيَةٌ كَارِ خَبْرٌ رُوِي

خَبِيْرًا نَابِيًا - خَبِيْرٌ يَخْبِرُ خَبِيْرًا كَهَانًا -

تَخْبِطُ پَاكَل بِنَا - خَبَاطٌ پَاكَل پِن - مَجْبُوْطُ الْخَوَاسِ

پَاكَل جَنُوِي - خَتْرٌ يَخْتَرُ خَتْرًا وَاَعْمَلُ وَاَبْرَامَا وَاَبْرَامَا

وَاَعْمَلُ وَاَبْرَامَا وَاَبْرَامَا -

خَتْمٌ يَخْتَمُ وَخَتْمًا وَخَتْمًا مَرَّ لِكَا نَا مَرَّ لِكَا نَا

تَخْتَمُ - اِنْمُوْطِي رِيْنَا - اِخْتَمْنَا پُوْرَا كَرْنَا -

خَتْمٌ ج خَتْمٌ وَاِخْتَامٌ - مَرَّ سَمِيْبٌ - خَاتَمٌ

ج خَوَاقِيْمٌ اِنْمُوْطِي - مَرَّ خَاتِمَةٌ تَكْمِيْلٌ - نَتِيْجَةٌ - اَخِيْرٌ

خِتَامٌ مَرَّ لِكَا نَا كِي حِيْرٌ خَتْمٌ مَرَّ لِكَا نَا

خَتْنٌ يَخْتَنُ خَتْنًا فَتَنَهُ كَرْنَا خِتَانٌ وَخِتَانَةٌ خَتْنَةٌ
 خَتْنٌ وَاَبْرَامَا - وَاَبْرَامَا خَاتَمٌ مَرَّ سَمِيْبٌ مَرَّ سَمِيْبٌ
 خَلٌ يَخْلُ خَلًا شَرْمِنْدَه مَرَّ شَرْمِنْدَه مَرَّ شَرْمِنْدَه
 خَلٌ رِيْنَا - خَلٌ شَرْمِنْدَه مَرَّ شَرْمِنْدَه مَرَّ شَرْمِنْدَه
 خَدَجٌ خَدَاوٌ رَسَاوَةٌ - كَالٌ - اَخْدَاوَةٌ - لِسِي كَالِي

خَدِيْرٌ يَخْدِيْرُ كَثْرَتٌ مَرَّ سَمِيْبٌ مَرَّ سَمِيْبٌ

خَدَا اَجٌ - نَاتَمَامٌ - نَاقِصٌ - كَامٌ -

خَدِيْرٌ يَخْدِيْرُ خَدَاوَةً - سُنُّ يُوْرَا نَا - لِسِي كَالِي

تَخْدِيْرٌ يَخْدِيْرُ سُنُّ يُوْرَا نَا سَخْدِيْرٌ لِسِي كَالِي

سُنُّ كَرِيْنَةٌ وَاَلَا خَدَاوَةٌ لِسِي كَالِي

مَخْدَاوَةٌ - پُرُوْهٌ نَشِيْنٌ عُوْرَتٌ خَدَاوَةٌ وَاَخْدَاوَةٌ

كُوْرُوْهٌ مِيْنٌ رَكْعَتَا خَدَاوَةٌ پُرُوْهٌ -

خَدَاوَةٌ يَخْدَاوُ خَدَاوَةً - وَاَعْمَلُ وَاَبْرَامَا - فَرِيْبٌ وَاَبْرَامَا

خَدَاوَةٌ يَخْدَاوُ - وَاَعْمَلُ وَاَبْرَامَا كِي كُوْشَشٌ كَرْنَا -

خَدَاوَةٌ وَاَبْرَامَا وَاَبْرَامَا ج خَدَاوَةٌ - فَرِيْبٌ

وَاَعْمَلُ وَاَبْرَامَا - خَدَاوَةٌ وَاَبْرَامَا وَاَبْرَامَا -

خَدَاوَةٌ وَاَبْرَامَا - بَرَا مَكَارٌ -

خَدِيْمٌ يَخْدِيْمُ خَدِيْمَةً خَدِيْمَةٌ كَرْنَا - مَدُوْدِيْنَا

خَدِيْمٌ ج خَدَاوَةٌ مَرَّ مَرَّ خَدَاوَةٌ - مَدُوْدِيْنَا

يَخْدُوْمٌ مَرَّ مَرَّ خَدِيْمَةٌ كِي جَاوَةٌ - مَاتٌ -

مَسْتَحْدِيْمٌ مَرَّ مَرَّ

خَدَلٌ يَخْدُلُ خَدَلًا وَخَدَلًا لَانَا مَرَّ مَرَّ

نَا مَرَّ مَرَّ

مَخْدُوْلٌ - ذَلِيْلٌ جِيْنٌ كِي مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ

مَرَّ مَرَّ

خَرَّبَ يَخْرِبُ خَرَابًا بِنَارٍ سَيِّئَةٍ كَرْنَا -

خَرَبٌ يَخْرِبُ خَرَابًا بِنَارٍ سَيِّئَةٍ كَرْنَا -
ویران ہونا۔ ڈھ جانا۔

خَرِبٌ يَخْرِبُ خَرِبًا وَخَرَبٌ وَآخَرِبٌ -
ڈھانا۔ مسمار کرنا۔ آجائنا۔ بر باد کرنا۔

تَخْرِبُ بِنَارٍ سَيِّئَةٍ كَرْنَا - خَرَابٌ بِنَارٍ سَيِّئَةٍ كَرْنَا -
خَرَابَاتٌ ویران مقام۔ غیر آباد۔ مرادی معنی تخریب خانہ

تَخْرِبٌ - خراب کرنے والا۔ سٹیٹیا ناس کرنے والا۔
خَرُوبٌ وَخَرُوبٌ اَبَا جُرِي بَدِي -

خَرِبٌ اَبَا جُرِي بَدِي -

خَرَجٌ يَخْرُجُ خُرُوجًا وَخُرُوجًا مِنْ بَابٍ يَخْرُجُ -
چلے جانا ظاہر ہونا۔ اَخْرَجَ اِخْرَاجًا نَكَالِيًا -

اِسْتَخْرَجَ اِسْتِخْرَاجًا كَرْنَا - تَرْجَمَهُ كَرْنَا - سَلَهُ حَلَّ كَرْنَا -

خُرُوجٌ اِخْرَاجٌ زَيْنٌ كَامِعًا - لَكَانَ -

خِرَاجٌ نَيْسٌ يَحْصُلُ - خُرُوجٌ - تَوْشَهُ دَانَ -

خِرَاجٌ - پھوڑے۔ پھنسیاں۔ آبلے۔

خَارِجٌ بَابٌ كَامِعٌ - ظَاهِرٌ حَيْثُ

خَارِجِيٌّ - بَاعِيٌّ جَمْعُ خَوَارِجٍ بَاعِيٌّ اَوَّلُ فَا رَجِيٌّ نَدْبِيٌّ كَرْنَا
الْوَزَارَةُ الْخَارِجِيَّةُ وَزَيْرٌ فَا رَجِيٌّ -

يَوْمَ الْخُرُوجِ - عِيدٌ كَادُونَ خُرُوجٌ نَكَاسٌ - بَابٌ يَخْرُجُ
كِي جَابَةٌ مَخْرَجِيْنَ اِسْمٌ نَكَاسٌ تَوْشَهُ كَرْنَا سَامِيًا

جَمْعٌ سَمِيٌّ خَارِجٌ بَابٌ يَخْرُجُ - اِلَى الْخَارِجِ
بَابٌ كَرْنَا - بَابٌ يَخْرُجُ - خُرُوجٌ بَرَا بَدِيًا -

خَرِيدٌ بَاكِرٌ عَوْدٌ - بَدِيٌّ عَوْدٌ -

خُرْدَةٌ - رِيْزٌ كَرْنَا وَتَفْرَقُ يَجِيْثًا يَجِيْثًا سَامَانٌ خُرْدَةٌ فَرُوْشٌ

خَرِيْسٌ يَخْرِسُ - خَرَسًا - كَرْنَا - اَخْرَسَ كَرْنَا -

خَرَشُوْتُ كَنْدِيَارِي - كَيْلِي - بَادِ نَجَانٌ وَشَتِي

خَرَّاصٌ كَذَابٌ جَهْلِيٌّ بَرْنِيٌّ وَانَا -

خَرَطٌ يَخْرُطُ خَرَطًا - مَجْلِكًا اَتَارْنَا - مَجْلِيْنَا - مَجَالٌ

اَلْكَرْنَا خِرَاطَةٌ نَزَادِي كَا مِشِي - خَرَّاطٌ - خَرَاوَكْرِيْنَا

خَرِيْطَةٌ اَلْكَرْنَا نَقْشَةٌ - تَمِيْلَةٌ -

خَرُوْطٌ - خَرَادٌ كَرْنَا - خَرُوْطِيٌّ كَاوَدِيٌّ -

خَرُطُوْمٌ - بَاتَمِي كِي سُوْنَدٌ خَرُطُوْمِيٌّ بَاتَمِي سُوْنَدِي بُوْنِي

جَوْرَسِيُوْنٌ مِيْنٌ مِيْدَا بُوْنِي سِيْءٌ اَوْرَسُوْمَتٌ كَرْمِي مِيْنٌ خُوْبٌ

بَحَاثِي مِجْلُوْمِي سِيْءٌ اَوْرَسُوْمَتٌ كَرْمِي مِيْنٌ خُوْبٌ

نَظْرَانِي سِيْءٌ لِيْكِنٌ اِسْمِيْنٌ شَرُوْعٌ هُوْسِيْءٌ پَرْمُوْرَةٌ بُوْرَكْرِي

خَشَكٌ هُوْبَاثِي سِيْءٌ طَبِيْبٌ اِسْمٌ كِي پَانِي مِيْنٌ فُوْلَادٌ كَا

كَشْتَةٌ تِيَارٌ كَرْنَا كَرْنَا - بُوْسَعْفٌ مَجْرَاوِيْرِيْنَا اَوْرَسُوْمَتٌ

بَحْسٌ كِي اَمْرَاضٌ مِيْنٌ اِسْتِمَالٌ هُوْبَاثِي سِيْءٌ -

خَرَاطِيْنٌ نِيْجُوْسِيْءٌ يَا كَرْمٌ مَجْرُوْمِيْنَا اِسْمَانٌ كِي مَوْسَمِيْنَا

پَانِي كِي اَنْدَرِيْتِيْءٌ پَمَرْتِيْءٌ مِيْنٌ مَجْلِيَايَا بَاكِرِيْنَا اِسْمَانٌ

كَانُوْنٌ پَرْمَا كَرْمِيْنَا كَرْمِيْنَا كَرْنَا كَرْنَا -

اِخْتَرَعٌ يَخْتَرِعُ اِخْتِرَاعًا - مِجْرَانًا مِجْرَانًا - اِيْجَادٌ كَرْنَا

نِيَا مِيْدَا كَرْنَا - فَرِيْبٌ اَوْرَسُوْمَتٌ اَوْرَسُوْمَتٌ

اِخْتِرَاعٌ اِخْتِرَاعٌ اِخْتِرَاعٌ اِخْتِرَاعٌ اِخْتِرَاعٌ اِخْتِرَاعٌ

دَرِيَا فَرْتٌ - اِسْمٌ مَوْسَمِيْنَا - اِسْمٌ اِيْجَادِيٌّ اِسْمَانٌ كَرْنَا

خُرُوْعٌ - مِيْدَا مِجْرَانِيْنَا اِسْمَانٌ اِسْمَانٌ اِسْمَانٌ اِسْمَانٌ

دَرَفْتٌ كِي مِجْرَانِيْنَا اِسْمَانٌ اِسْمَانٌ -

خَرِيْفٌ يَخْرَفُ خَرَاْفَةً بَرْمَا مِيْنَا سِيْءٌ مِجْرَانًا

فَا تَرَا الْعَقْلُ هُوْبَاثِي سِيْءٌ -

خَرَانَةُ جُ خَرَفَاتٌ - بیہودہ کلام بے عقلی کی باتیں۔

خَرِيفٌ - موسم خزاں۔ موسم خریف کی بارش۔

خَرَقٌ يَخْرُقُ خَرَقًا - پھاڑنا۔ پھوٹ نکلنا۔ عادت

کے یا رسم کے خلاف ظاہر ہونا۔ اِخْتَرَقَ جھوٹا ہونا

خَارِقُ الْعَادَةِ - عجیب۔ جو ہمیشہ کے معمول کے

خلاف ہو۔ معجزہ جمع۔ خَوَارِقٌ - غیر متعاد واقعہ۔

خَرَقَةٌ - ٹوٹا کپڑا جو صوفیا و کالباس ہوتا ہے۔

خَرْزُوبٌ وَخَرْزُوبٌ - ایک سدا بہار جنگلی درخت

جس میں پھابیاں لگتی ہیں۔ اور جو دوئی کے کام آتا ہے

خَيْرٌ نَقِيٌّ لِعَمَّانِ الْكَبْرِينِ امر راتیس کا محل جو کوفہ میں تھا۔

خَيْرٌ شَيْبِيٌّ كَيْرٌ خَيْرٌ رُشِيمٌ كاسوداگر۔

بَحْرُ الْخَزْرِ - بحیرہ کسپین۔

خَيْرِزَانٌ - خلافت عباسی کی ایک شہرہ یونڈی

بانام جو متنبہ بھی تھی۔

خَرْفٌ مَثِيٌّ كَيْرٌ مَثِيكِرٌ -

خَزْوَمٌ ایک تبدیل کا اسم۔

خَزْوَمٌ يَخْزُو خَزْوَمًا جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

خَزَانَةٌ وَخَزَائِنٌ جُ خَزَائِنٌ - خزانہ رکھنے کا مکان

بیکرین۔ روپیہ اکٹھا رکھنے کی جگہ۔ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ

خَزَائِنٌ جُ خَزَائِنٌ بیکرین۔ گودام ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔

خَزَانَةُ الْكُتُبِ لائبریری کی کتاب خانہ۔

خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ

خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ خَزَائِنٌ

خَسٌّ يَخْسُ خَسَّةً وَخَسَّاسَةٌ رَزِيٌّ ہونا۔

کمینہ و حقیر ہونا۔ کنجوس و بخیل ہونا۔

خَسْبِيٌّ رَزِيٌّ - بخیل۔ کنجوس۔

خَسَائِيٌّ رَزِيٌّ بِنٌ - بخل۔ کنجوسی۔

خَسٌّ - ایک خوشبودار گھاس جس کی ٹھیاں بنتی ہیں اور

جن پر پانی چھڑکنے کے بعد ہوا چلنے سے خوشبو پیدا

ہوتی ہے۔ کا ہو کو بھی کہتے ہیں۔

خَسْرٌ يَخْسِرُ خَسْرًا وَخَسَارًا وَخَسَارَةٌ کھو دینا

نقصان اٹھانا۔ گھانا پانا۔ خَسْرَانٌ ٹوٹا۔ گھانا۔

خَاسِرٌ - ٹوٹا یا گھانا پانے والا۔

تِجَارَةٌ خَاسِيَةٌ نَقْصَانٌ مَالِ تِجَارَتٍ - ٹوٹے

کی تجارت۔ اَخْسَرُ بہت نقصان اٹھانے والا

خَسْفٌ يَخْسِفُ خُسُوفًا - دھنس جانا۔ چاند کو گھن لگنا

كُسُوفٌ سورج کو گھن لگنا۔

خَشَعَاتٌ پست یعنی افیوں کا پودا۔ خَشَبٌ لُكْرِيٌّ

خَشَابٌ لُكْرِيٌّ -

خَشَعٌ يَخْشَعُ خَشُوعًا تا بعد ہونا عاجزی کا اظہار کرنا

فروتی و انکساری دکھانا۔ خَاشِعٌ فِرْتَنٌ مَنكِرٌ

المزاجِ يَسْكِينُ مَتَوَاضِعٌ - خضوع کرنے والا۔

تَخَشَعٌ - فروتنی۔ عاجزی۔ تواضع۔

خَشِيْمٌ نَاكٌ كِي بَرٌّ نَهْنَا -

اَخْتَمٌ نَاكٌ كَامَرِيٌّ جِي سِي خوشبو یا بدبو محسوس نہ

ہو اور قوت شاعر بیکار ہو۔

خَشِنٌ يَخْشِنُ خَشُونَةً سَخْتٌ ہونا۔ کھردرا ہونا۔

مُوْثَا ہونا خَشِيْنٌ کھردرا۔ موٹا۔ جھوٹا۔ اَلْكَرُّ - اَجْدَةٌ تَبَا

خَشِيٌّ يَخْشِي خَشِيَّةً - خوف کرنا۔ ڈرنا۔ دہشت

کھانا۔ خَشِيٌّ - رُغْبٌ ڈالنا۔

خَصَّ يَخْصُّ خُصُوصِيَّةً کسی چیز کو اس کی خصوصیت کے ذریعہ امتیاز دینا۔ خاص کرنا۔ ممتاز کرنا۔

اِخْتَصَّ بِکسی چیز سے ممتاز ہونا۔ مختص ہونا۔ خاص۔ عام کی ضد۔ مشہور۔ لائق۔ علیحدہ۔ اول درجہ کی

یا نہایت اعلیٰ چیز۔

خَاصَّةً جِ خَوَاصِّ خاص صفت یا کسی چیز کی خاصیت خَوَاصُّ بڑے لوگ خاصیت جِ خَصَائِصِ خاص صفت خصوصیت۔ قَلَى الْخُصُوصِ خاص کر خصوصیت کے ساتھ۔ سب سے بڑھکر۔ خُصُوصِيَّةً خاص خصوصیت

الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے آدمی۔ اِخْتَصَرَ يَخْتَصِرُ اِخْتِصَارًا مختصر کلام کرنا یا مختصر کرنا۔ مختصر۔ چھوٹا۔ تھوڑا۔ کم کیا ہوا۔

خَاصِرَةٌ۔ پہلو۔ کمر۔ دد پہلویا کمر درد کی بیماری۔ خَصَلَ يَخْصِلُ خَصْلًا کات ڈالنا۔ لگ کرنا۔

خَصَلَةٌ جِ خِصَالٍ وَخِصَائِلٍ خصوصیت۔ چچی یا پری صفت۔ عادت۔ رواج۔ خو۔ رسم۔ دستور۔

خَصَمَ يَخْصِمُ خَصْمًا جھگڑے میں غالب ہونا۔ خَاصِمٌ يَخَاصِمُ خِصَامًا وَخِصَامَةً جھگڑا کرنا۔

بہم مقابلہ کرنا۔ مقدمہ لڑنا۔ کسی پر نالاش کرنا۔ خَاصِمٌ۔ آپس میں جھگڑنا۔

خَصَمٌ جِ خُصُومٍ۔ نہ مقابل۔ مخالف دشمن۔ خِصَالٌ منار۔ مخالف

خِصِي يَخْصِي خِصِيًا خصی کرنا۔ آخرت کرنا۔ نامردی یا خوب بنانا خصی جس کے خصیے نکال دیئے گئے ہوں خوب۔ پھیلا۔ خواجہ سرا۔

خَضِبَ يَخْضِبُ خَضْبًا وَخَضَبَ زَنْكًا خَضَابًا خَضَابٌ۔ رنگ۔ ہندی۔ وسمہ وغیرہ جو بالوں اور ہاتھ پاؤں کو رنگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

خَضِيبٌ وَخَضُوبٌ رنگا ہوا خضاب کیا ہوا۔ خَضِرَ يَخْضِرُ خَضْرًا۔ سبز ہونا۔ تروتازہ ہونا۔ ہر اچھا ہونا

خَضِرٌ وَخَضِرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا نام خَضِرَةٌ سبزی۔ سبز گھاس پھوس۔ اَخْضَرًا۔ سبزی یا کھانسی

مائل سبز۔ خَضْرَاءُ آسمان۔ خَضْرَاءِيٌّ فارس سے لوگ جو اسلام کے شروع میں سیریا میں آباد تھے۔

خَفَعَ يَخْفَعُ خَفْعًا عاجزی کرنا۔ فروتنی کرنا یا انکساری و اطاعت کرنا خَافِعٌ عاجزی کرنے والا اطاعت کرنے والا

خَطَّ يَخْطُ خَطًّا قَلْبِي پر نشان کرنا۔ لکھنا۔ لکیر کھینچنا۔ خَطُّوطٌ واحد خَطٌّ خط۔ لکیر۔ تحریر۔ رقم۔

مَخْطُوطٌ جِ مَخْطُوطَاتٍ لکھی ہوئی تحریریں۔ خَطَّاطٌ۔ کاتب۔ نوشتنویس۔

مُخَطَّطٌ خوبصورت۔ دھار پدار۔ خَطِيٌّ يَخْطِئُ خَطَاءً غلطی کرنا۔ چوک جانا۔ خطا کرنا یا گامزن کرنا

اِخْطَاءً يَخْطِئُ اِخْطَاءً غلطی کرنا یا قصور کرنا۔ خَطَاءٌ جِ خَطَايَا وَخَطِيئَاتٍ قصور یا غلطی

خَطِيٌّ قصور والے خطی غلطی کرنا۔ خَطْبٌ يَخْطُبُ كِتَابَةً وَخَطَابَةً وعظ کرنا۔ پھوڑنا۔ خطبہ پڑھنا

خَاطِبٌ يَخْاطِبُ خِطَابًا وَخَاطِبَةً کسی سے گفتگو کرنا مخاطب ہونا۔ مَخْاطَبٌ باہم باتیں کرنا۔

خُطْبَةٌ خِطَابٌ بیکر۔ ایڈریس۔ تقریر۔

خِطْبَةٌ - منگنی کرنا - نسبت کرنا شادی کا پیغام دینا -

خَطِيبٌ - خطبہ پڑھنے والا - مقررہ لکچرار

مَخَاطَبٌ - جس سے خطاب کیا جاوے -

مَخَاطَبُ - خطاب کرنے والا - الخطب - مثل اور دشوار کام آیت

خَطَرَ - خَطْرٌ - خَطَرًا - وَخَطُورًا - فِي قَلْبِهِ - ب - او علی

دل میں خیال رزنا - بھری بات کا یاد آنا - مَخَاطِرٌ - خطرہ

خَاطِرٌ - بِنَفْسِهِ - لِيَسْأَلَ - كَوَاطِرُهُ - فِي كَلِمَاتِهِ -

خَطْرٌ - ج - اَخْطَرُ - وَخَطَرَ - اَشْ - خَطْرٌ - ج - اَخْطَرُ - اَنْدَرِشْتِ

خَاطِرٌ - ج - خَوَاطِرٌ - دِل - فِكْر - تَصَوَّر

مَكْسُورًا - اِنَا - طَوْرٌ - دِل - شَكْسَةٌ - اَدَاس

خَطِيرٌ - بَرٌّ - مَعْرُزٌ - عَالِي - دَرَجَةٍ -

خَطَفٌ - يَخْفُفُ - خَفَفًا - اَجْكٌ - لِيَنَازِلَ - بَاجَانًا - جَبِيحًا

خَطَافٌ - اَبَابِلٌ - خَاطِفٌ - جَا - پُونَد - ڈالنے والی بجلی -

خَطَامٌ - نِكِيلٌ - رَسِيٌّ -

خَطْمِيٌّ - مَلٌّ - نِيرَةٌ - خَطْمِيٌّ

خَطْمَةٌ - ج - خَطَايَا - كَنَاءٌ - جَرْمٌ - تَطْلِيٌّ

خَطْوَةٌ - ج - خَطَوَاتٌ - قَدَمٌ

خَفٌّ - يَخْفُفُ - خَفَّةٌ - بَلَا - هُونًا - سَبَكٌ - هُونًا -

خَفَفَتْ - تَخَفِيْفًا - بَلَا - كَرْنَا - كُفَانًا -

خَفِيْفٌ - بَلَا - اَسَانٌ - كَمٌ - وَزَنٌ -

مَخْفَفٌ - بَلَا - كَمَا - هُوَا - كَمٌ - يَا - اَسَانٌ - كَمَا - هُوَا -

اِسْتَحْفَافٌ - بَلَا - جَانَانًا - بے قدری کرنا بے وقعتی کرنا تحقیر

وَتَذَلُّلٌ - كَرْنَا -

خَفٌّ - مَوْزَةٌ - جَمْرَةٌ - كِي - جَرَابٌ - يَا - جَوْتِي -

خَفْتَانٌ - جَنَكٌ - كَارَةٌ - زَرَةٌ -

خَفَّاشٌ - جَمَّكَ - دُرٌّ - شَبٌّ - پَرٌّ

اَخْفَشٌ - كَمْرٌ - نَظْرٌ - وَالَا - اِكْبٌ - نَحْوِيٌّ - كَا - نَامٌ -

خَفَضٌ - يَخْفِضُ - خَفَضًا - پَسْت - كَرْنَا - نِجَالًا -

خَافِضٌ - اَسْمَاءٌ - اَللّٰهِ - فِي - اِيكٌ - نَامٌ - سَبٌّ - جَا - جَرَكْرَكٌ - وَالَا -

خَفِقٌ - يَخْفِقُ - خَفَقَانًا - دِل - كَا - دَهْرٌ - كَرْنَا - يَا - پَرَكْنَا - يَا - پَرَكْنَا -

خَافِقَانٌ - مَشْرِقٌ - وَمَغْرِبٌ - اِشْيَاءٌ - يُوْرِبٌ -

خَفِيٌّ - يَخْفِيٌّ - خَفَاءٌ - حَمْبٌ - جَانًا - پُوْشِيْدَةٌ - هُونًا -

اَخْفِيٌّ - يَخْفِيٌّ - اِنْخَفَاءٌ - مَخْفِيٌّ - كَرْنَا - خَفِيَّةٌ - نَظْرٌ - سَبٌّ - لَوْ - جَمَلٌ - مَخْفِيٌّ

خَفِيٌّ - ج - خَفَايَا - پُوْشِيْدَةٌ - رَلَدٌ - مَجِيْدَةٌ -

خَافِيٌّ - مَخْفِيٌّ - اِنْخِفَاءٌ - پُوْشِيْدَةٌ - كَرْنَا -

خَافِقَانٌ - ج - خَوَاقِيْنٌ - پادشاه - شہنشاہ -

خَلَّلٌ - تَرَشٌ - هُونًا - سَرَكَةٌ - بِنَا - مَخْلَلٌ - اَبُو - مِثْنِيٌّ - خَلٌّ - سَرَكَةٌ

خَلٌّ - كِي - رُوْسِيٌّ - خَلِيْلٌ - جَابِيٌّ - رُوْسَتٌ -

خَلَّلٌ - بَطْمِيٌّ - رَنْدَةٌ - خَلَّةٌ - مَحَبَّتٌ - وَرُوْسِيٌّ - شَفَقَتٌ - وَمَحَبَّتٌ

خَلَالٌ - وَاتَمُّوْنَ - كَا - خَلَالٌ - اِخْتِلَالٌ - وَبَاغِيٌّ - خِرَابِيٌّ - ذَهَبِيٌّ - فَاہ

مَخْلَلٌ - ذَهَبِيٌّ - طَوْدٌ - خَرَابٌ - شَدَةٌ - فَاَسَدٌ - الْعَقْلُ

مَخْلَلٌ - مَسْمُومٌ - مَسْمُومٌ - كَرْنَا - وَالَا - مَخْلَلٌ - خِرَابِيٌّ - نِجْمَةٌ - فَاَسَدٌ

خَلَجٌ - يَخْلُجُ - خَلَجًا - كَانِنًا - پَرَكْنَا - رَلَدًا -

اِخْتَلَجٌ - اِخْتِلَاجًا - كَانِنًا - رَزْنَا -

خَلَجَانٌ - وَبَاغٌ - يَابِلٌ - كُو - پَرِشَانٌ - كَرْنَا - وَالَا - خِيَالَاتٌ

كَامَسْرُوْرٌ - كَرْنَا - خَلِيْبٌ - كَمَارِيٌّ - پَانِيٌّ - كَا - وَهٌ - جَرْمٌ - جَوْتِي

طَرَفٌ - سَبٌّ - خَشَلٌ - سَبٌّ - گھرا ہوا اور ایک طرف سے سمندر

سے ملا ہوا ہو - مَخْلَلٌ - اِجْرَادٌ - كَا - اِيكٌ - رُوْمَرٌ - سَبٌّ

دور ہونا - مَخْلَلٌ - مَبْتَشِرٌ - پَرَكْنَا - بَغِيْرٌ - پُوْسَتٌ -

خَلَجَانٌ - پَارِيْبٌ - جَا - نَجْمٌ -

خَلَدًا يَخْلُدُ خُلُودًا بِأَبَى رَهْبًا - دائمی ہونا
 خُلْدًا - دوام - ہمیشگی - بہشت - غیر نانی -
 خَالِدًا عِيشَةً رَهِينَةً وَاللَّاءُ - دیر پا - جیسے عرصہ تک زندہ
 رہنے والا - عیوناً : خَلْدًا ہمیشہ کیلئے رہنے والا -
 أَخْلَدَ إِلَى - مُجَاجَ جَانًا - نائل ہو جانا -
 خِلْدًا صَبِيًّا وَوَعْلًا - وہ اولاد جو فرنگی اور حبشی کے میل سے پیدا
 اِخْتِلَافٌ فِي بَيْنِ لُؤْ كُصُوْثٍ مُخْتَلِفٌ لَبِيْرًا - چور -
 خُلُوصٌ يَخْلُصُ خُلُوصًا وَخَالِصَةٌ بَيْ كُصُوْثٍ
 و بے میل ہونا - صاف و خالص ہونا -
 خُلُوصٌ - رہا کر دینا - خلاصی کر دینا -
 خَالِصٌ - خلاصہ نکال لینا -

خَالِصٌ - صاف - اصلی - جو مصنوعی یا بناوٹی یا نقلی نہ ہو
 مُخْلِصٌ اِخْلَاصٌ رُكْنٌ وَاللَّاءُ - بے کھوٹ - دوستی اور
 محبت اور خیر خواہی رکھنے والا - سچا وفادار دوست -
 خُلَاصَةٌ - انتخاب - خُلَاصَةُ الْكَلَامِ حَاصِلُ الْفِكْرِ
 مُخْلِصٌ نَجَاتٌ يَأْتِي بِاللَّائِي وَاللَّاءُ - خلاصی یا چھٹکارا کرنے
 وَاللَّاءُ اِخْلَاصٌ - لا الہ الا اللہ وہ کلام جس میں اللہ
 تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار و اقرار ہو -

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ سُوْرَةُ شَرِيْفَةٌ جَوْقَلٌ هُوَ اِسْمٌ اَحَدٌ
 سے شریعت ہوتی ہے -

خَلَطَ يَخْلُطُ خَلْطًا لَمَّا آتَى فِي رُؤْيُ كَرِيْمًا -
 اِخْتَلَطَ اِخْتِلَاطًا - مل جانا - خلط قط ہو جانا -
 خِلَاطٌ اِخْلَاطٌ مَرْتَبٌ طَبَّ يُونَانِي فِي سُوْدَاءِ صَفْرَاءِ
 نَوْنٍ اَوْ بَلْعَمٍ كَانَتْ هِيَ - خِلَاطٌ مِلْطٌ - مخلوط النسل
 مَخْلُوْطٌ مَلَّ هُوَ - اِخْتِلَاطٌ مَيْلٌ جَوْلٌ - تَخْلِيْطٌ مَلَانًا -

خَلَعَ يَخْلَعُ خَلْعًا - چھوڑ دینا - الگ کر دینا -
 خَلَعٌ : اَزَادَ كَرِيْمًا عَلِيْدَةً كَرِيْمًا -
 خَلَعَةٌ - نکاح کی تسوخی - عورت کی مرد سے علیحدگی -
 خِلْعَةٌ عَزَتْ كَا كِبْرًا جَوْبُورًا اِنْعَامٌ وَا جَانًا هِيَ -
 خَلِيْعٌ - معزول کرنے والا - عاق کیا ہوا بیٹا -
 خَلَعٌ عَلِيْدَةً كَرِيْمًا هُوَ - الگ کیا ہوا -
 خَلَعٌ عَلِيْدَةً كَرِيْمًا هُوَ - الگ کیا ہوا -
 مُخْلَعٌ بِالطَّبِيْعِ - تنہائی میں ہو کر - عالی الذہن -
 خَلَفَ يَخْلَفُ خِلَافَةً جَانِشِيْنَ هُوَ اَقْرَبُ مَقَامٍ هُوَ
 خَالِفٌ مُخَالَفَةٌ وَخِلَافَةٌ كَيْسِيٌّ سَمِيْعٌ تَفَقُّهُ هُوَ
 کسی کے خلاف اور مخالف ہو جانا اِخْتَلَفَتْ يَحِيْرُهُ جَانًا -
 اِخْتَلَفَتْ اِخْتِلَافًا - ناموافق ہونا - برعکس ہونا -
 میں مختلف ہونا - خِلَافَةٌ يَحِيْرُهُ اَسْمٌ وَاللَّاءُ جَانِشِيْنَ قَائِمٌ
 خَلْفًا يَحِيْرُهُ بَوْرٌ - واپس (برعکس)
 خَلْفٌ نَائِبٌ جَانِشِيْنَ - بیٹا -
 خَلِيْفَةٌ جَانِشِيْنَ كَيْسِيٌّ نَبِيٌّ كَا قَائِمٌ مَقَامٍ -
 خِلَافَةٌ نَبِيٌّ اَسْمٌ كَيْسِيٌّ جَانِشِيْنَ -
 مُخَالِفٌ - الگ الگ - ناموافق
 تَاخَلَفَ نَالِقٌ - مُخَالِفٌ كَيْسِيٌّ اِسْمٌ اَحَدٌ
 خَلَقَ يَخْلُقُ خَلْقًا وَخَلَقًا -
 ایجاد کرنا - نیا پیدا کرنا -
 مَخْلُوْقٌ - پیدا شدہ خَلِيْقَةٌ نَحِيْرٌ طَبِيْعٌ - مخلوق -
 خَلَاتِقٌ - مخلوقات - خَالِقٌ پیداکرنے والا -
 خَلَقٌ كَثْرَةٌ سے پیداکرنے والا -
 خَلُوْقٌ اِسْمٌ كَثْرٌ نَحِيْرٌ مِيْنٌ كَا جَوْدٌ عَظِيْمٌ رَعْفَانٌ هِيَ -

تَخْلِيْقٌ بِيَاكْرَانَا - بنانا -

خَلْقٌ حِ اَخْلَاقِي عَادَتٌ طَبِيعَتٌ سِيْرَتٌ نَهْلَتٌ لِقْوٌ

خَلِيْقٌ - صاحب اخلاق حسنہ ملنار -

خَلِيْقِيٌّ طَبِيعِيٌّ فِطْرِيٌّ - جبلی -

خَلَا يَخْلُو خَلْدًا وَخَلَاةً خَالِيٌّ هَوْنًا تَهْنًا هَوْنًا عَلَيْهِ

هَوْنًا - زمانہ کا گذر ہونا - تَخْلِيْعٌ تَهْنًا - علیحدگی -

خَلْوَةٌ تَهْنًا جَلْبَةٌ - بَيْتُ الْخَلَاءِ پانخانہ کی جگہ -

خَالِيٌّ فَارِغٌ - خَالِيٌّ - خَمٌّ سِكَاءٌ - شَرَابٌ كَاكْفَرًا

خَمًّا يَخْمَدُ خَمْدًا - بَجْدٌ جَانًا - غَمُوشٌ هُوَجَانًا -

خَامِلٌ - بے حریت - بے حق خَمُوْدٌ - اَزْرًا يَخْمِيْنَا - دھپا پڑانا

خَمْرٌ يَخْمَرُ خَمْرًا - نَقَابٌ وَالتَّانَا - چھپانا نشہ پیدا کرنے والی چیز

بَلَانَا - خمیر بنانا - خَمْرٌ شَرَابٌ هُوَ مَقْلٌ كُوْدُهَانٍ دَسْ

خَمْرًا نَشَةٌ - بے ہوشی - مَقْلٌ كَاوَزَالٌ هُوْنَا خَمْرًا شَرَابٌ

خَمِيْرٌ - خمیری روٹی - مَخْمَرٌ شَرَابٌ صَمْتٌ يَا خَمِيْرٌ كَمَا يُوْنَا -

خَمُوْدٌ شَرَابٌ كَسْ نَشَةٍ فِي مَبْتَلَا -

خَمَامٌ اَوْ اَوْضَى - دُوِيْطٌ - پَرْدَةٌ - نَقَابٌ -

اَخْمَسٌ يَخْمَسُ خَمْسًا - پَانچواں ہونا - خَمَائِسٌ

پَانچواں - خَمْسَةٌ پَانچ - خَمْسٌ پَانچواں حصہ -

خَمِيْسٌ جَمْعَاتٌ - خَمِيْسٌ پَانچ مصرعوں والی نظم بنانا

خَمِيْسٌ پَانچ مصرعوں والی نظم جس میں تین مصرعہ اپنے

اُوْر دُوکسی کے ہوں -

خَمَائِسِيٌّ پَانچ اصلی حروف والا لفظ -

خَمْسُوْنٌ وَخَمْسِيْنٌ - پچاس

خَمْمَصَةٌ - بھوک - اِسْتَحَارٌ - اِرْدُوْمِيْنٌ جَمْعٌ اَلْحَمِيْن

وَرْدٌ سَرِيٌّ اُوْر تَكْلِيْفٌ كَيْلِيَّةٌ اِسْتِعْمَالٌ هُوْنَا هُوْ -

خَلٌّ يَخْلُ خَمُوْلًا - گمنام ہونا - غَيْرٌ مَعْرُوْفٌ اُوْر فَيْرٌ مَعْرُوْفٌ

خَامِلٌ - گمنام - غَيْرٌ مَعْرُوْفٌ -

خَمْلٌ - مَلَأْتُمْ كِبْرًا - نَحْلٌ دِنْبَاتٌ

خَمْسٌ يَخْمَسُ خَمْسًا - اِنْدَازَةٌ لِكَاْنَا -

تَخْمِيْنَا وَ عَلَيَّ اَلتَّخْمِيْنٌ - اِنْدَازًا - فَرْضًا - اِنْدَازَةٌ وَ تَخْمِيْنَةٌ

کے طور پر - تَخْمِيْنَةٌ زَنْجَةٌ بِنَانَا سِيْرًا كَرَانَا - لَوْ كَسِيٌّ

عَادَتِيْنَ بَكَرْنَا - تَخْمِيْنَةٌ - نَامُوْدٌ - سِيْرًا - زَنْجَةٌ

خَمْسِيٌّ - آخِرَةٌ - سِيْرًا - زَنْانَةٌ

خَمْرٌ - چھرا پیش قبض - خَمْرٌ - كَسْرٌ -

خَمْدٌ حِ جِ خَمْدِيْقٌ - كَهَانِيٌّ - كُرْهًا - مَوْرَجٌ - غَارٌ -

خَمَزِيْرٌ حِ خَمَزِيْرِيٌّ - سُوْرٌ - اِعْطَلَا حِ طَبِيْبًا

كَدْحٌ مَالًا يَأْكُلُهُ فِيْنَ كَلْبِيَاں پھولنے اُوْر بَسْنِيٌّ كِي مَرِيضٌ

کاتام ہے کیونکہ یہ مریض عام طور پر سوڑ کو ہوتی ہے -

خَمْسَاءٌ اَيُّكُ مَشْهُوْرٌ شَاوِرَةٌ كَانَامٌ هُوْ -

خَمَّاسٌ شَيْطَانٌ - حَمِيْبٌ جَانَةٌ وَاَلَا - پَچھے ہٹ

جانے والا (بدمی کی تحریک کر کے)

خَمَصَةٌ - چنگلی سب سے چھوٹی انگلی -

خَمَقٌ يَخْمَقُ خَمَقًا - دَمٌ كُوْنَمْنَا - كَلَا دِيَابَا سَانِسٌ بِنَكْرَانَا -

خَمَاقٌ تَلْمِيٌّ كَا پُوْرَا حَسِيْنٌ دَمٌ كَمِثٌ كَرْمَرِيضٌ كَا خَاتَمَةٌ

ہو جاتا ہے - گلے کی بیماری -

اِخْتَمَاقٌ دَمٌ كَمِثٌ جَانَا - كَلَا كَهْمْنَا -

خَمُوْقٌ حَسِيْنٌ كَا كَلَا كُوْنَمْتُ دِيَا جَانَا هُوْ - پھانسی دیا ہوا -

دَمٌ كَمِثٌ هُوَا - خُوْحَةٌ رُوْدُنٌ - دَشْتٌ دَانٌ - كَمْرٌ كِي اُوْر

خَافٌ يَخَافُ خَوْفًا وَخَافَةٌ وَخَيْفَةٌ مِيْنٌ كَسِيٌّ

سے خوف کرنا -

خَوَفَ وَأَخَافَ تَخَوُّفًا خَوْفٌ وَلاَنَا. دُرَانَا. دَمَكَانَا
خَايِفٌ دُرْسَةٌ وَاللَّاءُ.

خَانَ جَ أَخْوَالٌ مَمُونٌ خَالَةٌ جَ خَالَاتٌ مَا
كِي هِيْنَ - خَوْلَةٌ هِرْتِي -

خَانَ يَخُونُ خِيَانَةً. خِيَانَتٌ كَرْنَا. دَعَا بِأَدَى كَرْنَا.
عَوْدَةً شَكْنِي كَرْنَا. خَائِنٌ اِمَانَتٌ هِيْنَ خِيَانَتٌ هِيْثِي بَلِيَّالِي
كِرْنُوَالَا -

خَانٌ جَ خَانَاتٌ كَارِ وَالسَّرُّعُ سِرَاعٌ مِسَافِرُ خَانَةٍ
بَادِشَاهُ رِشَا هِرَادَه - دُكَانٌ -

خَوَانٌ - خَوَانٌ - دَسْتَرُ خَوَانٌ - مِيْزُ جِسِّ پَرِ كِهَانِي نِي كِهِيْنَ
خَابَ يَخِيْبُ خَيْبَةً نَا كَامٌ رَهْنَا - نَامِرَادٌ رَهْنَا -

خَائِبٌ نَامِرَادٌ - نَا كَامٌ
خَارٌ يَخِيْرُ خَيْرًا نِيكٌ هُونَا - نِيكِي كَرْنَا

تَخِيْرٌ وَ اِخْتَارٌ - اِيْتَا كَرْنَا - چِيْن لِيْنَا -
اِسْتِخَارٌ - اَللّٰهُ سِيْ بَهْلَايِي چَا هِنَا - فِدَا سِيْ دَعَا كَرْنَا

كِه بَهْتَرُ كَامٌ هِيْتَا فَرَاوَسِي -
خِيْرٌ جَ خِيَارٌ وَ اَخِيَارٌ - نِيكٌ - بَهْرَتٌ - مَرْدٌ - دَرْتٌ

مَالٌ - مَفِيْدٌ چِيْرٌ -
اِخْتِيَارٌ جَ اِخْتِيَارَاتٌ چِيْن لِيْنَا - اِتْحَابٌ كَرْنَا پَهْنُ كَرْنَا

اِخْتِيَارِيْتِي - پِهَسْنِيْدَه - مَرْغُوْبٌ
تَخِيْرٌ - صِدْقٌ وَ خِيْرَاتٌ كَرْنِيْ وَاللَّاءُ -

تَخْتَارٌ - اِتْحَابٌ كَرْنِيْ وَاللَّاءُ مِنتَخِبٌ -
خِيَارٌ سَبِيْرٌ - اَلدَّاسٌ - اِيكٌ سُهْلٌ دَوَا -

خِيْرِيْتِي - كَلٌّ فِيْرِي - اِيكٌ زَرْدٌ زَنَكٌ كَا بَهْوَلٌ -
خَاطٌ يَخِيْطُ خَيْطًا وَ خِيَا طَةً - كِيْرٌ اِسِيْنَا -

خَيْطٌ تَاكَا - خَيْطَا طٌ دَرْدِي -

خَيْفٌ جَمْعٌ اَخْيَافٌ فَخْتَلَفَ شَكْلٌ بِطَبِيْعِيْتِ كِيْ لَوْجٌ
اَخْيَافِيْتِي مَالٌ كِيْ طَرَفٌ سِيْ بَهَائِي -

اَخْيَافٌ جِسِّ اَدْمِي كِيْ اِيكٌ اَنَكُو كِيْ تَهْلِي سِيَا هِرْدُو سِرْ كَرْنَا
خَالَ يَخَالُ مَخِيْلَةً - كَمَانٌ كَرْنَا - تَصَوَّرَ كَرْنَا - قِيَاسٌ دُوْرَانَا -

خِيَالٌ جَ خِيَالَاتٌ - وِلٌ كَا وَسُوْسَه كَمَانٌ - تَصَوَّرَ
تَخَيَّلٌ جَ تَخَيَّلَاتٌ - دَاغٌ هِيْنَ تَصَوَّرَ سُوْجِنَا مَخِيَالٌ دَعَا

خَالَ مَسَه - مَهْكَ - رَلٌ - مَخِيَالِيْتِي قِيَاسِي -
مَتَخَيَّلَةٌ - خِيَالٌ وَ تَصَوَّرَ كِيْ لَوْتٌ -

مَخِيْلَةٌ عَجِبٌ - خُوْدِ سَهْدِي - غُرُوْرٌ -
نَخِيْلٌ جَ خِيُوْلٌ كَمُوْرٌ سِيْ كَا سُوَاْرَه رَسَالَه

خَيْمٌ وَ اَخْيَامٌ - خِيْمَه لِكَا نَا مَخِيْمٌ جِهَانٌ پَرِ خِيْمَه كَا اِيْرَا اَبُو
خِيَامٌ خِيْمَه سَا زِيْمَه دُوْرُ خِيَامٌ - كِيْرٌ - خَامٌ -

خِيْمَةٌ اِيَا كَمُرٌ چُو تَهْرَا اِيْتٌ كَا نَه هِرْدُو -
خَانَ - خَاقَانٌ - جَ خَوَانِيْنٌ وَ اَوَاقِيْنٌ شَاهِرٌ

سَلْطَانٌ - بَادِشَاهُ -

بَابُ الدَّلِّ

دَابُّ طَرِيْقَه - عَادَتٌ اَلْمَرْءِ سِيْ سَالِهٍ دَسْتُوْرٌ

دَا دَرَجِيْنِيْتِي - اَلْمَرْءِ سِيْ اِيكٌ اَلْمَرْءِ دَا اَلْمَرْءِ

دَبٌّ رِيْجٌ دَبُّ الْبُرِّ وَ اَصْفَرُ بَنَاتِ النُّعْشِ اِيْسَاتِ
سَهْلِيُوْلٌ كَا جَمْعٌ

دَابَّةٌ چُو اَبُو جَ دَوَابُّ

دَابَّاتٌ قَلْبٌ شَكْنٌ اَلْمَرْءِ سِيْ سَا تَه قَلْمُوْلٌ هِيْنَ مَرْكٌ لِكَا تَهِيْ

دے تیا ج۔ ریشی کپڑا۔ سمخواب۔

دے تیا جتہ کتاب کا دیا چہ پھرہ۔ تمبیہ مقصد کتاب ہذا کی

دے تیا ج ریشی کپڑا فروخت کرنے والا۔

دے تیا پند پر دے بورا۔ پیٹھ دینا۔ بھاگنا

دے تیا پند پر دے پند پند۔ انتظام کرنا۔ انجام سوچنا۔

دے تیا پند پر دے پند پند۔ دے پند پر دے پند پند۔ پند پند

دے تیا پند پر دے پند پند۔ کتاب اذکار متفرق مندرجہ قیمت

دے تیا پند پر دے پند پند۔ حکومت کرنے والا۔

دے تیا پند پر دے پند پند۔ انتظام خانہ داری۔

دے تیا پند پر دے پند پند۔ اٹھاؤ دے پند پند۔ چھڑا رنگنا۔ نیکبختی

دے تیا پند پر دے پند پند۔ چھڑا رنگنے کا ہتھیار۔

دے تیا پند پر دے پند پند۔ پھوڑا دے تیر کبیل اور ہٹنا

دے تیا پند پر دے پند پند۔ کپڑا جو جسم سے نہ ملا ہو۔ ضد

دے تیا پند پر دے پند پند۔ چاروں طرف۔

دے تیا پند پر دے پند پند۔ کبیل اور ہٹنے والا۔

دے تیا جتہ مرغی۔

دے تیا جتہ سیاہ خبار۔ سخت اندھیرا۔

دے تیا پند پند پند۔ جھوٹ بولنا۔ ہمت کرنا۔ سزا کرنا۔

دے تیا پند پند پند۔ چھوڑنا۔ رونا۔ پڑا گروہ۔

جو بلع سازی کی طرح باتیں کرے جو اندر سے فریب

ہو اور اوپر سے دانت فریب۔

دے تیا پند پند ایک بڑا گروہ جو زمین پر چھا جائے وہ جاہت

جو تجارتی مسافروں کے لئے کر دنیا کے اطراف میں گھومتی پھر

دے تیا پند پند بنیاد کے قریب دریا۔

دے تیا پند پند۔ پادریوں کا گروہ جو تمام دنیا میں

پھر کر ہیائیت کی تعلیم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت

پھیلانا پھرتا ہے۔

دے جین۔ گھریلو۔ پالتو جانور۔

دے جین۔ تاریکی۔ اندھیرا۔

دے تیا پند پند پند تاریکی کا چاند۔ اندھیرے کو دور کرنے والا

دے تیا پند پند پند۔ دے تیا پند پند۔ خرو اور پر سے لڑھک پڑنا

یا گھر پڑنا۔ دے تیا پند پند۔ گول مول۔

دے تیا پند پند پند داخل ہونا۔ داخل کرنا

دے تیا پند پند پند داخل در معقولات کرنا۔ دے تیا پند پند۔ امنی۔ نگاہ

دے تیا پند پند پند۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دے تیا پند پند پند۔ والا۔ اندر دنی حصہ دے تیا پند پند۔ داخل

دَرَبَان - مدبان - دروازہ کا محافظ ۔

دَرَجَ يَدْرَجُ دَرَجًا سِيرٌ يَدْرَجُ يَدْرَجًا -

اِنْدَرَجَ شَاعِرٌ هُوَ اِسْتَدْرَجَ اِلَى قَرِيبٍ لَنَا دَهْرًا كَرِيْمًا

دَرَجَةً وَتَدْرِيْجًا وَبِالْمَدْرَجِ رَفْعًا رَفْعًا اَسْبَغَ

اَسْبَغَ دَرَجٌ مِّنْ دَرَجِيٍّ - دَرَجَةٌ سِرٌّ هُوَ - مَرْتَبَةٌ بَلْبَقَةٌ -

وَرَجَبٌ دَرَجَاتٌ عِبَادَةٌ دَرَجَةٌ سَائِلٌ - دَرَجٌ

تَيْتَرٌ - تَدْرَجُ - تَيْتَرٌ - تَدْرَجُ - دَرَجٌ - رَسَبٌ - رَسَبٌ -

مَسَلٌ - دَرِيْزِيٌّ - دَرِيٌّ - دَرُوْدٌ اَبْكُ بِنَاتِيٍّ قَوْمٌ

کا نام ہے ۔

تَدْرَسُ يَدْرُسُ دَرَسًا وَدَرَسَةً كِتَابٌ يَدْرُسُ -

دَرُوْسٌ نِشَانٌ مَرْتَبَةٌ - دَرَسًا وَدَرَسًا كَرِيْمًا كَانَتْ

تَدْرَسُ تَدْرِيْسًا - پڑھانا - پکھردینا ۔

تَدْرَسُ يَدْرُسُ اِنْدَرَسَ اِنْدَرَسًا مَثَلٌ جَانَا -

تَدْرَسُ جَ دَرُوْسٌ سَبَقٌ - مَطَاعَةٌ - نَكْحَرٌ - مَدْرَسَةٌ

جَ مَدَارِسُ اِسْكُوْلٌ - كَالِجٌ - مَدْرِسٌ مَعْلَمٌ - اَسَاوُ

اِنْدَرِيْسٌ اَيْكٌ نَبِيٌّ كَانَتْ مَهْمَةٌ -

دِرْعٌ قَمِيْسٌ كَرِيْمٌ - زَرَةٌ - جَارٌ اَيْبَنَةٌ دَاوَكٌ بَالِيْنَا -

اَدْرَكُ يَدْرِكُ جَانَا - اِدْرَاكٌ عَمَلٌ كَرِيْمٌ - كَيْسٌ مَعَالِمِيٌّ

بِكُ يَدْرِكُ جَانَا - سَجْدٌ - فِهْمٌ - وِرْيَانَةٌ - تَدْرِكُ - سَدْرَانَا

تَدْرِيْ مَاتَاتٌ كَرِيْمًا - اِمْلَاحٌ كَرِيْمًا -

اِسْتَدْرَاكٌ وِرْسَةٌ كَرِيْمًا - اِمْلَاحٌ كَرِيْمًا -

دَرَكٌ جَ دَرَكَاتٌ - يَدْرِكُ - بَالِيْنَا اَمْلَاحٌ - دَرَكَةٌ

قُوْتٌ فِهْمٌ - تَدْرَاكٌ - سَجْدٌ - دَرَكَةٌ جَ دَرَكَاتٌ

بَلْبَقَةٌ - دَرَجٌ (یعنی بہنم یا دروغ کا)

حُرُوْفٌ اِسْتَدْرَاكٌ سَابِقَةٌ طَلَمٌ سَعِيٌّ مَوَدُّوْنَ

اس کو دور کرنے کے حروف مثلاً بَلْبَقَةٌ - اَلَا اَنْ

غَيْرًا اَنْ وَطَرٌ مَثَلًا اِرْكٌ عِلْمٌ عَرَضٌ مِّنْ اَيْكٌ بَرَكًا اَسْمٌ

مَدْرِيْ كَاتٌ - حَوَاسٌ - مَدْرَكٌ مَبْلٌ - دَرِيْ مَبْلًا نَاطِقٌ

دِرْهَمٌ جَ قَدْرَاهِمٌ پونے چار ماشہ ۔ جواونس کا

اَنھواں حصہ ہوتا ہے ۔ دَرُوْنِيْسٌ جَمْعٌ دَرَاوِنِيْسٌ

گدا ۔ بھکاہی ۔ فقیر ۔ در آویز ۔

دَرِيٌّ يَدْرِيٌّ دَرِيًّا وَدَرِيَّةً جَانَا - اِنْدَرِيٌّ اِنْدَرِيًّا

يَدْرِيَّةً عِلْمٌ كَرِيْمٌ - دَرِيٌّ مَدَارٌ اِنْدَرِيٌّ اِنْدَرِيًّا مَبْرَانِيٌّ

کارتاؤ کرنا ۔ خلق سے پیشہ آنا ۔ دَرِيٌّ يَدْرِيٌّ دَرِيًّا

دَرِيًّا كَرِيْمٌ جَمْعٌ مَبْرَانِيٌّ جَمْعٌ مَبْرَانِيٌّ - پویشی

کریا دشمی ۔ راز ۔ تجویز ۔ دَرِيٌّ - دَرِيٌّ - دَرِيٌّ

دَسْتُوْرٌ دَسَايِيْرٌ - رَجِيْرٌ - وِرِيْرٌ مَجْرُوْدٌ اِنْدَرِيٌّ

دَسْتَانٌ سُرْجِيٌّ كَرِيْمٌ اِنْدَرِيٌّ اِنْدَرِيًّا

دَسِيْمٌ يَدْسَمُ دَسْمًا - كَمَالَةٌ كَمَالَةٌ جَانَا -

دَسُوْمَةٌ - چکنائی ۔ چکنائی ۔ چبلاہ جانا ۔ دَسِيْمٌ مَجْرُوْدٌ

دَسُوْمَةٌ - نَرَسٌ دَسَايِيْرٌ مَبْرَانِيٌّ - مَاتٌ كَمِيْلٌ

دَسَايِيْرٌ - بِيكٌ - سَتُوْنٌ - مَسْرُوْرٌ - رَسِيٌّ

دَعِيٌّ يَدْعُوْ دَعْوًا مَبْرَانِيًّا - بَلَاغٌ - اِنْدَرِيٌّ

دَعْوَةٌ مَبْرُوْكِرَانَا - دَعْوَةٌ دَرِيْمَا -

دَعُوِيٌّ يَدْعُوْ حَقٌّ كَرِيْمٌ اِنْدَرِيٌّ اِنْدَرِيًّا

اِسْتَدْرَاكٌ اِنْدَرِيٌّ اِنْدَرِيًّا

دَعَاوَةٌ اَدْعِيَةٌ دَعَاوَةٌ مَبْرَانِيَّتٌ - دَرُوْسَاتٌ

دَعُوَةٌ جَ دَعْوَاتٌ - بَلَاغٌ - بَلَاغٌ - قَوْمٌ

دَعُوِيٌّ جَ دَعَاوِيٌّ - دَعُوِيٌّ - مَقْدَمَةٌ -

دَعَا جَ دَعَاةٌ بَلَاغٌ وَالَا - مَوْزِنٌ -

نَدَائِعِيَّةٌ بِحَاءٍ دَوَاعِيٍّ - سبب - وجہ
 مَدْعِيٌّ - دعویٰ کرنے والا - نالش کتنہ
 مَدْعِيٌّ يَطْلُبُ - مقصد مَدْعِيٌّ عَلِيِّ حِينَ يَرِنَالشَ كِي طَوْلًا
 تَدْعِيٌّ بِحَاءٍ أَذْعِيَّةٌ بِهَاءٍ يَطْلُبُ مَبْتَشِيٍّ - منہ بولا بیٹا
 تَدْعِيٌّ كَنَدَانًا - شک میں پڑنا
 أَدْعَمٌ وَإِدْعَمٌ - کسی حرف کا کسی دوسرے حرف
 میں داخل کرنا - مثلاً د کرنا - یونعام کرنا -
 إِذْعَامٌ أَيْ حَرْفٌ كَالدَّوَسْرِ مِنْ دَوَاعِيٍّ يَهْوِيُّ إِلَى
 حَرْفٍ أَيْ حَرْفٍ كَالدَّوَسْرِ مِنْ دَوَاعِيٍّ يَهْوِيُّ إِلَى حَرْفٍ
 یو جانا مَدْعَمٌ وَوَحَرْفٌ يَأْتِي بِحَرْفٍ أُخْرَى دَوَاعِيٍّ مِنْ
 بَدَنٍ يَسْرِي مَنْ بَدَنٍ يَسْرِي كَالدَّوَسْرِ مِنْ دَوَاعِيٍّ يَهْوِيُّ
 إِلَى حَرْفٍ
 دَوَّاقٌ حَاءٌ فَوَّاقٌ وَفَوَّاقٌ - طبلہ
 دَوَّاقٌ طَبْلٌ يَدْرُفُ بِحَانِيٍّ وَوَالِدٌ - بَيْنَ الدَّوَّقَيْنِ وَوَالِدٌ
 تَحْوِيلٌ كَمَا فِي مِيَانٍ - دَفَائِيَّةٌ - حَوْلَانًا - سَلْوُو -
 دَفْوَجٌ دَفَائِيَّةٌ رَسْبِيَّةٌ حَسَابٌ كِي كِتَابٌ - حَكْمَةُ آفَس
 دَفَعٌ يَدْفَعُ دَفْعًا - دُورًا كَرْنًا - يَحْبِسُ هَيْئَانًا - دَعَا دِينًا
 زُورٌ سَمِيَّ هَيْئَانًا يَدْفَعُ وَمَدَا أَقَدَّةٌ بِجَانًا حِفَاظَةٌ كَرْنًا
 مَرَامَةٌ كَرْنًا - دَفْعٌ - دُورًا كَرْنًا وَوَالِدٌ -
 مِدْفَعٌ قَعٌّ رَبٌّ - هَيْئَانًا كَا آتَمْ -
 دَفْعَةٌ أَيْ بَارٌ وَزَيْبٌ دَفْعٌ وَدَفْنٌ مِمْبَرٌ
 إِذَا دَفَعٌ دُورًا هَيْئَانًا جَانًا - يَحْبِسُ دَعَا دِينًا
 دَفْقَالِيٌّ - كَثِيرٌ كَالدَّفْعِ - نَرْزَهْرَه
 دَفْنٌ يَدْفِنُ دَفْنًا - زَيْنٌ يَدْفِنُ دَابٌّ دِينًا -
 دَفِينَةٌ - مَكْرَاهِيٌّ وَوَالِدٌ - خَزَانَةٌ - مَدْفُونٌ دَفْنٌ يَدْفِنُ
 كِي كَرْنًا مَدْفُونٌ زَيْنٌ يَدْفِنُ مَكْرَاهِيٌّ هُوَا -
 دَفْنٌ يَدْفِنُ كِي كُوْدَفْنٌ كَرْنًا -

دَقِّ يَدَيْ دِقَّةً - پس کر باریک ہونا - سرسہ کی طرف ہوجانا
 دَقُّ يَدَيَّ دَقًّا - گھٹکھٹانا - کوٹنا - باریک پینا -
 دِقَّةٌ - باریکی - تنگی - تکلیف -
 دَقِيْقٌ بَارِيْكٌ - نازک - باریک آٹا - دشوار فرسہ - دبا پتلا
 لاغز - دِقٌّ - دِقٌّ كِي بِيَارِيٍّ مَدْفُوْنٌ دِقٌّ كِي مَرِيْضٌ وَوَالِدٌ
 أَدَقُّ هَيْئَةً بَارِيْكٌ (مَثَلُهُ) هَيْئَةٌ تَكْلِيْفٌ وَوَالِدٌ (مَعَالِدٌ)
 دَقِيْقَةٌ حَاءٌ دَقَائِقٌ - منٹ گھنٹے کا سا ٹھواں حصہ -
 کوشش - حیلہ -
 السَّحْرُ كُلُّ مَا دَقَّ وَلَطَفَ مَا خَذَا حَادِرُهُ هَيْئَةً
 یو بہت باریک ہو اور اس کا ماخذ بہت لطیف و نازک ہو
 مَدَّقٌ - باریک ہیں - دقیقہ رس -
 تَدَقُّقٌ بَارِيْكٌ ہین - ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی
 جانچ پڑتال کرنا -
 حَتَّى الْيَدِي دِقٌّ كَا بِنَا رَسٍ كَا مَرِيْضٍ لَّاغْرَاوْرٌ وَوَالِدٌ هُوَا كَرْنًا
 مَرَجَانًا ہے -
 دَكَاْنٌ حَاءٌ دَكَاكِیْنٌ - دکان - دنگ - بیٹھنے کی جگہ -
 دَكَايْنُ وَوَالِدٌ -
 دَلَّ يَدُلُّ دَلَالًا وَوَالِدٌ عَلِيٌّ بَتَانًا - رَاہ نَمَائِيٌّ كَرْنًا -
 ہدایت کرنا - اِسْتِدْلَالٌ دَلِيلٌ چاہنا - ثبوت چاہنا
 نَيْبِجَهٌ نَكَانًا - دَلَالٌ - دِلَالٌ - اِيْجَنْطُ
 دَلِيْلٌ حَاءٌ دَلَائِلٌ - ثبوت - حُجَّتٌ - نَشَانٌ - عِلْمَةٌ -
 دَلَالٌ بَادِلِيٌّ - بَابِثُوتٌ - دَالٌ رَاہ نَمَاءُ
 دَلَالٌ نَارٌ نَخْرَهٌ - نَارٌ وَوَالِدٌ - لَادٌ پِيَارٌ
 دُوْكَابٌ رَمِيْطٌ - مَحْرٌ پَرَّ گھومنے والا -
 دَلْدَلٌ حَضْرَتٌ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كِي خَيْرٌ كَا تَامٌ -

ذَلَّيْسٌ فَرِيبٌ دِينَا - دھوکہ دینا -

ذَلِكَ يَدُّكَ ذَلَّكَ - ہاتھ سے ملنا۔ مالش کرنا۔ بھینٹل کرنا
ذَلَّوْكَ الشَّمْسِ - سورج کا ڈھلنا۔

ذَلَّوْكَ الشَّيْءِ كِي دَوَا - خوشبودار عطر جو جسم پر لا جاوے۔
ذَلَّيْمٌ كَرْدُوں مِیْنِ اِیْكَ قَوْمِ كَا نَامِ سَہ -

ذَلِّي وَآذَلِّي - کنویں میں ڈول لگانا۔

ذَلَّيْ نَزُولٍ - نیچے اترنا۔

ذَلَّوْهُ دُولٌ - گیارہویں ہجرت کا نام۔

ذَمِيمٌ الصَّوْرَةُ - بد شکل - بد صورت

ذَمْرِيْدٌ مَرْدٌ مَوْرًا وَذَمَارَةٌ وَذَمَارًا بِالْكَرْمِ
جاننا۔ برباد ہو جانا۔ تباہ اور ملیا میٹ ہو جانا۔

ذَمْرُ شَامٍ كَا اِیْكَ قَدِيْمِي شَهْرٍ جَدْمَشِقَ كَعِ قَرِيْبٍ
تھانیز ایک قلعہ کا نام۔ دِمَشِقُ - شام کا مشہور شہر

ذَمْعٌ يَدٌ مَعَ ذَمُوْعًا - آنسو کرنا۔

ذَمْعٌ جِ ذَمُوْعٌ اَنُو - اشک۔

ذَمْعٌ يَدٌ مَعَ ذَمْعًا اِسْ طَرَحَ سَرِيْحُوْرًا نَاكِدَ دِمَاغٍ تَكْسِرُ بِنِيْجِي
دِمَاغٌ جِ اَذْمِغَةٌ بِيْجَا - منفر - مَدْمَعٌ مَفْرُوْدٌ صَا حَبِ دِمَاغٍ

ذَمَلٌ يَدْمَلُ وَانْدَمَنْ زَحْمٌ كَا بَهْرٌ اَيَا اِحْجَا هُوَ جَانَا -

ذَمَنْ قَدَمَلٌ جِ ذَمَامِيْلٌ دَنْبِلٌ - پھوڑا۔ پھنسی۔

ذَمْلَجٌ بَارُوْبَنْدٌ - جوشن - (زلیوز)

ذَخْرٌ اَوْ الذَّمِنُ سَبْرِي جَوَكَا دِ پُرَاگَتِي سَت -

ذَمْنَةٌ - کھاو کا ڈھیر۔ گوبر کا تودہ - ذَمٌّ جِ دِمَاغٌ - خون

ذَمُّ الْاَخْوِيْنِ - خون بیاوشان

ذَمُوْعِي - خون سے نسبت رکھنے والا - دَامِيَّةٌ اِيْسا نَم

جس سے خون جاری ہے۔ دَنْ - منکا۔ مرتبان۔ ختم۔

ذَلِّيْ غَيْبٌ - کہینہ۔ ذَنَاوَةٌ كَيْفِيْ نَهْنَتْ -

ذِيْنَ اَرْجَ ذَنَاوَةٌ - سوسے کا ایک پرانا سیکہ

ذَنَسٌ جِ اَذْنَانِيْ - بیل کھیل۔ پلیدی۔

ذَنِيْ يَزُوْدُوْ - دَنُوًّا - قَرِيْبٌ هُوْنَا - اَذْنِيْ هَيْتٌ قَرِيْبٌ دُنْيَاوَةٌ

جہان۔ موجودہ زندگی۔ ذَنِيُوْعِيْ نَسُوْبٌ بِدُنْيَا - دنیاوی۔

ذَنِيَّةٌ كَيْفِيْ - ہڈی - معمولی درجے کی چیز۔

ذَهْرٌ جِ ذَهْوَرٌ لِمَا دَقْتُ - لمبا زمانہ۔ عرسہ دراز۔

ذَهْرِيٌّ - منکر خدا جو زمانہ کو غیر مخلوق جانتا ہو۔

ذَهْسَةٌ حِيْرَانِيْ - پریشانی۔ سمیت۔

ذَهْشٌ - حیران کرنے والا۔ مَذْهُوْسٌ مَضْطَرَبٌ -

ذِمْقَانٌ جِ ذَهَاتِيْنٌ - گسان۔ نمبر دار۔

ذِهْلِيْبٌ ذِيْوَرِيٌّ - آستانہ۔ ذَهْمٌ جِ ذَهْوْمٌ بَرِيْ تَعْدَارٌ -

اَذْمٌ سِيَاہُ رَنَكٌ - قَدْحُنٌ وَذَهْنٌ عِيْنٌ تِيْلٌ كِي مَالِشٌ كَرْنَا -

ذَهِيَّةٌ جَلْنَابِيْنٌ - چکناہٹ۔

مَذَاهِنَةٌ خُشَاةٌ - پھلاوا۔ پھلاوا۔ پھلاوہ۔ نَافِثَةٌ - ریاکاری

چکنی پٹری باتوں سے پھیلانا۔ ذَهَانٌ تِيْلِيٌّ - روغن فروش۔

ذَاؤُجٌ اَذْوَاءٌ - بیماری مرض۔

ذَاؤُ الْمَلُوْكِيْ نَفْسٌ جُوْرُوں كَا دَرُوْد -

ذَوْحَةٌ - بڑا اور اونچا درخت۔ ذَوْحٌ جِ ذَوْحٌ اَبْرُوْمٌ -

ذَاؤُ ذَا اِیْكَ نَبِيْ كَانَا -

ذَاؤِيْدٌ ذُوْ كَنْدَسَا - چکر کھانا۔ گومنا۔ ذَوْرَقٌ وَبُرَا

کھانا۔ مَدْوَرٌ گول۔ اَدَا سَبِ اِنْطِلَامٌ كَرْنَا -

اِدَارَةٌ عَمَلٌ - مَدِيْرٌ مَنْظَمٌ - چلانے والا۔

ذَاؤُجٌ دِيَارٌ دَدُوْدٌ - گھر۔ مکان۔

ذَوْرٌ جِ اَذْوَارٌ حَرَكَةٌ - چکر۔ ذَوْرَةٌ اِیْكَ چکر

دَوَائِرُ سُرْمِ جَمْرٍ آنے کی بیماری دَوَائِرُ بَہْت چکر کھانے والا
 دَائِرَةُ سُرْمِ سُرْمِ - دائرہ - حلقہ -
 دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ - انسائیکلو پیڈیا -
 دَيْرٌ - مندر - گرجا - خانقاہ - درویشوں کا تکیہ -
 دَيَّارٌ بِنْتٌ وَهَلَا - دَوَّانٌ - گردش - چکر -
 دَارَةٌ - اِحاطہ - خانہ - مکان - مُسْتَدِيرٌ كَوْلٌ
 مَدَّارٌ دُھرا - نکتہ - جس پر کوئی چیز چکر کھائے - زیر بحث
 امر - چکر کھانے یا گھومنے کی جگہ -
 دَالٌ يَدُولُ دَوْلَةً بدلنا گردش میں لینا -
 مَدَّ اَوَّلَهُ اِلٰى بَدَلٍ كَرِيًّا بَارِيًّا لَانَا -
 دَوْلَةٌ جَ دَوْلٌ - حکومت - بادشاہی - دولت
 دَوَّلَتُوْا - اعلیٰ حضرت - جناب والا -
 دَوَالِيٌّ - ایک جلدی مرض کا نام ہے -
 دَامَ يَدُوْمُ دَوَامًا وَ دَائِيْمًا مَدَامًا ہمیشہ ہونا -
 ٹھہرنا - قائم رہنا - مَدَّ اَوَّلَهُ مَدَامًا مَدَامًا ہمیشگی - قیام - ثبات
 عَلَي الدَّوَامِ - لگاتار مسلسل -
 دَائِيْمًا ہمیشہ رہنے والا - دَائِيْمًا ہمیشہ -
 مَدَامًا شَرَابٌ مَدَامًا ہمیشہ - لگاتار -
 دَوَّنَ تَدْوِيْنًا - مرتب کرنا -
 دَوَّنَ بَسْتًا - نیچے - آگے - نزدیک - غیر برخلاف
 دَرِيْوَانٌ جَ دَرَوِيْنٌ - دربارہ - عدالت عالیہ - اردو
 میں کسی شاعر کا مجموعہ اشعار - بصورت کتاب -
 مَدَّ وَنَ تَالِيْفًا كَمَا هُوَ اِتْرَتِيْبٌ دِيَا هُوَا -
 دَاوِيٌّ مَدَّ اِحَاةً سِيَارًا كَمَا عِلَاجٌ كَرْنَا - تیمارداری کرنا -
 چارہ کرنا - تَدَاوِيٌّ اِنْفَا عِلَاجٌ كَرْنَا -

دَوَائِرُ جَ اَدْوِيَّةٌ دَوَا - علاج

دَوَائِرُ سِيَاہِي دَان - دوات -

دَائِيُوْتٌ - بے غیرت - بھڑوا -

دِيَّةٌ خُونٌ ہوا - رقم جو خون کے عوض لی جاوے -

دِيْكٌ جَ دِيُوْكٌ مَرْفَا -

دَانٌ يَدِيْنٌ دِيْنًا - قرض لینا -

دَانٌ يَدِيْنٌ دِيْنًا وَ دِيَانَةٌ - پابند نہ رہنا - ایمان

تَدَايِنٌ بِيہ کسی مذہب کا پابند ہونا -

مَدَّيْنٌ - دیندار آدمی - دِيْنٌ جَ دِيُوْنٌ - قرضہ

دِيْنٌ جَ اَدْيَانٌ - دِيَانَةٌ جَ دِيَانَاتٌ مذہب - دین -

تَدَايِنٌ بِيہ کسی مذہب کا پابند ہونا -

مَدَّيْنٌ - دیندار آدمی - دِيْنٌ جَ دِيُوْنٌ - قرضہ - اور دھا

دِيْنٌ جَ اَدْيَانٌ - دِيَانَةٌ جَ دِيَانَاتٌ - مذہب - دین

عقیدہ - دَانٌ قَرْضٌ رِيْنٌ وَ اَلَا -

مَدَّيُوْنٌ - جسے قرض دیا گیا ہو - قرضدار -

يَوْمَ الدِّيَانِ - قیامت کا دن - دِيَانٌ بدلہ دینے والا -

مَدِّيْنَةٌ جَ مَدَائِنٌ - شہر - بستی - ملک -

مَدَائِنٌ - مدینہ شریف کا رہنے والا - شہری - باشندہ

بَابُ الدَّالِ

دَامَ ذِي وَ ذِيَّةٌ مَثَ دَانٌ بِجَالَتِ رَفَعٌ

ذِيْنٌ بِجَالَتِ نَسَبٌ وَ جَمْعٌ اَوْلَاعٌ بِہ (اشارہ قریب)

ذَاكَ مَثَ ذَانِكَ وَ ذِيْنِكَ جَ اَوْلِيْكٌ - وہ - وہ

شخص (اشارہ متوسط)

ذَالِكْ م - تِلْكَ ج اُولَئِكَ وَه (اشارہ بعید)

مَاذَا كَيْفَا؟ رَاكَ ذَا كَيْفَا؟ كَذَا - اِيَا - اِسْطَرَح -

كَذَا اَيْك اِسْطَرَح - نِيْر - هَذَا مَث -

هَذَا اِنْ وَهَاتَا اِنْ ج هُوَ لَا اِيْه لَوْك - يِه پِيْرِي - رَا سَم

اِسْرَاه كِه شَرْوَع اِنْ مِ اِيْ كِه تَبِيْه لَكَا لِي كِيْ هِيْ

هَذَا اِسْطَرَح - اِيْن - ذِيْئِبْ ج ذِيْاِبْ بِيْطِيْرَا -

ذَا اِذْ اَلذِيْئِبْ - بِيْوَك كَا مَرَض -

ذَبْ يَذَبْ ذَبًا عَن - دَفْع كِرْنَا دُوْر كِرْنَا بِيْطَانَا - رُوْكْنَا -

مَحَاظَنَت كِرْنَا - ذَبَا بْ ج اَذِيْبَةٌ كَهْتِيْ شَهْدِيْ كَهْتِيْ -

ذَبْحٌ يَذْبَحُ ذَبْحًا - پِيْرِيَا - پِيْاْزْنَا - كَا لِيْنَا - كَا لِيْنَا كَا لِيْنَا فَيُحْ كِرْنَا

ذَبِيْحٌ مَث ذَبِيْحَةٌ ذَبِيْحٌ كِيَا هُوَا - قِرْبَانِيْ كِيَا هُوَا جَانِيْ

مَذْبُوحٌ ج مَذَابِيْحٌ بُوْجُ فَا نِه - جَانُوْر ذَبْح كِرْنِه كَا مَقَام

مَذْبُوْحٌ - حَلَال كِيَا هُوَا - قِرْبَانِيْ كِيَا هُوَا -

ذَبِيْحٌ اَللّٰهُ وَحَضْرَت اِسْمَاعِيْل عَلَيْهِ السَّلَام كَا لَقَب -

ذَبَابٌ وَذَبَابٌ بِلْنَا - تَرُوْد كِرْنَا - عَرُوْد كِرْنَا -

مَذْبُوْبِيْنٌ بٌ مَتَرُوْد شَك وَشَبِه كِرْنِه اَلَا -

مَذْبُوْبٌ اِيْن كِه مَعَاظِم يَا نِه سَبِيْ عَقِيْدِه اِنْ تَمَدُّد كِرْنَا -

شَك وَشَبِه اِنْ مَبْتَلَا هُوْنَا كِه شَايْه يِه عَقِيْدِه غَلَط هُوَا -

ذَبُوْلٌ پُرْمُوْغِيْ - كَلْمَا بَرَسٌ - مَنَعَفٌ - ذَبْلًا يُوْنِيْ اِنْوَالِيْ -

تَرُوْتَا نَرُغِيْ كَا كَهْوَا جَانَا - ذَا اِبِلٌ مَنَعِيْفٌ - لَا فِر -

ذَخِرٌ يَذْخِرُ ذَخْرًا وَادْخَرُوْا اِدْخَرُوْا - اِيْذِه كِه لِيْ

جِيَا نَا - جَمْع كِرْنَا - ذَخِيْرُه كِرْنَا - كِيْس كِه لِيْ تُوْشِه مَبِيَا كِرْنَا -

ذَخِيْرَةٌ ج ذَخَائِرٌ - بَحِيْتٌ - ذَخِيْرُه - رَسَدٌ - جِيَا كِه

كِهْوَا بُوْنِيْ جِيْرِيْ - تُوْشِه -

ذَوِيْدٌ ذُوْا - بَكِيْرِيْنَا - جِيْرِيْنَا - ذَمْرَةٌ - جِيْرِيْنَا جِيْرِيْنَا

ذَرَّةٌ اَيْك ذَرَّة - جِيْرِيْنَا جِيْرِيْنَا - ذَرُوْرٌ پُوْر - جِيْرِيْنَا كِرْنِه

كِيْ دُوَالِيْ - سَعُوْتٌ -

ذَرِيَّةٌ ج ذَرِيَّاتٌ اُوْلَا دِيْنَسَل - بَعْد اِنْ اِيْنُوْلِه جِيْرِيْنَا

ذَبَابٌ - اِسْمَال كِيْ مَرَض - سَلْمُهِيْ جِيْرِيْنَا -

ذَرَعٌ يَذْرَعُ ذَرْعًا - اِتْمُوْلٌ سِه مَاطِنَا -

ذِيْرَاعٌ اَيْك اِتْمُه - اُوْدُهَا كِرْنَا -

ذَرِيْعَةٌ ج ذَرَائِعٌ وَسِيْدٌ - ذَرِيْعُه - وَاسِطُه - سَبِيْبَةٌ

ذَعْنٌ يَذْعُنُ ذَعْنًا وَادْعَنُ لِيْ كِيْسِيْ كَا مِطِيْعٌ وَفِرَا نِيْرَا

هُوْنَا كِيْسِيْ كِه اَكْهِيْ سِرْ هَجَا كِرْنَا - اِذْعَانٌ - اِطَاعَت

فِرُوْتِيْ - قَسِيْمٌ - تَا بُوْدِيْرِيْ -

ذَفْرٌ تِيْرُوْشِيْوَا لَا -

ذَقْنٌ ج اَذْقَانٌ كُهُوْرِيْ - رُوْطَا رُحِيْ -

ذَكَوْرٌ يَذْكُرُ ذِكْرًا وَذَكَرًا - زَبَانٌ سِه يَاد كِرْنَا -

يَادِر كِنَا - ذَكَرٌ يَادِر كِنَا - خِيَال كِرْنَا -

مَذَاكِرَةٌ بَاهِمٌ كَفْتَاو كِرْنَا - بَات دِيْنِيْ - بَاهِمٌ مَشُوْرُه كِرْنَا

ذَاكِرٌ يَادِر كِرْنِه اَلَا - ذَاكِرَةٌ قَوْت مَاطِنُه -

مَذَاكِرٌ جِيَان كِيَا هُوَا - تَعْرِيْف كِيَا هُوَا -

تَذَكِيْرَةٌ يَادِر كِرْنَا - يَادِر لَانِه اَلَا - اِسْمُوْرُوْشِيْوَا

اِحَاظَت نَامُه - نَشَانِيْ -

تَذَكَّرٌ نُوْشِيْوَا - نَشَانِيْ - رُوْدُه نَا مَجْر -

ذَكَوْرٌ ج ذَاكِرٌ - نِر - اَلِه نَسَا ل -

ذِكْرِيْ - يَادِر دِهَانِيْ - نَصِيْحَت - اِطْلَاع - دِل يَا زَبَان

سِه ذِكْر كِرْنَا - مَذَاكِرَةٌ - نِر - مَذَكَّرٌ (لَفْظ)

تَذَكَّرٌ كِيْرٌ زَبْنَانَا - مَذَكَّرٌ جَانَا

ذِكْرِيْ يَذْكُرُ ذِكْرًا - تِيْرُ ذِهِنٌ هُوْنَا - زِيْرِكٌ ذُوْدُ فِهْمٌ نَا ذِكْرِيْنَا

ذَوَاتَا وَ ذَوَاتَانِ ج ذَوَاتُ مَالِكٍ - قابض معلوم
مشتمل - رکعتی والا -

ذَاتُ بَدْرٍ - بین - نفس شخص حقیقت - ماہیت خود
ذَاتُ الْبَيْنِ - باہمی تعلق -

ذَاتُ الصُّدْرِ - رزق - نمونیا - پذیرتہ - اپنے آپ
فی ذَاتِهِ - آپ ہی -

إِسْمُ الذَّاتِ - وہ اسم جو ذات سے پر ولالت کرے
بمخلاف اسم صفت کے -

ذَاتِي - منسوب بہ ذات - ذاتی - فطری -

ذَاتُ الْجَنْبِ - پسلی کا درد -

ذَابَ يَذُوبُ ذَوْبًا وَ ذَوْبَانًا - بگھل جانا گھل جانا
يَذُوبُ كُفَالِي - بوترہ

ذَاقَ يَذُوقُ ذَوْقًا وَ مَذَاقًا - چھکنا - آزمانا - مزے
کا احساس کرنا - ذَوْقٌ وَ ذَائِقَةٌ - مزہ - احساس لذت

ذَوْقٌ سَلِيمٌ - طبع درست - وجدان صحیح - مذاق اصلی
مَذَاقٌ وَ قَتٌ يَأْكُلُهُ حَكْمَةٌ -

أَذَاعَ يَذِيعُ إِذَاعَةً - بھیلانا - عام کرنا -

ذَالَ يَذِيلُ ذَيْلًا - لمبا ہونا - وامن دار ہونا -

ذَيْلٌ تَمَمٌ لَكَا نًا - ایڈ کرنا -

ذَيْلٌ ج ذَيْوُلٌ - بچھلا حصہ - دم - تسمہ - حاشیہ -

بَابُ الرَّاءِ

رَاتِيْنٌ - درخت جھیل کا گوند -

رَأْسٌ يَرَأْسٌ رِيَّاسَةً - سردار ہونا - چودھری ہونا -

ذَكَوْجٌ - اذکیاء - تیر فرہم - آدمی ذکاوت جس کی تیری
ذَكَوْجٌ سَوْجٌ - آفتاب -

ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا وَ ذِلَّةً وَ مَذَلَّةً - خواہ ہونا - فراموش
اور مطیع ہونا تَذَلُّوا مطیع ہونا - انکساری -

ذَلِيلٌ - پست - خوار - مطیع - ذَلَّ اطاعت -

ذَمٌّ يَذُمُّ مَذْمُومٌ الزَّامُ دِيًّا - ملائت کرنا عیب
کرنا - ذَمٌّ بِرَأْيٍ - مذمت - ذَمٌّ ج ذِمَامٌ حماقت جفا

فرض - ذَمِّي - اسلامی حکومت کے ماتحت دوسرے مذہب
کا آدمی - ذَمِيْمٌ ملائت کیا ہوا - مَذْمُوْمٌ سزائے گناہ

أَذْنَبَ يَذْنِبُ ذَنْبًا - قصور کرنا - گنہگار ہونا - ذَنْبٌ كُنْهٌ
ذَنْبٌ ج ذُنُوبٌ گناہ - قصور - ذَنْبٌ ج أَذْنَابٌ - دم بہر

ذَوَالذَّنْبِ - دوار - دنبالہ دار (ستارہ)

ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَ مَذْهَبًا - جانا کسی راستہ چلنا
مَذْهَبٌ ج مَذَاهِبٌ مذہب دین - راستہ طریقہ -

ذَهَبٌ سَوْنًا - مَذْهَبٌ - طبع شدہ - سنہری -

ذَاهِبٌ جانے والا نہ رہتی منسوب بہ مذہب

ذَهْنٌ يَذْهَبُ ذَهْنًا - ذہن کے بھول جانا غافل ہو جانا
ذہن سے اتر جانا -

ذَهْنٌ يَذْهَبُ ذَهْنًا - تیر فرہم ہونا - پلٹا پڑہ ہونا
ذَهَانَةٌ سمجھدار ہونا -

ذِهْنٌ ج أَذْهَانٌ - فہم - عقل - سمجھ بیاداشت -

ذِهْنِيْنٌ - صاحب فہم و فراست تیر عقل اور سمجھ والا دانا
زود فہم - ذِهْنِيْنٌ منسوب بہ ذہن - داغی - خیالی -

ذُو - ذَا ذِي - تشبیہ - ذَوَا وَ ذَوَانٌ ج ذُو وَ مَوْثٌ
ذَاتٌ تشبیہ -

رَأْسٌ جِ رُوُوسٌ مِر۔ کھوپڑی۔

عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِسَوْ حِشْم۔

رَأْسُ الْمَالِ۔ پونجی۔ سرایہ۔ بضاعت

رَيْسٌ جِ مَوْ سَاءٌ۔ سردار۔ افسر۔

مَرْوُوسٌ۔ رعیت رِیَاسَةٌ۔ مملکت۔ حکومت۔

رَافَةٌ مہربانی۔ شفقت۔ رُوُوفٌ شفیق۔ مہربانی

کرنے والا۔ ترس کھانے والا۔

رَأَى یُرَى رُؤِیَةً وَکَلِمًا عَقْلُ یَا اَنْکُم سَعَلْتُمْ رُکْنَا

رِیَاءٌ دَکھاوا۔ ریاکاری۔ رُؤِیًا۔ خواب۔ سنینا۔

رَأِیٌّ۔ تیزخیال و نصیحت۔ ہنرموچ۔ جِ اَرَاءٌ

رِیَّةٌ پھپھرا۔ شش۔ ذَاتُ الرِّیَّةِ مَنُونِیَاسِتَش

کا درد۔ لُھَلُ الرِّیَایِ دُورِ اَنْدِیش۔ مَرْعِیٌّ جو دیکھا

جاسکے۔ غَیْرُ مَرْعِیٌّ۔ نظر نہ آنے والا۔

وَرِیَاءٌ جِ مَرِیَاسِیث۔ مَرِیَاسٌ۔ ریاکار دَکھاوا کر نیوالا

رُؤِیَّةٌ۔ اَنْکُم یَاوِلِ یَا عَقْلُ کی نظر۔

رَأِیَّةٌ جَھنْدَا۔ لَوَار۔ حَلْم۔

رَبُّ یُرَبُّ رَبًّا۔ پرورش کرنا۔ تَرْبِیَّتٌ گِرْنَا۔ مالک بڑا۔

قَابِضٌ ہونا رَبٌّ جِ اَدْبَابٌ رَب۔ مالک۔ اَقْبَا۔ سردار

رَبٌّ۔ ست۔ شیرہ۔ بھالوں کا گڑھا رس۔ دُوب

رَبِّیٌّ وَرَبَّانِیٌّ مَسُوْبٌ بِرَبِّ۔ رب والا۔

رَبُوْیَّةٌ۔ پرورش، الوہیت اللہ الی۔

رَبِیْبٌ۔ بچہ لگ۔ سو تیل بیٹا۔ رِیْبَةٌ سو تیل بیٹی۔

مَرْبِیٌّ۔ تربیت کرنے والا۔

مَرْبِیٌّ۔ شیرہ میں ڈالا ہوا پھل۔ مَرْبِیَّةٌ

مَرْبِیَّاتٌ۔ تربیتیں۔ احسانات۔

رَبَابٌ ایک تار والا باجہ۔ اِکْتَارَهُ۔

رَبِیحٌ یُرَبِّحُ رِبْحًا۔ تجارت میں نفع کمانا۔

رَابِحٌ فائدہ اٹھانے والا تجارت میں۔

رَبَطٌ یُرَبِّطُ رِبْطًا مضبوط باندھنا۔

رَبِطٌ تعلق مَرْبُوطٌ مضبوط بندھا ہوا رِبْطٌ رِبْطٌ

تعلق۔ ملاپ۔ عند نامہ۔ جمع۔ رَوَابِطٌ رِبَاطٌ۔ سرسے

مسافر خانہ۔ مہا خانہ۔ رُبِیحٌ چوتھائی۔

رَابِیحٌ چوتھا۔ چار۔ مَرْبِعٌ چار گوشہ۔

رَابِعَةٌ چوتھی رِبَاعِیٌّ چار حرفوں والا لفظ جس میں چار

حرف اصلی ہوں۔ چار مصرعوں والی نظم جِ رِبَاعِیَّاتٌ

رَبِیعٌ فصل بہار۔ بہار کی بارشیں۔

رِبَاعِیَّةٌ سامنے کے چار دانت۔

رَحِیٌّ رُبِیحٌ چوتھیا بخار جو چوتھے روز آوے۔

الرَّبِیعِینِ چالیس۔ رَبِیعُ الاَوَّلِ۔ رَبِیعُ الثَّانیِ قمری

سال کا تیسرا اور چوتھا مہینہ۔

مَرِیْبِعٌ موسم بہار کی ابتدا یعنی بارشیں۔

مَرْبَعٌ بُوکُمِی مَارُکُمِ بِیْطِنِے والا۔

رَبِیْعَةٌ گتند یا پھندے کا حلقہ۔ گرہ۔ جال۔

رَبِیٌّ تَرْبِیَّةٌ پرورش کرنا۔ مَرْبِیٌّ۔

ربیبی۔ سود۔ رَبِیٌّ۔ پھل پھل ہوا سانس۔

مَرْبِیَّةٌ۔ تعلیم۔ تربیت۔ پرورش۔ نگہداشت

رَبْوَةٌ ٹیلا۔ پستہ۔ بلندی۔ پہاڑی۔ مَرْبُوطٌ اور احمد

کے درمیان ایک نئے شہر کا نام جسے جماعت احمدیہ

پاک تانی مرکز کے طور پر تعمیر کر رہی ہے۔

مَرْبِیٌّ۔ معالیٰ مرتبہ۔ تعلیم و تربیت یافتہ۔

رَتَبٌ يَرْتَبُ وَتَرْتَبٌ - وَرَتَبٌ تَرْتَبًا مَضْبُوطٌ
کردینا۔ قائم کردینا۔

رَتَبَةٌ جَ رَتَبٌ - مرتبہ۔ منصب۔ درجہ۔ ترتیب۔ نظام۔
رَتَبٌ وَهَيْفَةٌ - تَرْتَبٌ نَظَامٌ - مَرْتَبَةٌ جَ مَرَاتِبٌ
درجہ۔ رتبہ۔ ادبھی جگہ۔ مَرَاتِبٌ تَرْتَبٌ وَهَيْفَةٌ وَاللَّ -
مصنف و مؤلف۔ مَرْتَبَةٌ - ترتیب دی ہوئی۔ مؤلفہ۔
بالترتیب۔ نظام کے ساتھ۔

رَقْلٌ تَرْتَبٌ لَلْ - وَاضِعٌ اَوْ صَافٍ پَرَعْنَا طَهْرًا طَهْرًا
الک الگ ہونے کے لیے پڑھنا۔

رَقْلٌ يَرْقُلُ رَقْلًا - مَرْدٌ پَرُوْنَا -

مَرْتَبِيَّةٌ وَه تَقْرِيرٌ يَنْظُمُ جَ مَرْدٌ كِي تَعْرِيفٌ يِي هُو
مَرَاتِبِيٌّ - فَوْتٌ شَهْ كَانُ كِي مَحَامِدٌ وَحَاسِنُ كِي نَطِيْسُ -
ایک قوم جو تونوئی لوگوں کے نام وغیرہ اور شجرہ نسب
یا درکھنے کا کام کرتی ہے۔

رَجَبٌ - قَمَرِيٌّ سَالِيٌّ كَالسَّائِرَاتِ هَيْبَةٌ - مَرَجَبٌ
عزیزت والا۔

رَجَحٌ يَرْجَحُ رَجْحًا ذَا - جَهَاكُ جَانَا تَرَاوُ كِي پَرُوْسُ كَا
ایک طرف جھکانا۔

رَجِيحٌ تَوَقِيْتُ دِيْنَا - تَرَجِيحٌ دِيْنَا - ذَا يَارَهُ وَزَنِي جَانَا -
رَاجِحٌ وَزَنِي - غَالِبٌ - قَابِلٌ وَثَوَقٌ مَرَجِحٌ تَرَجِيحٌ دِيَا هُوَا
زیادہ معتبر۔ زیادہ وثوق کے قابل۔

رَجْحَانٌ جَهَاوٌ - مِيْلَانٌ - رَغْبَتٌ - مَرَجِيحَةٌ اِسْلَامٌ
کا ایک فرقہ جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان کافی ہے عمل
کی ضرورت نہیں۔

رَجَزٌ يَرْجُزُ رَجْزًا نَظْمٌ بَحْرٌ رَجَزِيٌّ پَرَعْنَا - يَاشَعْرُ بِنَا تَا

رَجْزٌ كِنَاهٌ - رَجْزٌ كِنَاهٌ - عَذَابٌ بَقِيٌّ كِي پَرَسْتَشُ -
تَعْقُ نُوْشِي سَكْرَتٌ - بِيْرِيٌّ - تَبَاكُو وَغِيْرَهُ كِي عَادَتٌ -
أَمْ رَجُوزَةٌ - اِيك قِسْمٌ كِي نَظْمٌ يَاقَعِيْدَهُ جِي كِي بِرْمَصْرُ
میں قافیہ معین ہوتا ہے۔

رَجَسٌ يَرْجُسُ رَجْسًا بِرَا كَامٌ كَرْنَا رَكْنًا هُوْنَا -
رَجَسٌ وَرَجَسَةٌ - عَذَابٌ - غَضَبٌ - پَلِيْدِي -
براکام۔ نجاست۔ ناپاکی۔

رَجَعٌ يَرْجِعُ رَجْعًا - لُوْثًا - وَاپْسُ آتَا -
رَجَعَةٌ دُوْبَارَهُ زَمْرَهُ هُوْنَا - حَشْرٌ وَنَشْرٌ -

رَاجِعٌ لُوْثُهُ وَاللَّ - مَرَجُوعَةٌ وَاپْسُ لُوْثَا يَ كِيَا -

مَرَجِعٌ لُوْثُهُ كِي جَگہ - تَوْرَجِيحٌ وَاپْسُ لُوْثَا يَا -

رَجْعِيٌّ شَرِيْعَتٌ مِي وَه طَلَاقٌ جِي مِي مَرْدٌ پَرُو دُوْبَارَهُ عَوْرَتُ كُو
اپنے ساتھ رکھ سکتا ہو۔ مَرَا جَعَةٌ وَاپْسِي -

اِسْتِرْجَاعٌ وَاپْسُ لِيْنِي كَا مَطَالِبَةٌ كَرْنَا -

رَجْعِيٌّ - وَاپْسِي - رَجَلٌ يَرْجُلُ رَجْلًا - پِيْلٌ چَلْنَا -

اِرْتَجَلٌ اِرْتَجَالًا فِي الْبَدِيَّةِ كَرْنَا - بَغِيْرُوْطٌ جَ شَعْرُنَا
رَجَلٌ جَ رَجَالٌ - پِيْلٌ - مَرْدٌ -

رَجَلٌ جَ اِرْجَلٌ پَاؤُنٌ - طَائِفٌ -

مَرْتَجِلٌ بِرَحْبَتِهِ كَلَامٌ - فِي الْبَدِيَّةِ تَقْرِيرٌ -

رَجَلُ الْعَرَابِ كَا كُ جَنَّاكُنْ - پَاؤُنُ رَاغَا - اِرْتِجَالٌ

ایک بوٹی کا نام ہے جس کی ترہ میں کبوترے

ہوتے ہیں۔ رَجْوَلِيَّةٌ - قُوْتٌ مَرْدِيٌّ - طَاقَتٌ بَاو -

مَرَجَلٌ - وِيْگُ كَنَكْسُ -

رَجِمٌ يَرْجِمُ رَجْمًا سَاكْرًا - لَعْنَتٌ كَرْنَا - پَرْمَارَا كَرَقْلٌ كَرْنَا

رَجْمًا اِلْغَيْبُ - اِحْلٌ بُوْ بَاتِيْنُ كَرْنَا - قِيَاسٌ دُوْرَانَا -

رَحِيمٌ لعنتی۔ پتھر اڑ کیا ہوا۔

رَجَا يُرَجُو رَجَاءً کسی چیز کی امید کرنا۔ انتظار کرنا۔

رَاجِحٌ امید کرنے والا۔ مَرَجُوْهُ جِس سے امید کی جائے۔

أَرْجُوَانٌ۔ ارغوانی رنگ۔ ارغوان کا پھول

رَحِبٌ يُّرَحَبُ رَحْبًا وسیع ہونا۔ کشادہ ہونا۔

أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرَحَبًا مراد یہ کہ وَصَلْتُ أَهْلًا یعنی اے

اے والے تو اپنے اہل میں آ پہنچا ہے وَسَهْلًا اے نرم

زمین میں آ گیا ہے وَمَرَحَبًا اے کشادہ جگہ میں داخل ہو گیا

تُرَحِّبُ کسی کو مَرَحَبًا کہنا۔ کسی کی آؤ بھگت کرنا۔ کسی

کو شتاب دینا۔ خوش آمدید کہنا۔ رَحِيْقٌ عمدہ خالص شرب

رَحَلٌ يُّرَحِلُ رَحْلًا وَرَحِيْلًا وَارْتَحَلَ عَنْ وَالِي الْكُوفِ

کرنا۔ ہجرت کرنا۔ سفر کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

انْتَقَالَ مَكَانَ كَرْنَا۔ رَحَلْتُ سَفْرًا كَرْنَا مَجِيءًا

إِرْتِحَالٌ نَقَلَ مَكَانًا۔ مَرَحَلَةٌ ج مَرَاحِلُ مَنْزِلُ مَسَافِرِ

کے ایک دن کا سفر۔ اہم مقام۔

الرَّحِيْلُ الرَّحِيْلُ کوچ کے لئے تیاری کردہ کوچ کا

وقت آہنچا۔ رَاحِلٌ مَسَافِر۔ خانہ بدوش۔

رَحِمًا يُّرَحِمُ رَحْمَةً وَمَرَحَمَةً نرم دل ہونا۔ ہر بانی

کرنا۔ معاف کرنا۔ تَرَحَّمُ کسی سے ہر بانی کا ساوک کرنا۔

مَرَحَمَةٌ ج مَرَاحِمٌ۔ ہر بانی۔ ترس۔

رَاحِمٌ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ ہر بانی کرنے والا بغیر عمل کے شفقت

کرنے والا۔ بلا مبادلہ رحم فرمانے والا۔ معمولی عمل کا بڑھ پڑھ

کر بلا دینے والا۔

رِخْمٌ ج الرِّخَامُ۔ عورت کی بچہ وانی۔ گریبہ دان۔ پورس۔

رَوِيٌّ ج الرِّوِيٌّ۔ رشتہ دار۔

مَرَحُوْمٌ رَحْمًا کیا ہوا۔ بخشا ہوا۔

أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔

رَحْمَانِيَّةٌ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس سے وہ بندوں پر

بغیر کسی عمل کے ہر بانی فرماتا ہے۔

رَحِيمٌ ج رَحْمَاءٌ۔ نیکی کا بڑھ پڑھ کر بدلہ دینے والا۔

رَحِيْمِيَّةٌ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس سے وہ آخرت

میں اعمال کا اچھا بدلہ دے گا۔

رُحٌّ۔ ایک خیالی جانور جس کو سیمرغ کہتے ہیں۔

رُحْتٌ۔ سامان۔ ساز۔ زمین۔ جہول۔

رُخَصٌ يُّرُخَصُ رُخَصًا سستا ہونا۔

رُخِصٌ سستا۔ رُخَصَةٌ اہوازت مچھنی۔ تعطیل۔

مُرُخَصٌ ڈیلی گیٹ۔ رُخَامٌ سنگ بر مر۔

تُرَحِّمُ اسم منادی۔ سے آخری حرف حذف کرنا۔

رُخِيٌّ يُّرُخِيٌّ رُخُوَّةٌ نرم ہو جانا۔ ڈھیلا ہونا۔

إِسْتِرْحَاءٌ وَرُخِيْلًا ہو جانا مُسْتِرْحِيٌّ وَرُخِيْلًا پڑ جانے والا۔

سست ہو جانے والا۔ تَرَخِيٌّ۔ ڈھیل دینا۔

رَدٌّ يُّرَدُّ رَدًّا۔ واپس کرنا۔ پھینچے جانا۔

تَرَدُّدٌ۔ کبھی آگے آنا کبھی پیچھے ہونا۔

تَرَدُّدِيٌّ۔ رد کرنا۔ غلط ثابت کرنا۔

إِرْتِدَادٌ۔ دین کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کرنا

مَرْتَدٌ جو دین کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرے۔

مُتَرَدِّدٌ۔ شک و شبہ میں گرفتار۔

إِسْتِرْدَادٌ۔ واپسی کا مطالبہ کرنا۔

مَرْدُودٌ۔ رد کیا ہوا۔ لعنتی۔ رَدٌّ جَوَابٌ۔ رد۔ تردید۔

رَدِيٌّ۔ ردی۔ بُرَا۔ خراب۔ تَرِيْرٌ۔

رَدِیْعٌ پیچھے آنے والا۔ شعر کا موزون لفظ سوار
کے پیچھے دوسرا سوار۔ تَوَادُّقٌ۔ الفاظ کا ہم معنی ہونا۔
مُتَرَادِفٌ ہم معنی لفظ۔ متشابه المعنی
أُرْدُنٌ۔ فلسطین کا ایک دریا جس کے ایک طرف کا علاقہ
دو شرق اُردُن کہلاتا ہے۔

رِدَاؤُ جادو

رَذِیْلٌ پتھر کا رَدَّ اللہ کہینہ ہونا حقیر و ذلیل ہونا
رَذِیْلٌ کہینہ۔ حقیر۔ کم اصل۔ أَرْدَلٌ ج اَرْدَلٌ
خواب۔ کہینہ بہت حقیر۔ رَدُّ أَرْدٌ۔ چاول۔ بد بچ
إِرْدِیْقٌ قلعہ۔ بست۔

مَرَزِبَانٌ۔ گسان۔ رئیس۔ گورنر

رَمَاقٌ یَرْزُقُ رَهْزُقًا۔ دینا۔ بخشنا عطا کرنا۔ ضرورتاً
زندگی مرحمت کرنا۔

رِزْقٌ۔ روزی۔ غذا۔ عطیہ۔

رَازِقٌ روزی دینے والا۔ اسباب معاش پہنچانے والا
مَرَزُوقٌ جسے رزق دیا جائے۔

رَهْزُقٌ اللہ تعالیٰ کا نام۔ بہت رزق دینے والا۔
رَزَانَةٌ سنجیدگی۔ رائے کی مضبوطی۔

رَهْزُقٌ سنجیدہ رائے والا مضبوط۔ باوقار۔ بوجھل۔
رَازِقٌ۔ سونف۔ بادبان۔

رَزْفَانَةٌ روزنامہ۔ تقویم۔ جنت سری۔ کیلنڈر۔
(روزانہ اخبار اردو)۔ رَسْوَبٌ۔ بچھٹ۔ گاد۔ دُود۔

رَسْتَقٌ۔ کسان۔ دہقان۔ روستا۔

رَسَخٌ یُوسَخُ رَسُوخًا۔ گر جانا۔ جمنہ۔ قائم ہونا۔
رَاسِخٌ مضبوط گرا ہوا۔ کائناتش فی البحر ہونے والا۔

رَأْسٌ فی العلم۔ علم میں خوب ماہر۔

أَرْسَلٌ یُرْسِلُ إِرسَالًا۔ بھیجا۔ آندو کرنا۔ وضعت
کرنا۔ بھاگنا۔

رَسُوْلٌ ج رَسُوْلٌ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔

مُرْسَلٌ خدا کا رسول اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دنیا کی طرف
بھیجا ہوا۔ رَسَالَةٌ پیغمبری۔ ایچی گری۔ وفد۔

مَرَّاسَلَةٌ ج مَرَّاسَلَاتٌ خط و کتابت۔ نامہ و پیام۔
رَسَمٌ یُرْسَمُ رَسْمًا اھلًی۔ زمین پر نشان ڈالنا۔ خط
کھینچنا۔ نقش کرنا۔

رَسْمٌ ج رَسُوْمٌ و رَسُوْمَاتٌ نشان۔ خط۔ خاکہ نقش
قاعدہ۔ قانون عام رواج۔ رَسْمٌ رواجی۔ سرکاری۔

رَسْمًا۔ رسم اور رواج کے طور پر۔
مُرْسُوْمٌ منقش۔ نشان کیا ہوا۔ قائم شدہ رواج و عادت

جمع۔ مَرَّاسَلٌ تعلقات۔ آپس کے تعلقات۔
مُرَّاسَلٌ کھدا ہوا۔ منقوش۔

رَسْمٌ۔ رسی۔ جالندہ کو ڈالنے کی رسی۔
رَسْمٌ عرق۔ پینہ۔ تری۔ مَرَّاسَلٌ پکنے والا۔

رَسْمٌ۔ پکنا۔ بہنا۔ قطرہ قطرہ کرنا۔ رَسْمٌ۔ پھوٹنا۔
رَسْمٌ یُرْسَدُ رَسَادًا۔ صحیح راستہ پر چلنا۔ ہدایت

یافتہ ہونا۔ راہ پر ہونا۔ أَرْسَدَ إِرسَادًا۔ ہدایت دینا۔
راہ نمائی کرنا۔ سیدھے راستے پر چلانا۔

إِسْرَسَدٌ۔ ہدایت اور راہ نمائی چاہنا۔
رَسْمٌ۔ سعادت۔ راستی پر استقلال۔

رَسْمٌ صحیح دستور العمل۔ رَسْمٌ سیدھے راستے پر چلنے والا۔
ہدایت پایا ہوا

مُرْتَبِدٌ - سیدھا راستہ بتانے والا - ہادی - راہ نما

حَبَبُ الرَّشَادِ - ہالیوں

سَبِيلُ الرَّشَادِ - سیدھا راستہ

رَشْوَةٌ - پھدہار - رَشْوَةٌ - آنکھ میں ڈالنے کا پھدہار

باریک دوا جو آنکھ میں ڈالی جائے - ذرور

رَشِيْقٌ - اچھی صورت والا - خوشنما

رِشَاقَةٌ - خوشنالی - نفاست - پاکیزگی - لطافت - اچھی صورت

وَسْكَلُ نِزَاكَةٍ - نفاست - تحریر -

رِشَايَةٌ - شُورٌ - رشوت لینا

رِشْوَةٌ - رشوت - رَاثِيٌّ - رشوت دینے والا

مُرْتَشِيٌّ - رشوت لینے والا - رشوت وہ پیر یا روپ

جو کسی دوسرے کا حق غصب کرنے کے لئے کسی حاکم کو

دیا جائے -

رَاثِيٌّ - وظیفہ جو کارگیر کے شاگرد کو دیا جاتا ہے -

رُوشِيٌّ - کھڑکی - جھروکہ - روشن دان

رِصَاصٌ - قلعی - سکہ - سیہ

رِصَاصٌ - مَرْمُوسٌ - مضبوط عمامت جس کی وزروں میں

سکہ بگھلا کر ڈالا گیا ہو -

رِصَاصِيٌّ - سیہ کے رنگ کا

رِصَاصَةٌ - سکی گولی جو بندوق میں ہوتی ہے -

رِصْدٌ - يَرِصِدُ - رِصْدًا - حفاظت کرنا - نگہبانی کرنا

رِصْدًا - حفاظت رکھنا - لگانا -

رِصْدٌ - كَيْنَاكَةٌ - سیادل کی حرکت کو دیکھنے کی جگہ -

مَرِصِدٌ - كَيْنَاكَةٌ - رصد گاہ

مَوْضِعٌ - جواہرات سے بڑا دکھایا ہوا -

رَضَعٌ - تَرَضُّعٌ - سوئے یا جواہرات سے بڑا دکھایا ہوا

تَرَضُّعٌ - ترتیب دینا -

رَضٌّ - دُلْنَا - کوٹنا - کچلنا - کچلا جانا -

رَضِعٌ - يَرْضَعُ - رَضَاعَةٌ - بچے کا دودھ پینا - پستان چوسنا

مَرَضِعَةٌ - دانی - دودھ پلانے والی

رَضَاعَةٌ - دودھ پلانا -

رَضِيْعٌ - دودھ بھائی - مَرَضِعَةٌ - دودھ بھائی ہونا

رَضِيٌّ - يَرْضِيٌّ - رِضْوَانًا - مَرْضِيَّةً - عن کسی سے خوش ہونا

خوشنور ہونا -

اِسْتَرْضَاءٌ - خوشنوری چاہنا -

رَاضٍ - خوش ہونے والا -

رِضَاءٌ - خوشنوری - رضامندی - خوشی -

مَرْضِيٌّ - پسندیدہ - مَرْضِيٌّ - پسندیدہ رضامندی - باہم ہونا

عَيْشَةٌ - رَاضِيَةٌ - اچھی زندگی - راحت و آرام کی زندگی

رَضِيٌّ - تَلِيٌّ - يَانَةٌ

رِضْوِيٌّ - نَسُوبٌ - رضی جو امام علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی اولاد کو

رَطَبٌ - يَرطَبُ - رَطُوبَةٌ - گیلا ہونا - تر ہونا - سیلا ہونا

تَرطِيبٌ - گیلا کرنا - تر کرنا -

رَطَبٌ - گیلا - تر - مَرطُوبٌ - تری ہونا

رَطُوبَةٌ - تری - تازگی - تازگی

رَطْلٌ - آدھ سیہ کا درن -

رَعَبٌ - يَرعِبُ - رَعْبًا - ڈرانا - ڈر جانا -

رَعْبٌ - دہشت - خوف - ڈر - مَرعُوبٌ - خوفزدہ - ڈرا ہوا

رَعْدٌ - يَرعَدُ - رَعْدًا - گرجنا -

لَرَعْدٌ - اِرْعَاؤًا - کانپنا - تمہرانا - لرزنا - ڈرنا خوف کرنا -

رَعَاكَ رُن

رَعَشَ يَرَعَشُ رَعَشًا - رزنا - تھر تھانا - رعش پڑنا

إِرْعَاشٌ تَهْرَتُهُ رَعِيشٌ كَانِئَةٌ أَوْ تَهْرَتُهُ رَعِيشٌ وَالْأ-

رَعِيشَةُ اطْرَافُ كَعِ كَانِئَةٌ كِي مَرَضٍ -

رَعَاكَ (رَعَفَةً) نَكِيرٌ نَاكٌ سَعِ خُونٌ يَهْوِي مَرَضٍ كِي مَرَضٍ

رَعْنٌ يَرَعْنُ رَعُونَةً - بوقوف ہونا احمق ہونا -

رَعُونَةٌ بوقوفی حماقت - کثیر مجبب - خود پسندی جسکے ساتھ

بہی بھی شامل ہو۔

رَعَا يَرَعُو رَعُوًا كِي يَزِيْرُ سَعِ بَارِئًا رَجَابًا كَرِيًا - پڑھ کرنا۔

رَعِي يَرَعِي رَعِيًا وَرِعَايَةٌ وَرَعِيٌّ - چرنا - خبر گیری کرنا۔

رَعَانِي كَرِيًا - حکومت کرنا - رَعِيَّةٌ ج رَعَا يَا كَلِمَةٌ يَا غُول

جسکی کوئی نگہبانی کرتا ہے محکوم افراد - رِعَايَةٌ حِفَاظَت

(رَدُّو لِحَاظٍ - طرفداری - حمایت) اِتِّفَات

رَاعِيٌ ج رِعَاةٌ - گویا - حاکم - نگہبان -

مَرَعِيٌّ خِيَالٌ رَكَا هُوَ - نگرانی کیا ہوا

مُرَاعَاةٌ لِي لِحَاظٍ - خيال مرعی چراگاہ

رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبًا وَرَغْبَةٌ نَوَاشِ كَرِيًا - تمنا کرنا - رَغْبَةٌ نَحْت

تَمَنًا - انتہائی خواہش - رَاغِبٌ رَغْبَتٌ كَرِيًا وَالْأ - مَرغوب پندہ

رَغِيْفٌ رَوِيٌّ - رَغِيْفَةٌ پیرا

عَلَى الرَّغْمِ - خلاف -

رَغْوَةٌ - رَغْفٌ - جھاک - اَبَالٌ - بالائی -

رَغْنٌ - اَرْغَدُوْنَ - آرگن - باجا - ہارمونیم

رِفَادَةٌ (رَفْدٌ) زَخْمٌ كِي پٹی -

رَفْرَفٌ - بیکہ - جھپونا - الماری -

رَفَضَ يَرَفُضُ رَفْضًا - چھوڑ دینا ترک کر دینا -

مَرَانِضِيٌّ ج رَوَافِضٌ - کو ذیل کا ایک فرقہ جس نے

زید بن علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں شیخین رض

(حضرت ابو بکر و حضرت عمر رض) کے براکتے پر مجبور کیا لیکن انہوں نے کہا

رَفَعَ يَرْفَعُ رَفْعَةً - مرتبہ بلند کرنا -

رَافِعٌ إِلَى حَاكِمٍ كِي پَسِ مَقْدَمٌ لِي حَابَا

إِرْتِفَاعٌ - بلند ہونا - اونچا ہونا -

رَفْعٌ - اُطْحَانًا - بلند کرنا - درجہ بڑھانا -

رَفْعَةٌ مَرْتَبَةٍ أَوْ دَرَجَةٍ كِي بلندی -

رَفَعَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى نِي اس کو اعلیٰ مرتبہ بخشا - اَلَيْدِ اللهُ

پاک نے اسکو بزرگی عطا کی - اسکو اپنا قرب مرحمت فرمایا -

رَافِعٌ اِنْبِقَابٌ بَخِشْتَنِي وَالْأ يَدِ اللهُ تَعَالَى كِي نَانُوِي اَسْمَاءُ

عَسَى اِيْن سِي اِيْك نَامٌ هِي مَرْفُوعٌ - مَقْرَبٌ جِي اللهُ

پاک نے اپنا قرب بخشا ہو

رَفَعٌ بَلَدٌ مَرْتَبَةٍ - اُونچا کرنے والا

رَفْعٌ اِنْبِقَابٌ بَخِشْتَنِي

مَرْفَعٌ اُونچا ہونے والا - بلندی والا -

حَيَاتِيٌّ مَرْفُوعٌ وَهُوَ عَدِيْبَتٌ جِي كِي رِنْدَا نَحْضَرَتٌ صَلِي اللهُ

مَرَفَعَةٌ - مَقْدَمَةٌ - اِبِلِي - دَعْوِي -

رِفَاةٌ نَوْشَالِي - تَرْفَةٌ نَوْشُوَارٌ زَنْدُكِي - مَرْفَعَةُ الْحَالِ نَوْشُو

كِي زَنْدُكِي وَالْأ - رَفُوْ كِي مَرْتَبَتٌ كَرِيًا - رَفُوْ كَرِيًا

رَفِيْقٌ مَرْفِقٌ رَفِقًا وَرَفَاةٌ بِ سَاْمِي هُوَا - زَمِي كَرِيًا

رَفِيْقٌ ج رَفِقَاءٌ سَاْمِي - مَرَاْفَقَةٌ اِيْك دُوسَرِي

سَاْمِي بِنَا - رَفِيْقٌ زَمِي -

رَفِيْقٌ زَمِي كَا بَرْتَاؤُ كَرِيًا وَالْأ -

مَرْفِقٌ اَبْرَامٌ كِي جَلِي -

رَفَقَ يَرْفُقُ رَفْقًا دَرَفَاهِيَةً نَوْشَالًا هُونًا - زندگی خوشگوار ہونا۔

رَقِي يَرْقِي رِقَّةً پَتْلًا - باریک۔ نازک ہونا۔ کمزور ہونا۔
رَقِيقٌ پَتْلًا - رِقَّةً پَتْلًا پتلا پن۔ دِل کی نرمی۔ رونے کی حالت کا طاری ہونا۔

رَقَبَ يَرْقُبُ رَقَابَةً حَفَاظَةً رَزَا نَهْمًا بِلَانِي كِرْنَا نَارًا تَهْلًا كِرْنَا
رَاقِبٌ مَرَاقِبَةٌ رِكْمٌ بَهَا لِكِرْنَا - لحاظ رکھنا

رَقِيْبٌ - نگہبان - منتظر۔ محافظ
رَقَبَةٌ رَقَابٌ - گردن۔ غلام

مُرَاقِبٌ اِتْمَارُ كِرْنِي وَالَا
رَقَابَةٌ (اِعْدُ جَمَلِكُ - دُنْمَسُ - عَمَادُ)

مُرَاقِبَةٌ - گردن نیچے ڈالنے والی حالت الہیہ پر غور و تعمق کرنا
رَقْدًا يَرْقُدُ رَقْدًا سَوْنًا اِرَامًا كِرْنَا -

مَرْقُدٌ سونے کی جگہ۔ آرام کرنے کی جگہ۔ قبر۔ مزار۔ مقبرہ۔
مَرْقُدٌ نِيْنٌ اَوْرِدُوَانِي بَسِيْنَةُ اِنْيُون - مارفیا وغیرہ

رَقْنٌ يَرْقِنُ رَقْنًا - ناچنا۔ کودنا۔ رَقَانٌ غَوِيْتٌ
رَقَامَةٌ ناچنے کودنے والی دانس کرنے والی۔

رَقَعَ يَرْقَعُ رَقْعًا - پیوند لگانا
رُقْعَةٌ - کاغذ کا ٹکڑا۔ کپڑے کا ٹکڑا۔

مَرْقَعٌ - البہم۔ وہ کتاب جس میں متفرق تصاویر ہوں۔
يَرْقَانٌ جگہ کی بیماری زرد یا سیاہ۔

رَقْمٌ يَرْقُمُ رَقْمًا - لکھنا۔
رَقْمٌ جَرْقَوْمٌ وَاَرَقَامٌ - تھریہ ہندسہ۔ الائنٹ شمار

رَقِيْمٌ پتھر کی تختی جس پر حرف لکھے اکتدو ہوں۔
مَرْقَوْمٌ سَنَ مَرْقَوْمَةٌ لکھا ہوا۔

رَقِي يَرْقِي رَقِيًّا نِي وَالِي جَرْحًا بَهِيْتًا اُوْبْحًا هُونًا تَوَقِي
وَاِرْتَقِي اُوْبْرُ جَرْحًا - آگے بڑھنا۔ ترقی کرنا
اِرْتِقَاءٌ تَرْقِي - عروج۔ بلندی۔

رَاقِي تَهْلًا پھونک کرنے والا۔
رُقِيَّةٌ - تعویذ۔ گنڈا۔ جھاڑا۔ جادو و جادوگر ترقی۔ جادوگر تعویذ

گنڈا کرنے والا۔ رُكَاكَةٌ وَرُكِيكٌ پتلا۔ کمزور۔
رُكِيكٌ الْكَلَامِ - ایسی کلام کرنے والا جس کے نہ لفظوں میں زور ہونے معنوں میں۔

رُكِبٌ يَرْكُبُ رُكُوبًا وَمُرُكِبًا عَلِي سَوَارِ هُونًا
رُكِبٌ تَرْكِيْبًا - ملانا۔ مرکب کرنا

مَرْكِبٌ بِلَا اِتْوَا - مخلوط
اِرْتَكِبَ كَرَاهًا يَجْرِمُ كِرْنَا مَرْكِبٌ كَرَاهًا اِيْرَمُ كِرْنَا وَالَا

مَرْكِبٌ سَوَارِي - گاڑی۔ ٹھکی۔ اجالہ کی سوار۔
تَرْكِيْبٌ جَمْعٌ وَاَلَا مَاجَا نَجَا - جملہ کی یاد دہانی

رُكَابٌ نِيْنٌ كِي بِلَا بَسِي۔
مَرْكَبَاتٌ تَرْكِيْبٌ دِي مَہُوْنِي جِيْرِي۔

جہازیں مرکب و سخت بدقوی
رُكُوْرٌ يَرْكُوْرُ رُكُوْرًا نِي كَارُ دِيْنًا - لگا دینا

اِرْتَاكُرٌ عَلِي كَارُ اِحَا نَا - قائم کیا ہوا
مَرْتَكِرٌ كَرُ جَابِسٌ دِي سَا نِي اِرْتَاكِرٌ دَارُ سَا نِي

ڈیرہ۔ تھیلہ گوارہ کرنے کی جگہ۔ ٹھیکہ ہونا۔ اسی پر اویا۔ سکن
مَرْكُوْرٌ - لکھا ہوا۔ لکھا گیا ہوا۔ دل (ادب) میں

رُكْمٌ يَرْكُمُ رُكْمًا زَمِيْنٌ كِي طَرَفٌ اِنَارِي مِجْمَعَةٌ مَكْرُ
پتھر میں ہونا۔ جگہ جانا۔ ٹھیکہ ٹک دینا۔

رَاكْمٌ - رکوع کرنے والا۔ سبکے والا۔

میں مصروف رہتے ہیں لہذا آخری عشرہ (دس دن) اللہ پاک کی محبت اور عشق اور تامل قرب اللہ رضا اللہ خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے احتکاف یعنی تنہائی میں کاٹتے ہیں
رَمَقٌ زندگی کا آخری سانس - نزع کی حالت -

رُمَقَةٌ قوت لامیوت

رَمَلٌ ریت - بالو علم الترمیل ایک علم ہے جس میں ریت پر خطوط کھینچ کر اٹکل پتھر سے غیب کی باتیں بتلاتے ہیں جو عام طور پر سیاہ جھوٹ ہوتی ہیں -

رَمَلٌ علم عروض میں ایک بحر کا نام جس میں آٹھ بار فاعلاتن آتا ہے رَمَالٌ قیافہ اٹکل پتھر سے غلط خبریں بتلانے والا - اَرَمَلٌ اَمَلَةٌ ج اَدَامِلٌ - بیوہ - زبڈ وا - اِنْدُ

رَمَانٌ انار کا پھل اور درخت

رَمَانِيٌّ - انار کے رنگ والا - سرخ رنگ والا

رَمِيٌّ يَرْمِيٌّ رَمِيٌّ تیر بھینکا کرام تیر انداز -

اَرَانِبٌ ج اَرَانِبٌ خرگوش -

رَوْفٌ - چمک دکھ - خوبصورتی - آب و تاب - حسن و

خوبی - شان و شوکت - جاہ و جلال -

رَوْنَمٌ آواز میں لہر پیدا کرنا - رَوْنِمَةٌ - لوری - وہ

نظم ہر بار بار دہرائی جاوے -

مَرْتَمٌ سرسلی آواز سے گانے والا - تَرْتَمٌ یعنی خوش آوازی

سے گیت گانے والا -

رَمْدٌ - رَمْدٌ - اوباش - شراب نوش -

رَهَبٌ يَرْهَبٌ رَهَبَةٌ ڈرنا - خوف کرنا -

رَاهِبٌ زاہد - گوشہ نشین - عابد - درویش

رَهْبَانِيَّةٌ رابب کا طریقہ - گوشہ گزینی

رَكْعَةٌ نماز کی ایک رکعت رکعات

رَكْنٌ يَرْكُنُ رَكُونًا اِلٰی کسی چیز کی طرف ٹیک لگانا -

رَكْنٌ ج اُرْكَانٌ ستون - سہارا - جزو - مضبوط

رَكِيْنٌ - مضبوط - مستقل - ثابت قدم

ج اُرْكِيْنٌ سردار - منبر دار اور بیچ

اُرْكَانٌ اُرْبَعَةٌ ہوا - پانی - خاک - آگ

رَمٌّ وَتَرَمٌّ - ترمیم - درست کرنا مرمت کرنا -

مَرَمٌ مرمت کرنے والا درستی اور اصلاح کرنے والا -

جُونٌ کاتول کر دینے والا - تَوْمِيْمٌ اصلاح اور درستی

کرنا ج تَوَامِيْمٌ و تَوَامِيْمَاتٌ اصلاح کے طور پر پڑنا

رَمِيْمٌ - بوسیدہ - گلی سڑی ہوئی ہڈی -

رَمِيْحٌ ج رِيْحٌ نیرہ - رَمِيْحٌ نیرہ والا

رَمْدٌ اَشْرَبٌ شَمٌّ - آنکھ کا دکھنا - درد چشم -

رَمْدٌ - راکھ - خاک

رَمْدٌ يَرْهَبٌ رَمْدٌ اَنْكَمٌ سے اشارہ کرنا - آنکھ ہونٹ

رَمِيْمٌ سے اشارہ دیا سے بتلانا -

رَمْدٌ ج رَمْدٌ اَشْرَبٌ - رَمْدٌ اَشْرَبٌ اشارہ

رَمْدٌ اَشْرَبٌ ایسی عبارت جس میں اشارات ہوں تصریح نہ ہو -

رَمَضٌ تیزوین رَمَضٌ بہت گرم ہونا (موسم) بھون دینا -

جِلٌ جاننا - مَجْلِسٌ جاننا (دھوپ یا سورج کی گرمی سے) گرمی

اور تیزوین کی شدت ہونا -

رَمَضَةٌ اَنْ تَمْرِيٌّ سال کا نواں مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کے

عاشق بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق

کی گرمی اور تیزوین اور سوزش پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے

حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور دن رات اسکی عبادت

إِرَادَةٌ - خوش عقیدہ ہونا - مُرِيدٌ پیرو - مُرَادٌ خواہش مطلب
ج مُرَادَاتٌ - اِرَادَةٌ - مرضی - ارادہ -

ارادتی - اختیاری - اپنی مرضی کا

رَازٌ - راج - معاروں کا افسر - راج گیری کرنے والا اُردو
میں یہی لفظ بگڑ کر راج بن گیا ہے -

رَاضٌ يَرْضُ - رَوْضًا وَرِيَاضًا وَرِيَاضَةً مطیع ہونا
سداہنا سکھانا - چلنے کی مشق کرنا - جسمانی ورزش - نفس کشی
مُرْتَضٌ نفس کشی کی مشق کرنے والا - عابد زاد اصلاح نفس
اور اخلاق کی درستی کرنے والا -

رَوْضٌ - رَوْضَةٌ ج رِيَاضٌ - باغ - بستان - مرغزار -
تر و تازہ سبزہ زار

عِلْمُ الرِّيَاضِي - علم حساب و پیمائش - ج رِيَاضِيًّا علم حساب
و اقلیدس بنبر و تقابلہ و علم ہیئت وغیرہ

رَافِدٌ - ریوند جیسی ایک دروا کا نام ہے - امر اش حکم
سے وغیرہ کھولنے کے کام آتی ہے -

رَافِدَانٌ - روست بدان - تابران - ویرانہ کا مورچہ اور
دھوپ کے ستارے -

رَوْزِنَامَةٌ - روزنامہ کیلئے روزوں کا نام ہے -

رَوْقٌ - ممان کا نام ہے -

مَرَوْقٌ - مرقی - مرقا - مرقا -

مَرَوْقٌ - مرقی - مرقا - مرقا -

رَافِقٌ - رفیق - رفیق -

رِيَالٌ - ڈالر - افغان - تھمہ امیر کا روپ

رُومٌ - شہر روم کے شمال میں رہنے والے لوگ -

رُومِيٌّ - رومیوں کے ایک فرقہ کا نام ہے اور ان کے

رَهْبَانٌ درویش پارسا - زاہد
مَرْهَمٌ ج مَرَاهِمٌ - مرہم - بیپ ضماد

رَهْنٌ يَرْهِنُ رَهْنًا - گروی کرنا -

إِرْتَهَنٌ - گروی لینا - رَهْنٌ - گروی

رَهِيْنٌ گروی شدہ - مَرْهُونٌ منون - گروی شدہ -

مُرْتَهِنٌ گروی لینے والا - رَاهِنٌ گروی رکھنے والا -

رَوِيَّةٌ فکر اور فہم - تامل و تفکر -

أَرِيْبٌ - لائق فہم -

رَاحٌ يَرْوِحُ رَوَاحًا - شام کو سفر کرنا -

أَرَاخٌ يَرْوِحُ إِرَاخَةً - کسی کو راحت پہنچانا -

إِسْتَرَاخٌ - آرام کرنا - راحت لینا -

مُسْتَرِيْحٌ - راحت و آرام کرنے والا -

مُسْتَرَاخٌ بیت الخلا جہاں پر قضائے حاجت کے ذریعہ
راحت حاصل ہوتی ہے -

رَاحٌ وَرَاحَةٌ - راحت آسانی - آرام - سکھ - چین سکون و شہرت
بَيْتُ الرَّاحَةِ - غسل خانہ - پائخانہ -

رَوْحٌ - راحت و آرام - ہوا اور خوشبو کا مجموعہ -

رُوحٌ ج أَرْوَاحٌ - روح - جان - سانس - زندگی - الہام -

روحی - زندگی کا دار و مدار -

رُوحَانِيٌّ ج رُوحَانِيَّوْنَ - منسوب بہ روح - غیر جسمانی -

فیرادی رِيْحٌ تیز و تند ہوا - ج رِيَاحٌ ہوا میں -

رُحْيَانٌ ج رِيَاحِيْنٌ - خوشبودار - نباتات - ناز بوٹسی

رَاحَةٌ ج رَوَاحٌ - خوشبو - مَرْوَحَةٌ - پنکھا - بادکش -

مَرْدِيْحٌ الأَرْوَاحُ خوشی پہنچانے والا - اِرْتِيَاخٌ خوشی بہت

أَرَادَ يُرِيدُ إِرَادَةً - چاہنا - خواہش کرنا

رَدْمَةُ الْكُبْرَى - اٹلی کے دارالخلافہ کا نام -

مَرَاتِمٌ مَقْصِدٌ - مطلب -

رَوَى يَرْوِي رِوَايَةً كَيْسِي دُوسرے کے اقوال یا بیان کا نقل کرنا۔ حوالہ دینا۔ کسی قابل اعتبار سند کا۔
رَاوِيٌّ رَوَايَتٌ كَرْنِي وَالَا - حدیث نبویؐ کا بیان کرنے والا۔ مَرُوِيٌّ رَوَايَتٌ كَرْدِه - حوالہ دیا ہوا۔ سند کے ساتھ بیان کیا ہوا۔

رَوِيَّةٌ غُورٌ وَفَكْرٌ - ضرورت

رَوَايَةُ طَرَامَا - ناول -

رَابٌ يُوَيْبٌ رَيْبًا وَارَابٌ كَيْسِي كُوشَكٌ فِي دَالَتِ -
رَيْبٌ شَكٌّ وَشِبْهُ - بدگمانی - بدبختی -

لَا مَرَّيْبَ فِيهِ اِسْ فِي سِي شَكٍّ وَشِبْهُ كِي كُنْجَالَشْ نَهِيں -

اِرْتِيَابًا شَكٌّ وَشِبْهُ - اضطراب

مُرِيْبٌ - شَكٌّ فِي تَلَانِي وَالَا -

رُدِيَانٌ - عَمْرٌ كَا اِحْجَا حَصَّة - ابتدا سے عمر جوانی -

مُرُوِيْمٌ - حَضْرَتٌ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَالِدُهُ مَاجِدُهُ كَا نَامُ

رَايَةٌ ج رَايَاتٌ - جھنڈا - علم -

رَيْقٌ - بَسُوكٌ - خَالِي مَعْدَه -

بَابُ الرَّاءِ

رَبِيْبٌ - كَشْمَشٌ - سُوْكُهَا اَنْكُوْر - رُوِيْرٌ

رَبِيْدٌ وَرَبِيْدَةٌ - كَمْنٌ - بِالْاَلِي - عَمْرٌ حَصَّةٌ رَهْتَرِيْنِ حَصَّةٌ

رَبِيْدٌ حَبَاكٌ - دَهَاتٌ كِي سِيْلٌ -

مُرَبِيْدٌ - بَلُوْنِي - (مَدَهَانِي بِنَجَابِي) رُبِيْدَةٌ - عَوْرَتٌ كَا نَامُ

رَبِيْبٌ نَبِيْرٌ - نَقْلٌ كَرِيْنَا - عَمْدٌ كِي سِيْلٌ -

رَبُوْرٌ ج رُبُوْرٌ كِتَابٌ وَصَحِيْفَةٌ - حَضْرَتٌ وَاوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

پَرِنَا زِلٌ شَدَهٌ صَحِيْفَةٌ كَا نَامُ -

رَبِيْرٌ اَيْكٌ بَرْكٌ صَعَابِي رَضِي السُّعْنَةُ كَا نَامُ

مُرَبُوْرٌ لِكَمَا هُوَا - تَحْرِيْرٌ شَدَهٌ

رَبُوْحِدٌ - اَيْكٌ قِيْمَتِي سَبْرٌ پَتْمَرَا ئِلْ بِه رَعُوِيٌّ مُشَابَهُ رَقْرَدَهٌ اَيْكٌ قَسْمٌ كَاتَا

رَبِيْبٌ كِي تَقِيْلٌ - تُوْبْرَا - (رَبِيْلٌ)

مُرَبِيْلَةٌ - كُوْرِي - رُوْرِي - كَهَادُ كَا دُھِيْرٌ - كَهَادُ جَمْعٌ كَرْنِي كِي جَلْهٌ -

رَبُوْنٌ ج رِبَانِيْنٌ - كَنْدُ فَمِيْنٌ - بِي وَقُوْفٌ - كَا بَكٌ

رَبَاَجٌ شِيْثَةٌ رُبَاَجَةٌ لَمِبٌ شِيْثَةٌ كَا بَرْتَنٌ -

رَبْرِيْرٌ جُزْبٌ رُبْرَاٌ - جُھْرُكُنْ - مَنَعٌ كَرِيْنَا - رَسْرِيْنَشْ كَرِيْنَا - جُھْرُكِي دِيْنَا

رَاَجِرٌ جُھْرُكُنِي وَالَا - رَحِيْرٌ رِيْحِيْنٌ - اِسْهَالٌ -

رِيْحَاتٌ عِلْمٌ عَرُوْضٌ كِي سَبَبٌ نَفِيْعٌ اَيْ سَبَبٌ تَقِيْلٌ كِي تَغِيْرٌ كَا

نَامُ (رَحْفٌ) رَحْلٌ - تَارَهُ رَحْلٌ - كَامٌ سِي عَلِيٌّ رِيْنِي وَالَا (رَحَلٌ)

رَحْمٌ يَرْحَمُ رَحْمًا وَرِحَامًا - بِيْهِيْرٌ كَرِيْنَا - رِيْحُومٌ كَرِيْنَا -

رَاَحْمٌ كِي پَرِيْرٌ كَرِيْنَا - اِرْدِيْحَاتٌ رِيْحُومٌ - جِيْطِيْرٌ - جِيْطِيْرٌ كَرِيْنَا -

رَحْمَةٌ - رَحْمَا پِيْلٌ - مُرَاَحْمَةٌ رُوْكٌ - مَقَابِلُهُ (اُرْدُو)

مُرَاَحْمٌ - رِيْحُومٌ كَرْنِي وَالَا - رُوْكُنِي وَالَا -

رَحْرِيْرٌ يَرْحُرُ رَحْرًا - دَرِيَا كَا چُرْھَنَا - سَمْنَدِرَا كَا پَرِيْ هُونَا -

رَحَاَزٌ جُھْرٌ مَوْجِيْنٌ بِيْھَرٌ هُوَا سَمْنَدِرٌ -

رَحْرَفٌ ج رَحْرَا فِتٌ نُوْبُوْرَتِي - سُوْنَا - دُنْيَا دَارِي كَا سَا مَانُ

دُنْيَا كِي نُوْبُوْرَتِيَاں - مُتَرَحْرَفَاتٌ - بِيْھُوْرَهٌ كَلَامٌ

رَحْمٌ بِيْھُوْرَهٌ (رُوْكُنِي) رَحْرَا جَانَا (رُوْكُنِي)

زَقْوَمٌ - تنویر کا درخت - مہلک غذا
 زَكَامٌ - سردی لگنا - زکام ہونا - نزلہ -
 مَزْكُومٌ - زکام کی بیماری والا
 زَكِيٌّ يَزْكُو زَكَاةً بَرَّحًا - زیادہ ہونا - پاک و صاف ہونا
 اچھا ہونا -

زَكَاةٌ پاکیزگی - عمدہ حصہ - زکات - خیرات - صدقہ - نُؤْمٌ
 جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہو - زَاكٍ - زَكِيٌّ ج از كِيَاءٍ گناہ
 سے پاک - راست باز مَزْكِيٌّ تزکیہ کرنے والا - تَزْكِيَةٌ پاک کرنا
 اَزْكِيٌّ - زیادہ پاکیزہ - زَكِيَّةٌ پاک عورت -

زَلَّ يَزِلُّ زَلًّا يَهْلِكُ يَهْلِكُ يَهْلِكُ - غلطی -
 بھلا ہٹ - ٹھوکر - بغیر ارادہ کے قصور -

زَلَالٌ صاف پانی - مَزَالَةٌ بھلنا - بھلنے کی جگہ
 زَلَابِيَّةٌ جلیبی - پیٹری

زَلَزَلَةٌ ج زَلَزِلٌ زمین کا ہلنا - بھونچال - تَزَلُّزٌ
 زمین کا ہلنا - ہيجان - ہیل - ہنگامہ -

زَلَقٌ بھلنے کی جگہ -
 مَزْدَلِقَةٌ مکہ شریف کے قریب ایک مقام -

زَلِقٌ الْأَمْعَانِ اسہال - ایک مرض جس میں کھانا فوراً کھانے
 کے بعد بغیر مشغول ہونے کے خارج ہو جاتا ہے -

زَوْجَانٌ ج اَزْمَةٌ - کام - ہاتھ - پاؤں -
 زَمْرَةٌ ج زَمْرٌ - جمہور - جماعت -

مِزْرَةٌ - مِزْرٌ - مِزْرٌ - مِزْرٌ - مِزْرٌ - مِزْرٌ -
 حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور کی کتاب

اَزْمِيٌّ - شہر سمنان - (ٹرکی میں)
 زَمْرَدٌ - سبز مہرا - سبز قیمتی پتھر -

مِزْرَابٌ پرنالہ (ذَرَبٌ)
 زَرَعَ يَزْرَعُ زَرْعًا - بونا - کھیتی کرنا - پودا لگانا -
 زِرَاعَةٌ کھیتی باڑی کا کام - مَزْرَعَةٌ کھیتی -
 مَزْرُوعَةٌ بوئی ہوئی زمین - مَزَارِعٌ - کسان کھیتی باڑی کرنے والا
 زُرَافَةٌ شتر گاؤ - گنڈ و ایک جنگلی جانور شتر نما چیتا ایک لمبی گردن
 کا جانور جو ازرق میں ہوتا ہے -

زَوْرَقٌ چھوٹی کشتی
 اَزْرَقٌ - نیلا رنگ -

زَرَكَشٌ ریشمی اور سنہری تاروں کی کیمچو اب یا زربفت -
 زَرِيحٌ ہر تال زرد

زَرْنَبٌ - برہی - زعفران
 زُرْطٌ - جٹ - کسان - جاٹ -

زَعْفَرَانٌ نیسر - زعفران
 زَعْمٌ يَزْعُمُ زَعْمًا وَ زَعَامَةً ب ذمہ وار ہونا کسی کا ضامن ہونا

زَعِيمٌ ضامن - ذمہ وار - ج زَعْمَاءٌ - جواب دہ - نمائندہ
 زَعْمٌ - دعویٰ - خیال مَزْعُومٌ خیال کیا ہوا -

زَعَامَةٌ ذمہ داری - مسؤلیت - سرداری - شرافت
 مَزْعُومَاتٌ خیالی باتیں بے حقیقت امور بے دلیل باتیں -

زَغْلُولٌ تیرو - پھرتیلا - چست
 زِفْتُ رال - زَفْتٌ - رال لگانا یا لگنا -

زِفَاتٌ دلہن کو دلہا کے گھر لے جانا
 كَيْلَةُ الزَّفَانِ - دو لہا دلہن کی ہم بستری کی پہلی رات شب وصال

زَفِيرٌ لمبی سانس - آہ - بیخ -
 زَقَاقٌ ج اَزْقَةٌ - گل - کوچہ - تنگ راستہ

الزَّقَاقُ - جبرالٹر - جبل الطارق -

زَمَزَمَةٌ دور سے آواز کا گونجنا۔ سر سے گانا۔

زَمْرَمٌ بکثرت پانی۔ بیت اللہ شریف کا کنواں جو حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بصورت چشمہ پھوٹ نکلا۔
زَمْرَمَةٌ اللہ تعالیٰ کی حمد کا گیت جسے ترنم اور سر سے گا کر اسکے احسانات کا ذکر کیا جاوے۔

زَمْرَمِيٌّ آب زمزم سے بھری ہوئی ڈبیہ۔

مَرْمِيٌّ کپڑے لپٹنے والا۔ کبیل اور ہنے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جس سے آپ کو نبوت کا کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ شریفہ زَمِنٌ۔ زَمَانَةٌ ج اَزْمِنَةٌ۔ زمانہ۔ وقت۔ زَمَانٌ زمانہ وقت۔ روزگار۔ عہدِ مُؤْمِنٍ پرانا۔ اِمَامُ الزَّمَانِ اِمَامُ الزَّمَنِ۔ زمانہ کا امام۔ موجودہ دور کا مجدد یا امام وقت۔

زَيْنَبٌ نام مبارک بنتِ کرام سرورِ دو جہانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

زَيْدٌ بَدْرٌ سخت سردی

زَيْنُورٌ ج زَنَا بِيْرٌ۔ بھڑ۔

زَيْبِقٌ گل سوسن۔ کنول کا پھول اور پودا۔

زَيْجِيٌّ۔ رنگی۔ جیشی

زَيْجِيْلٌ سونٹھ۔ ادک۔

زَيْجَارٌ۔ زَنْكَارٌ۔ زَنْجَارِيٌّ۔ زنگار کا رنگ

زَيْجَبَادٌ افریقہ کے مشرق میں ایک جزیرہ۔

زَيْجِيْرٌ۔ سنگل۔ زنجیر لوسہ کی۔

زَيْجَفْرٌ شگرف۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

زَيْدِيٌّ ج زَيْدِيٌّ بے دین۔ مجوسی۔ منافق۔ دوزخا ماننے والا۔

Basic Arabic Dictionary.

لغات العربیہ الاساسیہ یعنی تلخیص العربیہ یا خلاصۃ المنجد اردو

زَيْجَرٌ ستاروں کی گردش کا نقشہ۔ معماروں کا تاکا جس سے دیوار کو برابر کرتے ہیں۔
 زَادِيْزِيْدٌ زِيَادَةٌ - بڑھنا۔ بڑھانا۔ زیادہ ہونا
 زِيَادَةٌ زیادتی۔ زَائِدٌ زیادہ۔ مَزِيْدٌ زیادتی والا۔ تَزَايُدٌ ایک دوسرے سے خرید و فروخت میں بڑھنا۔ زَائِدَةٌ بڑھوتری۔
 زَانٌ يَزِيْنُ زَيْنًا - سجانا۔ آراستہ کرنا۔ زَيْنَةٌ خوبصورتی۔ مَزِيْنٌ خوبصورت کیا ہوا۔ سنوارا ہوا۔ مَزِيْنٌ حجام۔ ثانی۔ بالوں کو ٹھیک کرنے والا۔
 زَيْجٌ - شکل و ہیئت۔ لباس۔ فیشن۔ رسم۔

بَابُ السَّبَبِ

س۔ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ سَيَضْرِبُ سَأَلَ يَسْأَلُ سَأَلَ
 پوچھنا۔ مانگنا۔ سَأَلَ مانگنے والا۔ سَأَلَ
 مَسْأَلَةٌ مَسْأَلٌ حَاجَةٌ پوچھنا۔ پوچھنی
 مَسْأَلٌ پوچھا ہوا۔ مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ
 سَائِدٌ باقی سب۔ تمام بقیہ
 سَبَّ يَسْبُ سَبًّا - سخت گالی دینا۔ سَبَابَةٌ
 گالی دینے والی۔ انگوٹھے کے ساتھ کی انگلی۔
 سَبَبٌ حَاسَبَاتٌ - ذریعہ سبب۔ سبب۔ سبب۔

زَادَ يَزُوْدُ زِيَادَةً - ملاقات کرنا۔ ملنا۔
 زَائِرٌ ملنے والا۔ وَرِيْطٌ جَ زَائِرِيْنٌ - مَزَارٌ
 ملنے کی جگہ۔ زِيَادَةٌ ملاقات۔ مَزَارَاتٌ - اولیاء
 کے مقابر و مقامات۔ زَوَّارٌ زہارت کرنے والے۔
 ملاقاتی صحابی۔ الزَّوْدُ زَادٌ - بغداد زُوْدٌ جھوٹ
 تَزْوِيْنٌ جھوٹ ثابت کرنا۔ مَزُوْدٌ جھوٹ
 بنانے والا۔ مجلس ساز۔
 زَاعٌ يَزُوْعُ زَوْعًا - جھک جانا۔ ٹیٹھا ہوجانا
 زَيْجٌ کچی ٹیٹھا پن۔ زَاعٌ کوا۔
 زَالٌ يَزُوْلُ ذَوَالٌ - پھر جانا۔ الگ ہوجانا
 ذَوَالٌ علیحدہ کرنا۔ ہٹانا۔ ذَائِلٌ غیر پابدار۔
 مَزِيْلٌ - زائل کرنے والا۔ ہٹانے والا۔ لَمْ يَزَلْ
 وَلَا يَزَالُ وہ ذات پاک جو ہمیشہ سے ہوا ہمیشہ
 رہے گا۔ اِذَالَةٌ - دفعیہ ہٹانا۔ علیحدہ کرنا۔
 زَوِيٌّ يَزُوِيٌّ زِيًّا - ایک طرف کرنا۔ اِثْرُوِيٌّ
 کنارہ کشی۔ الگ ہوجانا۔ مَنزُوِيٌّ کنارہ کشی کرنے والا۔
 زَاوِيَةٌ زَوَايَا - کونہ۔ گوشہ۔ زاویہ۔
 زَيْبٌ - پارہ۔ سیاب۔
 زَيْتٌ - تیل۔ جوہر۔ زیتون کا تیل۔ زَيْتُوْنٌ
 زیتون کا درخت یا پھل۔ زَيْتُوْنِيٌّ - زیتونی رنگ کا
 زَيْتٌ - تیل۔ تیل بیچنے والا۔

مُسَبِّبٌ - سبب پیدا کرنے والا۔ ذریعہ نکلنے والا (ہذا)
سَبِيَتْ ہفتہ کا دن۔ آرام کا روز۔ سَبَاتٌ کثرت سے نیند آنے کی مرض۔

سَبَعٌ یَسْبَعُ سَبْعًا وَسَبَاعًا پانی میں تیرنا
سَبَعٌ تَسْبِيْحًا - اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا سبحان
کہنا۔ سَبْحَةٌ - تسبیح مناجات۔ وظیفہ۔ سَبْحَانِ
اللہ خدا پاک ہے۔ سَبَاْحَةٌ تیرنے کا فعل۔ سَبَّحَ
تیرا کہ تَسْبِيْحَةٌ حمد کا گیت۔ مُسَبِّحٌ تسبیح کرنے والا
سَبَطٌ اَسْبَاطٌ پوتا۔ نواسا۔ یہود کا قبیلہ گرو
سَبَاطٌ بیلری کا چھت۔ کوچہ بندی جو دو مکانوں کے
درمیان ہو۔

سَبَعٌ یَسْبَعُ سَبْعًا ساتواں ہونا۔ سَبْعٌ سات
سَابِعٌ ساتواں۔ سَبْعُونَ ستر۔ اُسْبُوْعٌ ہفتہ
سَبَاعِیٌّ سات حرفوں والا لفظ۔ سَبْعٌ سَبَاعٌ
ورندہ سَبْعِيَّةٌ ورنڈی۔

سَبَقٌ یَسْبِقُ سَبْقًا آگے ہو جانا۔ پہلے آنا۔
آگے نکل جانا۔ تَسَابُقٌ مقابلہ۔ سَبَقَةٌ پہل کرنا۔
مُسَابَقَةٌ آگے نکلنے کے لئے مقابلہ کرنا۔ سَابِقٌ
گنڈا ہوا۔ سَوَابِقٌ مشبووق پیچھے چھوڑا ہوا
سَبَاقٌ الکلام کسی کلام سے پہلے کی عبارت۔

سَبَلٌ سَبَالٌ مویں والی سی کا اگلا حصہ۔
سَبِيْلٌ سَبُلٌ راستہ۔ سَبْرٌ ذریعہ۔ واسطہ
اِسْبِيْلٌ سَبِيْلٌ مسافر۔ راہ رو۔ سَبَدٌ چھ۔ سَبْتُونَ
ساتھ سَبْرٌ یَسْبُرُ سَبْرًا ہونا کھانا۔ چھپانا۔
سَبْرٌ اَسْبَارٌ پردہ۔ سَبْرٌ اَوْبٌ پردہ۔

سَاتِرٌ پردہ پوش۔ سَتَاذٌ بہت چھپانے والا۔
مَسْتُوْرٌ چھپا ہوا۔ مَسْتُوْرَةٌ چھپی ہوئی۔
سَجَدٌ یَسْجُدُ سُجُوْدًا۔ سر نیچے کرنا۔ سَاجِدٌ
جھکنے والا۔ سجدہ کرنے والا۔ سَبَا۔ عربوں کا ایک قدیم
قبیلہ۔ مُسْتَنْزَرٌ پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔

اَلدُّ شَتَانَةٌ قَسَطْنِيَّةٌ۔ استنبول۔ مَسْجِدٌ
مَسْجِدٌ سَاجِدٌ سجدہ کرنے کی جگہ۔ عبادت کا مقام۔
سَجَادَةٌ کجائے نماز۔ اِسْتَسْتَبْتُ۔ چھ ترہ متعذر۔ وُبْرٌ
سَجَعٌ یَسْجَعُ سَجْعًا۔ مُتَقَشٌّ نثر میں کہنا
مُسْجَعٌ مُتَقَشٌّ عبادت۔ سَجَلٌ رِجْسٌ میں صرح
کرنا۔ سَجِلٌ دَفْرٌ تَسْجِيْلٌ رِجْسٌ کرنا۔
سِجِيْلٌ سنگ گل کا مغرب ہے کھنگر گا۔ راجس میں
پتھر لے ہوں۔

سَجْنٌ یَسْجَنُ سَجْنًا قید کرنا۔ روکے رکھنا
مَسْجُونٌ قیدی۔ سَجْنٌ قیدخانہ۔ سَجِيْنٌ ا
دورخ کی آگ۔ سَجَانٌ داروغہ جیل۔ سَجْدَجِلٌ
شبیشہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ سَجِيَّةٌ سَجَابَا
خصلت۔ عادت۔ خلق۔ سَجَابٌ سَجَبٌ باد
سَجْبَانٌ عرب کے ایک فصیح اللسان آدمی کا نام
سَحْرٌ یَسْحَرُ سَحْرًا وَسَحْرًا جادو کرنا
فریفتہ کرنا۔ سَحْرٌ کھانا۔ تَسْحَرُ سَحْرًا کھانا
سَحْرٌ جادو۔ دھوکا۔ دل کو بھانے والی بات۔
سَاحِرٌ جادوگر۔ مَسْحُوْرٌ مِسْحُوْتٌ جادو کیا ہوا
سَحْرٌ اَسْحَارٌ سحری کا وقت۔ سَحْوْمٌ
پچھلی رات کا کھانا۔

سَحَقٌ يَسْحَقُ سَحَقًا وَسَحَقٌ
تَشْحِيقًا پینا۔ سفوف کرنا۔ پین کر اٹا کر دینا
رگڑ کر باریک کرنا۔ سَحِيقٌ باریک سی ہوئی ہو
سَاحِلٌ سَوَاحِلٌ سَمَدٌ کُنَارٌ۔

سَحْتٌ۔ سخت۔ شدید۔
سَخِرَ يَسْخَرُ سَخْرًا وَسُخْرًا پِ اَوْ
مِنْ كَسِي كَا مَذَاقٌ اُرَانَا كَسِي پَر بِنْسَا۔ تسخر کرنا۔
مُسَخَّرٌ قَابُوسٌ كَمَا هُوَا۔ تسخیر کسی کو بس
میں لانا۔ قابو کر کے کام پر لگانا۔ بیگار لینا۔ مَسْخَرَةٌ
وہ چیز جس کی وجہ سے ہنسی کی جائے۔

سَخِيفٌ۔ کمزور عقل والا۔ بیوقوف۔ تَسْخِيفٌ
گرمی پہنچانا مَسْخِيفٌ۔ گرمی دینے والا۔
سَخِيٌّ يَسْخِي سَخَاءً سَخِيٌّ هُوَا۔ فیاض ہونا
سَخَاءٌ سَخَاوَةٌ۔ فیاضی بخشش۔

سَخِيٌّ هُوَا سَخِيَاءٌ۔ فیاض۔ سخاوت کرنے والا
سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا اَدَا۔ درست ہونا ٹھیک
ہونا۔ سیدھا ہونا۔ سَدِيدٌ۔ ٹھیک۔ سیدھا
سَدَادٌ۔ درستی۔ سیدھا پن۔ سَدٌّ۔ روک۔ پردہ
پشتہ۔ مَسْدُودٌ بِنْدٌ كَمَا هُوَا۔ روکا ہوا۔

سَدَّةٌ سَدٌّ سَدَّةٌ۔ روک۔ کسی خلو کا حیم
میں رگ جانا۔ سَدْرَةٌ۔ بیری کا درخت سَدْرَةٌ
الْمُنْتَهَى اَنْتَهَانِي بيري یعنی انتہائی کمال۔
سَادِسٌ حَيْطًا۔ سُدُسٌ۔ چٹا حصہ۔ سَدَائِيٌّ
چھ حرفی لفظ۔ مَسْدَسٌ۔ چھ مصرعوں والی نظم چھ
فیرواں ریواہور۔ سَدُوْكَرٌ۔ قوم نولہ کا شہر

جو زلزلہ سے تباہ ہوا۔ سَدَابٌ۔ تنگی کا پردہ جس
کے پتوں کا لیب تل کے بڑھنے کو روکتا ہے۔
سَادٌ بَجْرٌ سَادٌ۔ سَدَّ اَجْتَهُ سَادٌ

سَرَّ يَسُرُّ سُرُورًا اَوْ مَسْرَةً خوش کرنا
اَسْرَارًا کو چھپانا۔ مَسْرُورٌ خوش۔ سَرَّجٌ اَشْرَافٌ
بمید۔ سَرِيْرٌ لَاجٌ سَرَائِرٌ بَعِيْدٌ۔ راز۔ سِرِّي
پوشیدہ۔ آہستہ گاتر الا شَرَارِ۔ پرائیویٹ
سیکرٹری۔ سُرَّةٌ نَافٌ۔ سَرِيْرٌ لَاجٌ سُرُرٌ

تخت۔ چارپائی۔ بادشاہت۔ سُرِّيَالٌ قَمِيصٌ زِيْرٌ
سَرَاجٌ۔ دیا۔ سورج۔ چراغ۔ سَرَاجٌ زِيْرٌ سَارٌ
سُرَّجِيْنٌ سُرِّيْنٌ۔ مَسْرُورٌ عِلْمٌ عَرُوضٌ كَمَا اَبَك
بحر کا نام در اَسْرَحٌ وہ کپڑے اُتار کر ننگا ہو گیا

سِدَّابٌ نَخَانَةٌ۔ سردخانہ۔ سُرَادِيْقٌ ج
سُوَادِيْقَاتٌ قَنَاتٌ يَابِغِيْمَةٌ كَابِرَةٌ۔ خیمہ کے
چاروں طرف کا پردہ۔ سَرَا۔ پردہ۔

سِرْسَاةٌ مَآخِجٌ كَا وِرْمٌ۔ سُرَطَانٌ كَيْبُكْرٌ
ایک بحری جانور۔ ایک بروج کا نام۔ کار۔ شکل
بھوڑا۔

سِرْعٌ يَسْرِعُ سُرْعَةً اَوْ سُرْعًا
کرنا۔ تیزی کرنا۔ سُرْعَةٌ اَوْ سُرْعًا اَوْ سُرْعًا اَوْ سُرْعًا
سُرْيَعٌ بِلَدِي كَرِيْمٌ وَاَلَا عِلْمٌ عَرُوضٌ كَا اَبَك
سُرِفٌ يَسْرِفُ سُرْفًا۔ تجاوز کرنا۔ تجاوز کرنا
اَسْرَفٌ يَسْرِفُ اِسْرَافًا۔ فضول خرچی کرنا۔
سُرْفَةٌ خَشَكٌ كَمَا سِي۔ مَسْرِفٌ فَضُولٌ خَرَجِيٌّ كَرِيْمٌ
اِسْرَافِيْلٌ فَرَسْتَةٌ قِيَامَتٌ كُوْمُورٌ كَبِيْرٌ كَمَا

سَرَقِي يَسْرِقُ سَرِقَةً - چرانا۔ چوری کرنا۔
 سَارِقِيٌّ - چور۔ سَمْرُؤَةُ - چوری کیا ہوا۔ (مال)
 سَارِقَةٌ - چورنی۔ سِرْقَانٌ - گوبر۔ سرگین۔ سَمْرَمَةٌ
 دائمی۔ سَمْرَمِدِيٌّ - ابدی۔ جسکی نہ ابتدا ہونہ انتہا۔
 سَمْرَمَقِيٌّ - بانگھوکا پودہ۔ سَمْرُؤُ - سرو کا درخت
 سَمْرُوَالٌ - پاجامہ پہننا۔ سَمْرُوَالٌ - سَمْرُوَالِيٌّ
 پاجامہ۔

أَسْطَوَانَةٌ - آسٹووانہ۔ آسٹووانہ۔ ستون۔ بھم۔ سِلْدَةٌ
 سَطْوَةٌ - طاقت۔ سختی۔ عمدہ۔ ڈاکہ۔
 سَعْتَرٌ - سَعْتَرٌ - ایک قسم کا پودہ
 سَعْدٌ - سَعْدٌ - سَعَادَةٌ - بابرکت ہونا۔
 مبارک ہونا۔ خوش نصیب ہونا۔ خوش حال ہونا۔
 سَعِيدٌ - سَعْدٌ - خوش نصیب۔ نیک۔
 مَسْعُودٌ - خوش حال۔ خوش نصیب۔ مَسْعُودِيٌّ
 زہرہ و مشتری ستارے۔ لَبَيْتِكَ وَ سَعْدَيْكَ
 میں تیری خدمت میں حاضر ہوں + حاضر۔
 سَعَادَةٌ - سَعَادَةٌ - حضور عالی۔ بوڑا۔ یکیلینسی۔
 سَاعِدٌ - سَاعِدٌ - کلائی۔ سَعْدَانٌ - سَعْدَانٌ
 ایک فارو وار پودہ۔ جوانہ۔ جو مصفی خون دوائی ہے
 اور اونٹ کی مرغوب خوراک ہے۔

سَعْرٌ - سَعْرٌ - سَعْرًا - جلانا۔ بھڑکانا۔
 سَعِيرٌ - آگ کی لپٹ۔ شعلہ دار تیز آگ۔
 سَعَطٌ - سَعَطٌ - سَعَطًا - ناک میں دوائی ڈالنا
 کرنا۔ سَعُوٌّ - سوار۔ ناک میں ڈالنے کی دوا۔
 مِسْعَطٌ - ناک کی پھکاری۔
 سَعْفَةٌ - بچے کے منہ یا سر پر کی پھنسیاں۔
 ایگزیمیا۔ سر کا گنچ یا زخم۔
 سَعَلٌ - سَعَلٌ - سَعَالًا - سَعَالٌ
 ترکھانسی۔

سَعِيٌّ - سَعِيٌّ - سَعِيًّا - دوڑنا۔ کوشش کرنا
 جلدی کرنا۔ سَعَاعِيٌّ - کوششیں۔ جہت کے کام
 سَاعِيٌّ - کوشش کرنے والا۔ سَعَائِيَةٌ - پھل کھانا
 بہ دوائی۔

سَمْرِيٌّ - سَمْرِيٌّ - سَمْرِيٌّ - رات کو سفر کرنا۔
 سَمْرِيَّةٌ - سَمْرِيَّةٌ - سَمْرِيَّةٌ - سَمْرِيَّةٌ - وہ
 اسلامی لشکر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود
 ساتھ تشریف لے گئے ہوں۔ سَمْرُوَةٌ - جس
 لشکر میں حضور علیہ السلام خود شامل ہوئے ہوں۔
 سَمْرِيَّةٌ - چوترا۔ آل سَمْرِيَّةٌ - شام کی
 زبان۔ سَمْرِيَّةٌ -

سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعًا - پھیلانا۔ بچھانا۔
 مَسَطَعَ - مَسَطَعَ - مَسَطَعًا - پھیلانا۔
 سَطَرَ - سَطَرَ - سَطْرًا - لکھنا۔ لکیریں کھینچنا
 خط کھینچنا۔ سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ
 نشانہ۔ سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ
 لکیریں۔ مَسَطَرَ - مَسَطَرَ - مَسَطَرَ - مَسَطَرَ
 سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ - سَطْرٌ
 سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ
 ہونا۔ سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ
 سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ

سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ
 سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ
 سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ - سَطَعَ

سَفَّاحٌ بہت سخت نوزیری کرنے والا۔
 سَفَرٌ یَسْفِرُ سَفْوَدًا۔ سفر کرنا۔ مَسَارٌ
 سفر کرنے والا۔ سَفِیرٌ ایچی۔ قاصد۔ سَفْرَجٌ
 آشفاف۔ سفر سَفْرَجٌ و سَفْرَجٌ۔ سفارۃ
 ایچی گری۔ دو قوموں کے درمیان صلح کرانا۔

سَفْرَجٌ۔ ہی کا پھل۔

سَفْسَطَةٌ۔ وہ محنت جسکی بنا مغالطہ پر
 ہو۔ باطل استدلال اور قیاس۔ سَوْفِطَاطٌ
 محسوسات اور مہوہودات کا منکر۔ وہی اور مشکوک
 دلائل کا پیرو۔ سَفَاكٌ خون بہانے والا۔ ظالم

بے رحم۔

سَفْلٌ یَسْفُلُ سَفَالًا۔ وَتَسْفُلُ ادنیٰ
 اور حقیر ہونا۔ نیچا ہونا۔ سَفْلَةٌ کینہ۔ ادنیٰ
 سَفَالَةٌ۔ کینگی۔ آسْفُلُ السَّافِلِیْنِ۔ تمام
 نچلوں سے بہت نیچے۔ ادنیٰ ترین مقام۔

سَافِلٌ ج آسَافِلٌ نچلے طبقے کے لوگ۔

آسْفُلٌ۔ اعلیٰ کے مقابلہ میں۔ سَفْلٌ۔ پھوگ

تلیمت۔ سَفْلٌ۔ زینتی۔ نچلا۔

سَفِینَةٌ ج سَفْنٌ وَ سَفَائِنٌ کشتی۔ جہاز

سَفِیۃٌ یَسْفِیۃٌ سَفَاهَةٌ بے عقل ہونا۔ بیوقوف

ہونا۔ سَفِیۃٌ ج سَفْهَاءٌ بے وقوف۔ بے عقل

سَفْرٌ یَسْفِرُ سَفْرًا۔ جلانا۔ پیش پہنچانا۔

سَفْرٌ۔ دوزخ۔

سَقَطٌ یَسْقُطُ سَقُوطًا۔ نیچے گرنا۔ نیچے کا

پیدا ہونا۔ سَاقِطٌ گرنے والا۔ مَسْقُطٌ گرنے کی

اِسْقَاطٌ گرانا۔ مَسْقِطٌ گرانے والا۔

سَقَفٌ یَسْقِفُ سَقْفًا چھت ڈالنا۔

سَقْفٌ ج سَقْفٌ۔ چھت۔ آسمان۔

مَسْقِفٌ چھتا ہوا۔ سَقِیْقَةٌ۔ ڈیوڑھی۔

چھتی ہوئی ڈیوڑھی۔ اِسْقِفٌ ج آسَاقِفَةٌ

پادری۔

سَقَمٌ یَسْقُمُ سَقَمًا۔ بیمار ہونا۔ سَقَمٌ

ج آسَقَامٌ بیماری سَقِیْمٌ بیمار۔ کمزور۔

سَقْمُو نَبِیًّا۔ ایک دوا جو مسہل ہے اور صفرا

کو بذریعہ اسہال نکالتی ہے

سَقْفٌ یَسْقِی سَقْفِیًّا۔ پلانا۔ آب پاشی کرنا

پانی دینا۔ سَاقِی پانی یا شراب پلانے والا۔

اِسْتِسْقَاءٌ پانی مانگنا۔ ایک نماز کا نام ہے جس

میں بارش مانگنے کی دعا کی جاتی ہے۔ نیز ایک بیماری

کا نام بھی ہے جس میں مریض بار بار پانی مانگتا ہے

اور اسکی پیاس نہیں بجھتی۔ مَسْتَسْقِی

جلندھری بیماری والا۔ سَقَاءٌ پانی بھرنے والا

سَقَائَةٌ پانی پینے کا پیالہ۔ سَقْلٌ ج اِسْقَالٌ

سُرک۔ ڈھالا ہوا سُرک۔

سَكَبٌ یَسْكَبُ سَكَبًا۔ پانی بہنا۔ سَكَبٌ

سَكَّتٌ یَسْكُتُ سَكُوتًا۔ خاموش ہونا۔ سَا

خاموش۔ سَكْتَةٌ وقفہ۔ سکتہ کی مرض جس میں حرکت

اور کلام روک جاتی ہے سَكِیْتُ چُپ کر دینے والا

سَكْرٌ یَسْكُرُ وَ سَكْرًا۔ دریا یا ندی کا بند لگانا

سَكْرٌ بَلک سندھ کا نام اصل میں سَكْرٌ تھا جو

مسلمان فاتحین نے رکھا اور جہاں پر پہلے اور بند
باندھا گیا تھا جیسا کہ عربی تواریخ میں مذکور ہے
سَكَوْ يَسْكُرُ سَكْرًا وَ سَكْرَانًا مدہوش
ہونا۔ سَكْرٌ شکر بن جانا۔ سَكْرٌ شراب۔ نشہ
سَكْرٌ بے ہوشی۔ سَكْرٌ غشی بے ہوشی۔ موت
کی غشی۔ سَكْرٌ شکر۔ کھانڈ۔ سَكْرٌ بے ہوشی
سَبَّكَرَانٌ جو ان خراسانی۔ سَكْرَجَةٌ۔ رکابی۔
طشتری۔

سَكَنَ سَكْنًا سَكُونًا سَكُونًا سَكُونًا
جزم والا ہونا (حرف) ساکن بھرنے والا۔
مَسْكُونَةٌ آباد۔ تَسْكِينٌ آرام پانا۔
تَسْكِينَةٌ طمانیت۔ تَسْلَى وقار۔ سَكُونَةٌ ٹھہر
جانا۔ مَسْكِينٌ مَسَاكِينٌ مکان۔ رہنکی جگہ۔
مَسْكِنَةٌ غربت۔ ذلت۔ مَسْكِينٌ مَسَاكِينٌ
غریب۔ کمزور۔

سَلَّ يَسْلُ سَلًّا نلوار کھینچنا۔ سَلٌّ سَلٌّ وودق
کی مرض میں مبتلا ہونا۔ مَسْلُوكٌ سَلٌّ کی مرض والا
سَلًّا لَهٌ۔ ملاحظہ۔

سَلَبٌ يَسْلُبُ سَلْبًا زبردستی چھین لینا۔
لوٹنا۔ مَسْلُوبٌ چھینا ہوا۔ اَسْلُوبٌ ج آسائیب
راستہ۔ طریقہ۔ کام کرنے کا ڈھنگ۔ طرز۔ سَلْمٌ
بہتیار پہنانا۔ سَلَامٌ ج آسائیب بہتیار
مَسْلَمٌ بہتیار بند۔ سَلْحَفَةٌ سنگ پشت کچھو
سَلْحٌ يَسْلَحُ سَلْحًا کھال اتار ڈالنا۔ مَسْلَمٌ
کھال اتارنے کی جگہ۔ بوچڑ خانہ۔ مذبح۔ سَلْحٌ مینہ
کا اختتام یا آخر

سَلَسٌ پیشاب ٹپکنا۔ بول نہ روک سکنے کی مرض۔ سَلِسٌ
رواں۔ صاف۔ سَلَسِيْلٌ۔ بہشت کے ایک چشمہ کا نام
سَلَسِيْلٌ ج سَلَسِيْلٌ۔ لوہے کی زنجیر سلسلہ
مَسْلَسٌ۔ سلسلہ وار۔ لگاتار۔ مَسْلَسٌ لگاتار
سَلَطٌ يَسْلُطُ سُلْطَانٌ۔ تیز ہونا۔ سَلَطٌ
علی دوسرے پر حاکم بنا دینا۔ غلبہ دینا۔ مَسْلَطٌ
غلبہ و اختیار والا۔ تَسْلَطٌ۔ غلبہ و حکومت۔
سُلْطَانٌ اقتدار۔ سُلْطَانَةٌ حکومت۔ سلطنت
سُلْطَانٌ ج سَلَاطِيْنٌ۔ حاکم۔ سلطان۔ بادشاہ
سُلْطَانِيٌّ۔ شاہی۔ حکومت۔ سَلِيْعَةٌ۔ رسولی
غدود۔ زخم جو جلد کو بھاڑ دے۔

سَلَفٌ يَسْلُفُ سَلْفًا۔ گزر جانا پہلے ہونا۔
مَسَالِفٌ۔ گزرا ہوا۔ پہلے سے ہوا ہوا۔ سَلْفٌ ج
اَسْلَافٌ پہلے لوگ۔ گزرنے والے۔ سَوَالِفُ الْاَيَّامِ
گذشتہ ایام۔ سَلْفٌ پیشگی۔ قرض حسنہ۔
سَلَقٌ چقندر۔ سَلَاقٌ۔ پلوں کی سرخی دار
پھنسیاں۔ پیوٹوں کی مرض۔ سَلِيْقَةٌ۔ شائستگی
فطرت۔ طبیعت۔ اِسْتَلَقِيٌّ۔ چت بیٹنا۔

سَلَكٌ يَسْلُكُ سَلَكًا۔ راستہ پر چلنا سفر
کرنا۔ سَالِكٌ راہ رُو۔ مَسْلَكٌ راستہ۔ طریق
سَلَكٌ لُطِيٌّ۔ عِلْمُ السُّلُوِكِ۔ علم تصوف۔
سَلِمٌ يَسْلَمُ سَلَامًا وَ سَلَامًا۔ نجات
پانا۔ بری ہونا۔ اَسْلَمٌ۔ تابع دار ہونا۔ اسلام لانا
اِسْلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ۔ تَسْلِيْمٌ قبول کرنا
مَسْلَمٌ قبول کیا ہوا۔ مَسْلَمٌ مسلمان۔ مَسْلَمَةٌ
مسلمان عورت

سَلِمَةٌ - نازک عورت - سَلِيمٌ - توانا - تندرست
 آسَلَمُ زیادہ محفوظ - سَلْمٌ صُلح - بَيْعٌ سَلْمٌ
 پیشگی قیمت پر خرید و فروخت - سَلَامٌ وَ سَلَامَةٌ
 صلح - امن - حفاظت - اَسْبَلَمُ خنصر اور نصرت
 درمیانی رگ -

سَلِيمَانَ حضرت سلیمان علیہ السلام - سَلِيمَانِيٌّ
 افغان - پٹھان - سَالِمٌ صحیح و سلامت -
 اِسْتَلَامٌ - چھونا - پھوننا - سَلْمٌ سِطْرِيٌّ
 دَارُ السَّلَامِ - بہشت -

سَلَى تَسْلِيَةً تَسْلِيٌّ وِينَا - مُتَسَلِيٌّ اَطِينَانِ
 یافتہ تَسْلِيٌّ پایا ہوا -

سَمٌّ سَمٌّ سَمًّا - زہر دینا - سَمٌّ سَمُوْمٌ
 زہر - مَسْمُوْمٌ زہر دیا ہوا - سَمِيْبَةٌ زہر کا اثر
 سَمِيَاتٌ زہریلی ادویہ - سَمُوْمٌ گرم ہوا -
 تَسَمُّ زہر کا اثر ظاہر ہونا - سَاهٌ اَبْرَصٌ
 چھپکلی - چلیپاسہ - مَسَاهٌ جِسْمٌ کَا سَوَارِخٌ تَهْمَتٌ
 راستہ - طریقہ - سَمَتُ الرِّاسِ سر کے اوپر
 کی طرف - اَسْمَانٌ کَا وَہ نَقْطَةٌ جَوَانِسَانِ کَا سَمْرُکِ
 مقابل ہوتا ہے - تَسَامَحٌ فِرْوَاغٌ کَا سَمْتٌ کسی
 بنگہ کی غلطی - وَرْکَاذُ رُکْنَا - نَرْمِیُّ رُکْنَا سَمِکٌ دَوْبَرٌ
 کو معاف کرنا - سَمَاخٌ کَانَ کَا سَوَارِخٌ -

سَامِدَةٌ یَهُودِ کَا ایک قبیلہ - سَامِرِيٌّ سَامِرُہ
 قبیلہ کا آدمی - سَمُوْزٌ ایک بانور جس کی کھال
 نہایت قیمتی ہے - مَسْمَاذٌ مُرُوہ - پامال شدہ
 سَمْسَلٌ دَلَالٌ - سَمْسَمٌ تِلٌّ - گنبد -

سِمَطٌ لُطِيٌّ - مَالَا - سِلَکٌ - مُسَمَطٌ شَعْرِکِ

ایک قسم
 سَمِعَ یَسْمَعُ سَمَاعًا وَ سَمَاعَةٌ - سَمْنَا
 کان لگانا - سَمِنَ لَسْنَا - سَمِیعٌ سِنَةٌ وَ اَلَا - اَلشَّیْکِ
 کا صفاتی نام - سَمْعَةٌ - دَکھاوا - رِیَاہٌ کَا رَمِیٌّ -

سَامِعٌ سِنَةٌ وَ اَلَا - سَامِعَةٌ سِنْفٌ کِي قُوْتٌ - کَانَ -
 سَمْعًا وَ طَاعَةً - بَسْرٌ وَ حِشْمٌ مِیْنِ سِنْتَا ہوں - اَوْر
 ماننا ہوں - سَمَاعِيٌّ جس لفظ کی بنیاد زبان کے
 استعمال اور سننے پر موقوف ہو - اَوْر صِرْفِیٌّ خَوِی
 قانون کے ماتحت نہ ہو -

سَمَقِيٌّ - ایک قسم کا درخت جس کا پھل سخت
 کڑوا ہوتا ہے گوند کی مانند ایک دوا - سَمَقٌ کَا پِیْلُ
 سَمَاکٌ بَسْمَاکٌ سَمَاکٌ بَلَنْدٌ کُرْنَا - سَمَاکٌ
 جِ سَمَاکٌ مَحْضٌ - سَمَاکَةٌ ایک مَحْضٌ - سَمَاکٌ مَحْضٌ
 نیچے والا -

سَمِنٌ اَبْسَمِنٌ سَمِنًا مَوْٹا ہونا - پَر کُوشتِ ہونا
 تَمِنٌ تَشْمِیْنًا مَوْٹا کُرْنَا - گھی سے تیار کرنا -
 مُسَمِنٌ مَوْٹا کُرْنَا وَ اَلَا - سَمِنٌ گھی - سَمِیْنٌ مَوْٹا
 سَمَجُوْنِيٌّ - آسمان گول - آسمان کَا سَمَجٌ
 یہ لفظ معرب ہے - سَمِنٌ کَا سَمِنٌ اَبْسَمِنٌ
 آنشکہ میں ہوتا ہے -

سَمَا یَسْمُو سَمُوًّا - بَلَنْد ہونا - اَو سَجَا ہونا -
 سَمِيٌّ تَشْمِیْتَةٌ - نام رکھنا - نام سے بلانا - اِسْمٌ
 جِ اِسْمٌ نَامٌ - تَسْمِیٌّ نَامٌ پَانَا - مَسْمِیٌّ نَامٌ
 رکھا ہوا - سَاعِيٌّ بَلَنْدٌ - سَمُوٌّ بَلَنْدِیٌّ -

سَمَاءٌ ج سَمَوَاتٌ - آسمان - سَمَاوِیُّ اَسْمَانِی
 سَبَقٌ وَاَسْبَقَ سُنَّةً - قانون یا رسم رائج کرنا -
 قانون بنانا - اَسْبَقَ بُوڑھا ہونا - سُنَّةٌ ج سُنَنٌ
 طریقہ - مَسْنُونٌ مَسْنُونَةٌ ہونست یعنی
 طریقہ نبوی سے ثابت ہو - اَهْلُ السُّنَّةِ اَخْمَرَتْ
 صلعم کے طریقہ اور سنت پر عمل کرنے والے - نَسَنٌ
 سنت نبوی پر عمل پیرا ہونا - سُنَّتُهُ ج سُنَّتِی
 مسنون نماز فرض کے علاوہ جس پر حضور علیہ السلام کا
 عمل رہا - مَسْنُوعٌ بُوڑھا - سَبَقٌ ج اَسْبَاقٌ وَاَسْبَاقٌ
 سُنُونٌ نَجْمٌ - ٹوٹھ پوڑھ - بَدَنَانٌ نَبْرَہ کا پھل -
 سَعْدٌ ج سَعَوَاتٌ - سال برس - سَنَوِیُّ
 منسوب بہ سن - سُنِّیُّ - سُنِّیُّ مَسْلَمَانٌ - سُنْبُلٌ
 ج سَنَابِلٌ - سُنْدٌ - یال خوشہ - سَا نَحْتَرُجُ
 سَوَانِجٌ وَاَقْعٌ - سِنَجَافٌ گھری -

سَعَدٌ بِسَعْدٍ سَعْدٌ وَاِسْتَعَدَّ اِلَى
 کسی پر بھروسہ کرنا - کسی کا سہارا لینا - اِعْتَادٌ کرنا -
 سَعْدٌ ج اَسْنَادٌ - تخریری سند - سَهَابٌ جَاہِنَاہ
 مُسْتَعْتَدٌ - قابل اعتبار - مَعْتَمَدٌ علیہ - سِنْدٌ وِرْبَانٌ
 سندھ ملک سندھ - سِنْدِیُّ سِنْدِہ کا باشندہ
 اَسْنَادٌ ج اَسَانِیْدٌ - علم مناظرہ میں حوالہ دینا -
 نَجْرٌ کَا مَبْتَدَاٌ رَی تَعْلُقٌ - سُنْدَانٌ ج سُنَادِیْنٌ
 آہرن جس پر لوہا لوبا کوٹتے ہیں -

مُسْنَدٌ ج مَسَانِدٌ - حدیث جس کی سند آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے - مَسْنَدٌ اَلْبَدِیُّ
 فاعل یا مبتدأ سِنْدٌ دُوَسٌ - ایک قسم کا گوند -

سُنْدُسٌ بَارِیْکٌ رَشْمِیٌّ کِیْرَا - سِنْدُوْرُجٌ سِنْدَاوِیْرُ
 بلاگرہ - سِنْمَاْمٌ کُوْلَانٌ - مَسْنَمٌ کُوْلَانٌ کِی شِکْلِ
 مَحْدَبٌ - قبر کی شکل اونٹ کی کولان کی طرح بنائی
 جاتی ہے -

سِنْمَاْرٌ - ایک مشہور معمار کا نام ہے -

سِنِیٌّ یَسْنِیُّ سِنَاً - عالی شان ہونا - بلند
 ہونا - سِنَاً بَلَدِیٌّ - اُبْحَارٌ - شان - اَعْلَى رُتَبٌ
 سِنِیٌّ - شَانِدَارٌ - شَرِیْفٌ - اِنْعَامٌ -

سَهْدٌ یَسْهَدُ سَهْدًا - بیدار رہنا - جاگتے
 رہنا - سَهْدٌ وَاَسْهَادٌ بے خوابی کی حالت -
 سَهْرٌ یَسْهَرُ سَهْرًا - رات کو جاگتے رہنا -
 بے خوابی کی مرض -

سَهْلٌ یَسْهَلُ سَهْلًا - سہل و آسان ہونا
 ہموار ہونا -

اِسْهَالٌ - جلاب - مَسْهَلٌ اِنْتَرِیْبِیُّ کُو خَالِیٌّ کرنا -
 مَسْهَلٌ جَلَابٌ اَوْرِدُوْا - سَهْلٌ - آسان - نرم
 ریت والا میدان - سَهْبَلٌ ایک خوبصورت
 ستارہ ہے جس کی خاصیت سے زمین کے ملک میں
 عمدہ چھڑا تیار ہوتا ہے یہ گرمی کے آخر میں طلوع
 ہوتا ہے -

سَهْمٌ یَسْهَمُ سَهْمًا - قرعہ اندازی میں
 غالب آنا - نَسَاھَمٌ قرعہ اندازی کرنا - اِیْسٌ میں
 حصے کرنا - سَهْمٌ ج سَهَامٌ - تیر جوئے کا تیر -
 نَصِیْبٌ حصہ - قِرْعٌ لاْطِیٌّ کَا تِکْتُ -

سَهَا یَسْهُو سَهْوًا فِی وِعْنٍ غَفْلَتٌ کرنا -
 بھول جانا -

انتظام کرنا گھوڑا سدھانا۔ سائیس۔ سائیس
گھوڑا سدھانے والا۔ سبباً سئہ۔ پائیکس۔
اختیار۔ ٹکی تذا بیر حکومت کے نام۔

سوسن۔ گل سوسن۔ سوطج آسواط
کوڑا۔ چابک۔ ساعج ساعاف۔ گھنٹہ
گھری۔ قیامت۔ سواع۔ ایک بت کا نام۔
سوف۔ حرف ہے جو مضارع کو زمانہ استغناء
کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جیسے سوف تری
تو دیکھ لے گا۔ حرف نسل سے اس کا زمانہ لمبا
ہوتا ہے۔

ساقی یسوقی یسواقہ لانکتا۔ جہلان

ساقیق نیچے سے جانور کو پلانے والا۔

سوقج آسواقی۔ بازار منڈی۔ پٹری

میلا۔ سواقیقہ بازاری ہیں۔ سواقی بازاری

آدی۔ سواقیق۔ سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقک رج سواقیق۔ سوال۔ دان

ساق یساق سواقی۔ سوال پوچھنا۔ مانگا

سواقیق۔ جھوٹا جادو۔ غیر حقیقی جادو۔

سواقی و ساقی۔ سواقی۔ سواقی۔

برابر کرنا۔ مساوی کرنا۔ سواقی۔

کرنا۔ اشتوائی۔ سواقی۔ سواقی۔

کمل ہونا۔ سواقی برابر برابر ساتھ ساتھ تسویبت

ہمواری۔ یکساںگی۔ سواقی۔ سواقی۔

برابر۔ مستوی۔ سواقی۔ سواقی۔

ارض کا درمیانی خط

ساقہ۔ غافل۔ بھول جانے والا۔

ساق یساق۔ سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

ساقیقہ ساقیقہ۔ ساقیقہ۔ ساقیقہ۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

سواقی سواقی۔ سواقی۔ سواقی۔

بَابُ الشَّيْنِ

شَاءَ تَرِيشًا مَرَّ شَاءَمًا مِنْ مَوْسِ هُونًا شَوْ مَرُّ
بد حالی۔ بد نصیبی۔ مصیبت۔

شَيْبَةٌ مَرٌّ شَيْبَةٌ خَلْقٌ عَادَاتٌ نَحْلَتُ
شَانِ كِشَانٌ شَانًا قَدْرٌ وَمَنْزِلَتٌ وَالْأَهْوَنُ
شَانٌ شَيْبَانٌ حَالَتٌ كَيْفِيَّةٌ أَمْرٌ وَعَوَاتٌ
عَظِيمٌ الشَّانُ بُرٌّ رَجَبٌ وَالْأَمْشَانُ نَك
تہارا کہا حال ہے؟ جَلَّ شَانُهُ اس کا رتبہ بلند
ہے۔ اسکی شان بڑی ہے۔ شَاهِبَانٌ سفید باز
شامی۔ چائے۔

شَبْتٌ كَيْفِيَّةٌ شَبَابٌ جَوَانٌ هُونٌ
شَبْتُ جِ شَبَانٌ جَوَانٌ شَبْتُ بَشْكُرِي
شَبَابِي وَ شَبْرُ مِيشَةٌ جَوَانِي كَأَفَاذِ
تَشْبِيهُ شَبْتُ مَعْزَلٌ مِيشُ قَاسِقُ الشَّبَابِ شَبْتُ
سَوْتِ كَسَاكٌ شَبْعَةٌ مِيشُ شَبَابٌ وَجَمِ
شُكْلِ خِيَالِي صَوْرَتٌ شَبْرُجِ شَبَابِي بَاشْتِ
عَمْرٍ شَبْرُ حَفْرَتِ أَمَامِ حَسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُ

شَبْرُ حَفْرَتِ أَمَامِ حَسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُ
شَبْعَةٌ شَبْعَةٌ شَبَقًا بِيْرُ هُونًا بِيْشُ بَهْرُ
كِهَانَا كِهَانًا أَهْبَاءُ بِيْشُ بَهْرُ كِهَانَا كِهَانًا
حَرَكَتِ لِمَا كَرْنَا يِهَانُ تَكُ كِه حَرْفُ فِلَتِ كِي آوَانِ
نَجْلُ جِيْشُ كِي آوَانِ تُو وَ آوَانِ كِي آوَانِ
نَجْلُ

شَبْلُجِ أَشْبَالُ شِيْرُ كَا بَجِيْ

سَمَاعُ كَيْسِيْتِ سِيْبَا حَتَّ سَفَرُ كَرْنَا لِيَوْمِ
كَرْنَا دُوْرُ دِرَاذِ كَا سَفَرُ كَرْنَا مَسِيْبَةٌ سِيْبَا حَت
كَرْنِي وَ آوَانِ حَفْرَتِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْقَبْرِ كَيُوْنُ
أَرْبَعِيْنَ كُوْرًا وَ آوَانِ سِيْبَا كِي بَعْدِ نَبِيِّ إِسْرَائِيْلَ كِي دُوْسِ
فِي بِلُوْدِ كُوْرِيْلُوْنِ وَ فِيْنِ كَرْنِي كِي سَمَاعٌ سَمَاعٌ
أَفْقَانِ نَسَانِ أُوْرُوْجِ كَشْمِيْرِ تَكْ كَا سَفَرِ مِيْشِيْنَ آوِيَا
أَنْ وَ أُوْرُوْجِ كَشْمِيْرِ كُوْرِيْلُوْنِ نَحْلَتِ نَحْلَتِ جِلَا وَ طَرِيْقِ كُوْرِيَا
تَقَى مَسَا حَتَّ سَفَرُ كَرْنِي كِي جِغَا سَمَاعٌ بَرَّاسَفَرِ
كَرْنِي وَ آوَانِ حَفْرَتِ الْمَسَامِ حَتَّ بِيْشُ زَمِيْنِ

سَمَاعٌ كَيْسِيْتِ سِيْبَا حَتَّ اَجَانًا سَفَرُ كَرْنَا جِلَا
بِيْرُنَا سَمَاعٌ سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ
طَرِيْقِ نَدِيْ سَمَاعٌ سَمَاعٌ سَمَاعٌ سَمَاعٌ سَمَاعٌ
وَ آوَانِ سَمَاعٌ بِهَتْ سَفَرُ كَرْنِي وَ آوَانِ سَمَاعٌ كَرْنَا
سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
بِيْرُنِي وَ آوَانِ سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
فَا صَلَدِ سَفَرِ سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا

تَشْبِيْهَاتِ جِلَا وَ شَمْمِيْرُ مَشْمِيْرُ
سَمَاعٌ كَيْسِيْتِ سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا

سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
بِيْرُنِي وَ آوَانِ سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا
سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا سَمَاعٌ كَرْنَا

شَبَّهَ بِشَيْءٍ تَشْبِيهًا بِ مِثَالِهِ كَرْنَا۔
ایک جیسا کرنا۔ تَشْبِيهٌ بِ۔ قنا۔ جتنا ہو وہ مشابہت۔
ظاہر کرنا۔ شَبَّهَهُ۔ مانند و شکل۔ مشابہ شخص یا
چیز۔ شَبَّهَتْ رَجُلًا شَبَّهَاتٌ۔ شک۔ شبہ۔ کوئی
چیز جو صاف نہ ہو۔ جو شبہ پیدا کرے۔

تَشَابُهٌ ایک دوسرے کی مانند ہونا۔
مُشْتَبِهٌ مشکوک۔ پیچیدہ۔ مُتَشَابِهٌ ایک
دوسرے کی مانند ملنا جلتا۔ تَشْبِيهٌ۔ استعارہ
تشبیہ۔ مُشَابَهَةٌ۔ ایک جیسا ہونا۔ مُشَبَّهٌ
تشبیہ دیا ہوا۔ مُشَبَّهٌ بہ جس کے ساتھ تشبیہ
دی جائے۔ اِشْتِبَاكٌ شک واقع ہونا۔ شَبَّهْتُ
شَتَانٌ اسم فعل یعنی دور ہوا۔ تَشْتَانٌ بَيْنَهُمَا

ان دونوں کے درمیان کس قدر بعد ہے
شَتَّجَ اَشْتَاتٌ علیحدہ شدہ۔ جدا جدا بکھرا
ہوا۔ تَشَشَّتْ۔ پراگندگی۔ متفرق ہونا۔ اَشْيَاءٌ
شَتَّى۔ مختلف چیزیں۔

شَتَّمْ يَشْتِمُ شَتْمًا۔ گالی دینا۔ بُرَا بَهْلَا کہنا
شَاتِعٌ۔ گالیاں دینے والا۔ شَجَرَجٌ اَهْبَلًا
ورخت۔ مُشَا جَرَجٌ کسی سے بھگڑ کرنا۔ مُشَجَّرٌ

ایسا کپڑا جس پر ورخت کی تصویر ہو۔ شَجَرَةٌ شَجَرٌ
شَجَعٌ يَشْجَعُ شَجَاعَةً۔ دلیر ہونا۔ بڑی
جرات والا ہونا۔ بہادر ہونا۔ شَجَاعٌ شَجَاعَاتٌ
دلیر۔ بہادر۔ حوصلہ مند۔ شَجِنٌ شَجِينٌ غم
اندوہ۔ افسوس۔ شَعْرٌ۔ رَسٌ۔ بَخْلٌ۔ بَخْسٌ۔

شَعَدَ يَشْعُدُ شَعْدًا۔ چھری تیز کرنا۔

تَشْحِيذٌ کسی چیز کو تیز کرنا۔
شَحْمٌ يَشْحَمُ شَحَامَةً۔ موٹا چربی دار
شَحْمٌ شَحْوَمٌ چربی۔ شَحِيمٌ چربی والا
موٹا۔ تَشْحَمُ چربی پیدا ہو جانا۔ مُشْحَمٌ

جس پر چربی چڑھی ہو۔
شَخَوَةٌ۔ بُغْضٌ۔ كَيْدٌ۔ شَخْنَةٌ۔ کونوال۔
شَخَصٌ يَشْخَصُ شَخْوَصًا۔ بلند ہونا
شَخَصٌ اَشْخَاصٌ۔ وجود جو دور سے
دکھائی دے۔ شَخِصِيٌّ ذَاتِيٌّ۔ تَشْخِيصٌ
بیماری کی علامت یا پیمانہ۔ مُشْخَصٌ معلوم کیا
ہوا۔ پیمانہ یا علامت۔ شَخِصِيَّةٌ ذات۔ شَخِصِيٌّ

شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔

شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔

شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔

شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔
شَدَّ يَشْدُو شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔

شَرِبَ يَشْرَبُ شَرْبًا. پینا۔ میراب ہونا
شَرَابٌ پینے کی چیز۔ شراب۔ شَارِبٌ پینے والا
مَشْرُوبٌ مَشْرُوبَاتٌ پینے کی چیز۔
مَشْرَبٌ گھاٹ۔ میلان۔ شَرِبْتُ ایک بار پینا

گھونٹ۔ پینا پانی۔

شَرَحَ يَشْرَحُ شَرْحًا. واضح کرنا۔ کھولنا
وسیع کرنا۔ اِنْشَرَاخٌ کھل جانا۔ خوش ہونا۔ شَارِحٌ
کھولنے والا۔ واضح کرنے والا۔ بھگانے والا۔ شَرَّاحٌ
مُشَرِّحٌ کھلا ہوا۔ تشریح کیا ہوا۔ تَشْرِيحٌ بیان
تشریحی۔ وہ علم جس میں بدن کے اعضا کی
تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

تَشْرَدُ يَتَشَرَّدُ تَشَرُّدًا. بھاگ جانا۔

تَشَرُّدٌ اِسْتَشْرَفٌ۔ خیر یا اوس الفاظ یا فقرے۔

تَوَاعُدٌ اِسْتَشْرَفِيٌّ الفاظ۔ شبیر اذ دہی جس کا

پانی نکال دیا گیا ہو۔

شَرِيحٌ۔ تَشْرِيحٌ۔ تَشْرِيحًا۔ تَشْرِيحًا۔ تَشْرِيحًا۔ تَشْرِيحًا۔

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ تَشْرِيحٌ

قراردیا ہو۔ تَشْرِيحٌ شریعت کا بیان کرنا۔
تَشْرِيحٌ شریعت والی۔ شُرُوعٌ اِبتداء
شَارِعٌ شَوَارِعٌ شاہراہ۔ شارع عام۔
شَرُوفٌ كِشْرُوفٌ شَرَاةٌ وَ شَرَفًا

بڑے رتبے والا ہونا۔ شریف ہونا۔ شَرِيفٌ

شَرَفَاءٌ عَرَاتٌ وار۔ شریف۔ اعلیٰ خاندان والا

شَرَفٌ بزرگی تَشْرِيفٌ تعظیم کرنا۔ مُشْرِفٌ

بلند کیا ہوا۔ بزرگی دیا ہوا۔ تَشْرِيفٌ بلند کیا جانا

ممتاز کیا جانا۔ اَشْرَفٌ زیادہ شریف۔ زیادہ متعز

شَرْقٌ كِشْرُقٌ شَرْقًا سورج کا چکنا طلوع

کرنا۔ اِشْرَاقٌ چکنا۔ چڑھنا۔ شَرْقٌ سورج کے

چڑھنے کا وقت۔ پورب جمع اَشْرَاقٌ مَشْرِقٌ

وہ بہت جہاں سے سورج چڑھتا ہے۔ مَشْرِقٌ

مَشْرِقٌ۔ مَشْرِقٌ۔ اَبَاقٌ تَشْرِيفٌ عید قربان

کے بعد تین دن۔ تَشْرِيفٌ شَرْقٌ۔

تَشْرِكٌ يَتَشْرِكُ تَشْرِكًا۔ شَرِكٌ شَرِكًا۔ شَرِكَةٌ حَصَّةٌ

پینا۔ کسی چیز میں شامل ہونا۔ کسی کے ساتھ سا بھنا

کرنا۔ شَرِيكَتٌ تَشْرِكًا سا بھنی۔ حصہ دار

شریک۔

اَشْرِكٌ يَشْرِكُ اَشْرَاكًا۔ خدا کے ساتھ

کسی دوسرے انسان یا بت کو شریک ٹھہرانا۔

مُشْرِكٌ مَشْرِكَةٌ۔ شَرِيكٌ بھرانے والا۔

شَرِكَةٌ حصہ دار۔ مَشْرِكَةٌ باہم حصہ دار

اَشْرَاكٌ آپس میں حصہ دار ہونا۔ مَشْرَاكَةٌ

ایک دوسرے کے سا بھنی ہونا۔ شَرَاكٌ جوتے کا

شَرَى يَشْرِي شَرَاءً وَاشْتَرَى يَشْتَرِي
اِشْتَرَاءً خَرِيدًا بَيْعًا. مُشْتَرِي خَرِيدًا اِيك
سِيَارَه كَا بِي نَام هِي. شَرَى چھپاکی۔

شَرِيَانٌ وَ شَرَايِيْنٌ خُونِ وَالِي رِكِبِ جَهَنَّمَ
شَطَطٌ وَرِيَا يَأْسَمِدُهُ كَا كِتَابُهُ۔

شَطْرٌ يَشْطُرُ شَطْرًا وَ شَطْرٌ دُو بَرَابَرِ
مَقْوُوں مِيں بَانْتَا شَطْرًا اَدْحَا نِصْفِ مَرْطِ۔
كَلَاهُ پھلو۔ شَا طْرُجٌ شَطَاذٌ چالاک۔ بوشيار
مكار۔ فَرِيِي۔

شِطْرٌ نَجْمٌ اِيكٌ مَشْهُورٌ رَكِيْبٌ كَا نَام هِي۔

شَطْنٌ يَشْطُنُ شَطْنًا۔ دُو رُ هُوَا۔ مَقَابِلُ كَرْنَا
شَيْطَانَةٌ شَيْطَانِي يَادُ شَمْنِي كَا فَعْل۔ شَرَارَتِ
شَيْطَانٌ وَ شَيْطَانِيْنٌ۔ شَرَارَتِي۔ دُھوكے بَا
شَيْطَانِ

شَعَّ يَشْعُمُ شَعَاعًا بِكَمِيْرٍ دِيْنًا۔ شُعَاعٌ ج
اَشْعَعَةٌ۔ سُوْرَجِ يَارُوشَمِي كِي كَرْنِ۔ اَشْعَمُ سُوْرَجِ
كَا كَرْنُوں كُو پھيلانا۔

شَعَبٌ يَشْعَبُ شَعْبًا اَلْكَا كَرْنَا۔ شَيْبٌ
وَرَه۔ شَعْبٌ جِ شَعْوَبٌ جَمَاعَتِ جَبْتِ قَبِيْدِ۔
شُعْبَةٌ شَاخٌ هُنِي۔ شَعْبَانٌ قَمْرِي سَالِ كَا
اَكْشَوَاں مِيْدِ۔ شُعَيْبٌ حَضْرَتِ شَعِيْبِ نَبِيِّ السَّلَامِ
جُوْنِ اِنْعَالِي كے اِيكِ بَرَكزِيْدِ وَ نَبِي تھے۔

شَعْبَدٌ كَرْتَبِ كَرْنَا۔ شَعْبَهُ وَكَمَا نَا۔ مَشْعَبِدٌ
مَدَارِي۔ كَرْتَبِ وَكَمَا نِي وَ اَلَا۔ اَشْعَثٌ بَكْرِي
هُوسے بالوں والا۔ بَرَا كَنْدَه مَالِ۔

شَعَرَ يَشْعُرُ شَعْوَرًا۔ جَانْتَا مَحْسُوْسٌ كَرْنَا
مَعْلُوْمٌ كَرْنَا۔

شَعَرَ يَشْعُرُ شَعْرًا۔ نَظْمُ كَهْنَا شَعْرٌ كَهْنَا۔
شَعْرُجٌ اَشْعَادُ بَالِ۔ شَاعِرٌ جِ اَشْعَرَاؤُ شَا
نَظْمُ كَهْنَا وَ اَلَا۔ شَعْوَدٌ زَبْرِي كِي۔ عِلْمٌ۔ بَهْمُ شَيْئًا كَرْنَا

جِسْمِ سے لگنے والا کپڑا۔ خاص طریقہ۔ خاص علامت۔
شَعْبِرٌ جُو۔ شِعْرِي اِيكٌ سِنْدَرَه كَا نَام۔

مُسْتَشَاعِرٌ جَعَلِي شَاعِرٌ۔ شَعْرٌ اَللّٰهُ
چيزوں جن کے دیکھنے سے خدا تعالیٰ پارتا ہے۔

شَعْرٌ جِ كے رسوم اور آرائش کی بھینک۔

شَقَلٌ يَشْقَلُ شَقْلًا جَمْرًا۔

اَشْتَقَلُ يَشْتَقِلُ اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ

بَهْرَكٌ اَشْتَقَا۔ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا
جَلِ اَشْتَقَا۔ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا

اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ

مَشْتَقِلٌ كَبِيْرٌ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا
شَقَقْتُ كَيْشَقَرًا اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا

كَا وَ اَشْرَ بِيْرًا اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا

شَعْرٌ يَشْقَلُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا
اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ

اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ
كُو مَسْرُوْفٌ رَكِيْبُهُ وَ اَلَا اَشْتَقَالًا اَشْتَقَلْتُ

مَشْعُوْلٌ مَسْرُوْفٌ كَا مِ مِيں اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ
جِ مَشَاعِلٌ كَا مِ۔ پِيْثِ مَشْعَدِ

شَقَمَ يَشْقَمُ شَقْمًا دُكَا اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ
جَسْتِ بِنَا اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَلْتُ اَشْتَقَالًا

شَفَعْتُمْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً لِفَلَانٍ سفارش کرنا
شفاعت کرنا۔ حمایت کرنا۔ شَفِيعٌ وَشَافِعٌ
سپارش کرنے والا۔ جمع شُفَعَاءُ شَفَعَةٌ
پڑوس کی ملکیت خرید کرنے کا حق۔ مُشَفَعٌ جسکی
سفارش میں مان لی جاسکے۔

شَفَّ يَشْفُ شُفُوًّا پتلا ہونا۔ شَفَّافٌ
پتلا اور صاف اور اس قدر باریک کہ اس سے
دوسری طرف کی چیز نظر آئے۔

شَفِيقٌ يَشْفِقُ شَفَقًا وَآشَفَقَ عَلَى
ترس کرنا۔ رحم کرنا۔ مَعْنٌ شَفَاةٌ مہربانی
اور رحم۔ فکر و اصلاح۔ شَفِيقٌ شام کی سُرخی۔

شَفِيقٌ مُشَفِيقٌ رَحْمٌ کرنے والا۔ مہربانی کرنے والا
شَفَّهَ يَشْفَهُ شَفْهًا ہونٹ پر مارنا۔

شَفَّاهَا شَهْمَةً وَشَفَّاهَا زَبَانِيًّا مِنْهُ دَرَمَنَةٌ رُوِيَ
رُوِيَ رُوِيَ رُوِيَ رُوِيَ ہونٹ پر مارنا۔ آسنے
سائیں گھسنے کو۔

شَفَى يَشْفِي شِفَاءً مِنْ عِلَاجٍ کرنا۔ اچھا
کروینا۔ شفا دینا۔ صحت مند کرنا۔ شَارِفِي
صحت و تندرستی بخشنے والا۔ تَشْفِي صحت حاصل کرنا
مَعْمُوشَفِي شَفَاةً۔ ہسپتال۔ دارالشفاء۔

شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔
شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔

شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔
شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔
شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا۔ چیرنا۔ پھاڑنا۔

شَقَائِقُ النَّعْمَانِ كُلُّ لَالٍ شَقَّةٌ نَصْفٌ بِجَانِبِ
رُقْمٍ۔ شَقٌّ کنارہ۔ ایک حصہ۔ طرف۔ جانب۔
شَقَائِقُ شَمْنِي۔ عداوت۔ جھگڑا۔ پھوٹ۔ شَقَائِقُ
تکلیف دہ۔ اِنْشَقَائِقُ پھٹ جانا۔ شَقِيقَةٌ
آدھا۔ سستی۔ نصف سر کا درد۔

شَقِيٌّ يَشْقِي شَقَاوَةً بِدَقْمَتٍ ہونا۔ مصیبت
میں ہونا۔ بد بخت ہونا۔ تَشْقِيٌّ بد بخت۔ آ شَقِيٌّ
بہت زیادہ بد نصیب۔ بڑا بد بخت۔ جمع آشَقِيَاءُ
شَكٌّ يَشْكُ شَكًّا فِي شَيْءٍ شَكٌّ کرنا۔ شبہ میں
پڑنا۔ شَكٌّ شَكْوَةٌ شَكْوَةٌ شَكْوَةٌ شَكْوَةٌ
مشتبہ۔ شک والا۔ شَكِيَّةٌ شک والی۔

تَشْكِيكٌ شبہ میں ڈالنا۔ شَكٌّ۔ سم افقاء
سکھیا جو سخت زہر ہے۔

شَكَرٌ يَشْكُرُ شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا
شکر یہ ادا کرنا۔ تَشْكُرُ شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا
شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا
ممنون۔ بدلہ دیا ہوا۔ جس کا شکر یہ ادا کیا جائے
مَشْكُورٌ بہت شکر گزار۔ شُكْرَانٌ۔ ایک
زہریلی دوا ہے۔

شَكْلٌ يَشْكُلُ شَكْلًا وَشَكْلًا وَآشَكْلٌ
شکل۔ کسی بات کا شبہ والا ہونا۔ معاملہ کا شکی
ہونا۔ شکل یا تصویر بنانا۔ تَشَكُّلٌ شکل اختیار
کرنا۔ شَكْلٌ آ شَكَالٌ صورت۔ نقشہ۔ تصویر
شکل۔ مُتَشَكِّلٌ شکل یا صورت اختیار کرنے والا
تَشَكُّيلٌ صورت بنانا۔ مُشَكِّلَةٌ شَكْلًا
شکل اور سخت کام۔

مُشَاكَةٌ مُشَابِهَةٌ۔
شَكِي يَشْكُو شَكَايَةً إِلَى كَسِي كَيْ يَسْرِفِيَا
کرنے۔ شکایت کرنا۔ شکوای۔ شکایت۔ الزام
شَاكٍ وَ شَاكِي شَكْوَهُ كَرْنَهُ وَالْا۔ شَكْوَةٌ
شکایت کی وجہ مشکوۃ طاق جس میں چراغ رکھا
جائے۔ شَلَجَمٌ شَلِمٌ شَيْكَمٌ كَنْطِيَالٌ اَز
قسم گندم۔

لَمَّةٌ كَيْشُهُ شَمِيمًا سَوَكْنَا كَشَمَّمُ
آہستہ آہستہ سونگھنا۔

شَلَّ يَشَلُّ شَلًّا لَمَّةٌ پِيرَا مَارَا جَانَا نَا كَارَه
ہوجانا۔ مفلوج ہوجانا۔ شَمَامَاتٌ نُو شَبُوِيں مَفْرُو
شَمَامَةٌ

اِسْتِشْمَامٌ سَوَكْنَا پَانَا شَامَةٌ سَوَكْنَا
قوت یا جس۔ مَشْمُوْمٌ جِسْمٌ سَوَكْنَا جَانَا نُو شَبُو
کتوری۔ گلدستہ۔

شَمَّتْ يَشْمَتُ شَمَامَةٌ دُو سَرَّ كِي
تکلیف پر خوش ہونا۔ تَشْمِيْمَةٌ جَمِيْنَكٌ لِيْنَةٌ وَا
كُو دَعَا دِيْنَا يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيَصِيْرُ بِاَكْكُمْ كَهِنَا۔

شَمَخَ يَشْمَخُ شَمُوْحًا اُو نَجَا هُوْنَا شَاخٌ اُو نَجَا
بلند۔ شَمْسٌ شَمُوْسٌ سُوْرَجٌ اَنْتَابٌ۔

شَمْسِيَّةٌ چمتری شَمْسٌ دَهْوَبٌ مِيں كَرْمٌ كِيَا هُوَا۔
شَمْعٌ شَمُوْعٌ مَوْمٌ بَنِي مَوْمٌ شَمَاعٌ مَوْمٌ
بَنِي كَا سُوْدَا كَر شَمَخْدَانٌ شَمْعَانٌ۔

شَمَلٌ يَشْمَلُ شَمُوْلًا چادر میں پیننا۔

رَشْمَلٌ عَلَي كَهِيْرَانَا اِحَاطَه كَرْنَا لَمْمَلَةٌ چھوٹی
پگڑی۔ (اُردو پگڑی کا دامن)

مُشْتَمِلٌ حَاوِي شَامِلٌ جَامِعٌ شِمَالٌ يَابِسٌ
طرف یا بایاں لائق۔ شَمَالِيٌّ شِمَالٌ كِبْرَفٌ يَابِسٌ كَا
شَمِيْلَةٌ شَمَائِلٌ پیدائشی خصصات طبیعت
اچھی عادت۔ شَمُوْلِيَّةٌ شَامِلٌ هُوْنَا اَنْدَرُ اَجَانَا
مل جانا۔ مَشْمُوْلَةٌ شَامِلٌ كِي هُوْتِي شَمْمَلٌ چمٹنا
اَشْنَانٌ سَمِي كھار۔

شَنْجَرٌ يَشْنَجِرُ شَنْجَا جُهْرِيَا پُرْنَا سَكْرِيَا
سمٹ جانا۔ (کھال کا)

تَشْنِيْمٌ اِيْمْضُنٌ اِعْضَاؤُ كَا سَكْرَا مَشْنِيْمٌ
سکڑا ہوا۔ اِيْمْضَا هُوَا (عضو)

شَنْعٌ يَشْنَعُ شَنْعَةٌ بُرَا هُوْنَا نَفْرَتٌ كِي
قابل ہونا۔ شَنْيِعٌ بُرَا قَابِلٌ نَفْرَتٌ قَسِيْبٌ۔

تَشْنِيْعٌ بُرَا كَهِنَا مَطْعُوْنٌ كَرْنَا قَابِلٌ نَفْرَتٌ نَفْرَتٌ
دینا۔ گالی دینا۔ بے عزت کرنا۔ قَسِيْبٌ كَهِنَا

شَهَبٌ يَشْهَبُ شَهَابٌ شَهَابٌ بَحْرٌ سَبِيْبٌ
رنگ کا ہونا۔ اَشْهَبٌ سِيَا هِي مَا كَلِي سَبِيْبٌ كَهِنَا

بَحْرٌ (گھوڑا) شَهَابٌ رَجٌ شَهَابٌ سَفِيْبٌ
یا کرنے والا ستارہ۔ نہایت روشن ستارہ۔

سِتَارَةٌ سَفِيْبٌ كَلِي رَسْمٌ
عَنْبَرٌ اَشْرَقَتْ سِتَارَةٌ اَشْرَقَتْ سِتَارَةٌ

شَاهِدٌ اَشْرَقَتْ سِتَارَةٌ اَشْرَقَتْ سِتَارَةٌ
جس کا عین نہیں استعمال ہوتا ہے۔

شَهَادَةٌ يَشْهَدُ شَهَادَةٌ اَكْبَرٌ شَاهِدٌ هُوْنَا
کہیں موجود ہونا۔ شَهَادَةٌ اَكْبَرٌ شَاهِدٌ هُوْنَا

مُشَاهَدَةٌ مَشَاهِدَاتٌ مَعَانِيَةٌ كَرْنَا
مشاہدہ کرنا۔

شَهِيدٌ گواہی دینے والا۔ مشاہدہ کرنے والا۔
 شَهِيدٌ رُحٌ شَهِيدٌ گواہ۔ اللہ کی راہ میں قتل
 ہونے والا۔ مَشْهُودٌ روز قیامت۔ حاضر کیا ہوا
 تَشْهَدُ کلمہ تَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پڑھنا۔
 شَهِدٌ غسل۔ شہید کا چھتہ۔ مَشْهَدٌ جمع ہونے
 کی جگہ۔ شہید ہونے کا مقام۔ اِسْتِشْهَادٌ گواہی طلب
 کرنا۔ اِسْتِشْهَادٌ شہادت۔ حق کے لئے جان دینا
 تَشْهَسُ يَشْهَرُ شَهْرًا اَوْ فَنَسْرًا مشہور کرنا
 اِسْتِشْهَارٌ مشہور کرنا۔ شائع کرنا۔ ظاہر کرنا۔ مشہور
 ہونا۔ شَمْرٌ اَشْهَرُ مَرِيضٌ تَشْهَرُ مَشْهُوِي
 تَشْهِيْرٌ مشہور۔ اَشْهَرُ بہت مشہور۔
 تَشْهَرُ شَرْهًا ہا ہوا۔ تَشْهَرُ شَرْهًا شہرت دینا
 تَشْهَرُ شَائِعٌ کرنے والا۔ مَشْهَرٌ مَشْهُوِي اُدِي
 تَشْهِيْقَةٌ کالی کھانسی جس میں گدھے کی آواز
 جیسی آواز نکلتی ہے۔
 اَشْهَلُ رُحٌ شَهْلَةٌ جسکی آنکھ کے ڈھیلے میں
 سرخی ہو۔ شَهَامَةٌ طاقت چستی۔ زیرکی۔
 شَاهِيْنٌ رُحٌ شَوَاهِيْنٌ باز۔
 شَهِي يَشْهُو شَهْوَةً بہت چاہنا۔ اَشْهِي
 بہت پسندیدہ۔ اِسْتِشْهَاءٌ خواہش۔ دل چاہنا۔
 شَهْوَةٌ رُحٌ شَهْوَاتٌ نفسانی خواہش۔
 مَشْتَهِي جی۔ بھوک لگانے والا۔ شَهْوَانِي بندہ
 حرص و ہوا۔ زیادہ مجامعت کا حریص۔
 شَوْبَةٌ ایک بار کی ملاوٹ۔ شَائِبَةٌ رُحٌ
 شَوَائِبٌ داغ۔ عیب۔ نقص۔

اَشَادٌ يُشِيْرُ اَشَادَةٌ کسی کی طرف انگلی سے
 اشارہ کرنا۔ اَشَادَةٌ عَلِيٌّ اُوْب۔ کسی بات کا
 مشورہ دینا۔ مَشَاوَدَةٌ مشورہ کرنا۔ شُوْرِي
 مشورہ۔ کانفرنس۔ کونسل۔ مَشِيْرٌ مشورہ دینے والا
 اَشَادَةٌ رُحٌ اَشَادَاتٌ ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا۔
 مَشَادٌ اِلَيْهِ جسکی طرف اشارہ کیا جاوے۔
 مَشْتَشَادٌ جس سے مشورہ کیا جائے۔
 اِسْتِشَادٌ مشورہ طلب کرنا۔
 شَوْرَبَةٌ شوربا۔ شُرُوْا۔ شَوْرَشٌ پریشان کرنا
 تَشْوِيْشٌ پریشان ہونا۔ مَشْوَشٌ پریشانی
 میں ڈالا ہوا۔ شَايَا ہوا۔ شَوَصَةٌ ورم پہلو۔ درد
 شکم۔ ورم پہلو۔ پسلی کے ایک مرض کا نام۔
 شَيْبَاتٌ آنکھ وغیرہ کے لئے دوائی کی بتی۔
 شَائِعٌ اندر رکھنے کی پوٹلی۔
 شَائِقٌ يَشُوْقُ شَوْقًا کسی چیز کی لولکا نا۔
 تَشْوِيْقٌ کسی چیز کی انتہائی خواہش ظاہر کرنا۔
 تَشْوِيْقٌ کسی چیز کی رغبت اور شوق دلانا۔
 مَشْتَائِقٌ رغبت اور خواہش رکھنے والا۔
 شَوْقٌ رُحٌ اَشْوَاقٌ وَاِسْتِيَاقٌ سخت خواہش
 بڑی تمنا۔ شَائِقٌ شَوْقٌ رکھنے والا۔
 شَوْكٌ رُحٌ اَشْوَالٌ کاشا۔ شَوْكَةٌ طاقت
 و جنگ۔ شَوْكِرَانٌ ہموک کا پودہ۔ ایک زہر دار
 پودہ۔ شَالٌ بڑی چادر جو کندھے پر رکھتے ہیں۔ شَالٌ
 شَوَالٌ۔ دسواں قمری مہینہ۔ شَاكٌ بادشاہ۔ شاہ پلو
 سینا سپاری۔ شَاكٌ رُحٌ شَيْبَاكٌ بکری۔ مَشْوِي
 بھونکا ہوا۔

بَابُ الصَّادِ

صَوَّلَتْ - حملہ - و بربہ - شوکت -
 صَبَتْ يَصُبُّ صَبَاتًا - گرانا - اِنْصَبَابٌ
 گرنا - (ماوہ وغیرہ)
 صَبَابَةٌ - سوزش - عشق - سخت محبت -
 صَبَاءٌ يَصْبِأُ صَبِيئًا - مذہب تبدیل کرنا
 صَبِيءٌ - مذہب تبدیل کرنے والا - سارہ پرست - بین
 صَبَحَ يَصْبِحُ - صَبْحًا وَ صَبِيحًا - صبح کے
 وقت آنا یا حملہ کرنا -
 صَبِيحٌ يَصْبِحُ - صَبِيحَةٌ - روشن یا چکار
 یا تو بصورت چہرہ والا ہونا - توش رو ہونا -
 صَبِيحٌ خوش شکل آدمی - صَبِيحٌ آصْبَاحٌ
 دن کا شروع - صَبِيحٌ جو پیر سے کھائی جانے
 صَبِيحٌ صبح کو پی جانے والی شراب -
 صَبِيحَةٌ خوب صورتی - راحت - مِصْبَاحٌ
 لمپ - چراغ مِصْبَاحٌ
 صَبِرَ يَصْبِرُ صَبْرًا - صبر کرنا - ضبط سے رہنا
 صَبْرًا صبر اپنے آپ پر کرنے والا - صَبْرًا صَبْرًا
 نفس پر قابو رکھنا - صَبْرًا صَبْرًا صبر کرنے والا -
 صَبْرًا صَبْرًا صبر کرنے والا - صَبْرًا صَبْرًا
 صبر اختیار کرنا - صَبْرًا صَبْرًا صبر کرنے والا -

شَاءَ يَشَاءُ شَيْئًا وَ مَشِيئَةً - چاہنا - ارادہ
 کرنا - مَا شَاءَ اللهُ - جو خدا تعالیٰ چاہے یہ کلام
 تعجب یا اذعان کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اِنْ شَاءَ
 اللهُ اگر اللہ پاک نے چاہا مستقبل کے لئے بطور
 دعا - شَيْءٌ شَيْئًا - شَيْئًا شَيْئًا - کام مَشِيئَةً
 مرضی - خواہش - آرزو - شَيْئَةً - غمزدگی سے بیزیر
 شَيْئًا يَشِيئُ شَيْئًا - بوڑھا ہونا - سفید
 بالوں والا ہونا - مَشِيئٌ بڑھا یا -
 شَاخٌ يَشِيخُ شَيْخُوخَةً - بوڑھا ہونا -
 شَيْخٌ شَيْخًا - بوڑھا - مَشِيخَةٌ سرداری
 بڑی عمر کا ہونا - مَشَايخٌ - مَشَايخٌ بزرگ
 آدمی - سردار - امام - اِسْتَاوَنَ -
 شَاخٌ يَشِيخُ شَيْخًا - پھیلا یا جانا -
 اَشَاعَ يَشِيخُ اَشَاعَةً - پھیلا یا شائع کرنا
 يَشِيخُهُ - گروہ - جماعت - شیعوں کا گروہ -
 اَشِيخٌ شیعہ مذہب یا ان کے عقائد ماننا
 شیعہ مذہب اختیار کرنا - شَيْخِيٌّ شیعہ آدمی
 شَائِعٌ پھیلا ہوا - مشہور - شَيْخٌ اشاعت پانا
 شَيْخٌ مشایعت کرنا - رخصت کرنا - کان پر
 پہنچانا - اوداع کرنا یا کہنا - شَيْخَةٌ شَيْخَةٌ
 خلق - عادت - طبیعت - مَشِيئَةٌ اَوَّلٌ
 شَائِيٌّ - پائے اَلشَّامِ ملک شام

صَدِيرٌ ایلوا جو کڑوے درخت کا رس ہوتا ہے
صَابِرَةٌ صبر کرنے والی۔ صَبَّارٌ صبر کا عادی
صَبِيحٌ يَصْبِحُ صَبِيحًا کسی کی طرف انگلی
کے اشارہ کرنا۔ اَصْبَحُ اَصْبَحُ یا
پاؤں کی انگلی۔

صَبِيغٌ يَصْبِغُ صَبِيغًا رنگنا۔ صَبِغٌ
گہرا کپڑا رنگنا۔ صَبِغٌ سالن۔ صَبَاغٌ کپڑا رنگنے
والا۔ صَبَاغَةٌ رنگ سازی۔ صَبِيغَةٌ رنگنے کا
کارخانہ۔ وَ صَبِغَةٌ رَنگ نہ ہب اصْبِطْبَاغٌ
پتسم۔ صَبِيغٌ وَ صَبَاغٌ صَابُونَ۔ صَبِغٌ ہوتا۔
صَابُونَ صَابِنٌ۔ صَبِيغَةٌ صَابُونَ کا کارخانہ
صَبَانٌ وَ صَابُونٌ صَابِنٌ فروخت کرنے والا
صَبُونَةٌ بچن۔ صَبِيغٌ بچہ لڑکا۔ صَبِيغَةٌ
لڑکی۔ صَبِيغَانٌ لڑکے۔ صَبِيغٌ پڑوا ہوا شرابی
ہوا۔ نسیم صبا۔

صَحٌّ يَصِحُّ صِحَّةً وَ صَحَّاحًا۔ بیماری کے
صحت پانا تندرست یا اچھا ہونا۔

صَحَّحْتُ تَصْحِيحًا کتاب کی غلطیوں کو صحیح اور درست
کرنا۔ صَحَّحْتُهَا صَحَّاحًا۔ درست۔ ٹھیک۔ فعل
کا بلا حرف علت ہونا۔ مُصَحِّحٌ صحت کرنے والا۔

صَحَّاحٌ بَابِلٌ کا کوئی باب۔
صَحَابٌ يَصْحَبُ صَحَابَةً وَ صَحَابَةٌ کسی

کے ساتھ رہنا۔ کسی کا ساتھی یا دوست بننا۔

صَحَابَةٌ دوستانہ لفظی۔ ساتھ۔ معیت۔ بیعت۔

صَاحِبَةٌ کسی کے ہمراہ رہنا۔ صَاحِبٌ
أَصْحَابٌ ساتھی۔ صَاحِبَةٌ بیوی۔ صَحَابَةٌ
جمع صَحَابَةٍ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد
مَصَاحِبٌ ملازم۔ بے تکلف ساتھی۔

صَحْرَاءٌ وَسِعَ رِيحَتَانِ صَحْرَائِيٌّ صحرا
کا رہنے والا۔

صَحِيْفَةٌ صُحُفٌ وَ صَحَائِفٌ کتاب کا
لکھا ہوا صفحہ۔ ورق۔ تحریر۔ جلد۔ کتاب۔ صحائف
کتاب فروش۔ تاجرِ قرآن کریم۔ مُصَحِّفٌ جمع
مَصْحُفٌ۔ کتاب۔ قرآن شریف
صَحَافَةٌ اخبار نویسی۔ صَحْنُ الدَّارِ مکان
کا صحن۔ آئین۔

صَحْبَةٌ پلٹ۔ طباق۔ بڑا پیالہ۔

صَحْنٌ رِكَابِيٌّ۔ طشتری۔ صَاحَةٌ آواز۔ شور
قیامت۔ صَحْبٌ۔ شور و غوغا۔ چلابٹ۔

صَحْرَةٌ۔ چٹان پتھر کی۔ صَدٌّ رُكْنَا۔ اعراض
کرنا۔ مُتَّصِدِيٌّ کسی کام میں مشغول یا مصروف

ہونے یا لگنے والا۔ ہتھم۔

صَدْرٌ يَصْدُرُ صَدْرًا۔ واقع ہونا

و وقوع پذیر ہونا۔ سرزد ہونا۔ صَدْرٌ جِ صَدْرٌ

چھاتی۔ سینہ۔ جائے عزت۔ صَدَاةٌ پریزیڈنٹی

وزارت۔ صَدَدٌ دُجٌ مَصَادِدٌ جائے صدور

تیجہ۔ جڑ۔ منبع۔ كَارِدٌ وَ صَادِدٌ پانی پر آئینہ والا

اور گھاٹ سے واپس جانے والا۔

صَدْرٌ أَعْظَمُ وَنَبِيرٌ عَظِيمٌ - ذَاتُ الصَّدْرِ
نویا۔ سینے کا درد۔ ذَاتُ الصَّدْرِ دُورِ سِنِّہِ کی باتیں
یادوں کے راز۔ صَدْرِہِ سِنِّہِ ڈھانکنے والا لباس
واسکٹ۔

مَصَادِرُہُ وَبِلِیْلِہِ عَیْنِہِ وَوَعُوہِ ہونے غلط لیل کا
مطالعہ۔ صَدْرُہِ الْقُوہِ سردار۔ پریزیدنٹ۔
صَدَعٌ بَصَدَعٌ صَدَعًا پھاڑنا۔ جدا جدا کرنا
تَصَدَّعَ پھٹنا۔ متفرق ہونا۔ صَدَّاعٌ سردار
تَصَدُّعًا سرداری تکلیف۔ مَصَدُّعٌ ورد
پیدا کرنے والا۔ صَدَّعٌ آصَدَّاعٌ کنپٹی
عَدَّعٌ آصَدَّاعٌ سیپی۔

صَدَفٌ یَصْدِفُ صَدْفًا ہٹانا۔ پھیرنا
تَصَادَفُ آسِیْنِہِ میں ملنا۔

صَدَقٌ یَصْدِقُ صِدْقًا سچا ہونا۔ سچ ہونا
صَدَقٌ تَصْدِیْقًا سچا قرار دینا۔ سچا جاننا
صِدْقٌ سچ۔ صَدَاقٌ سچائی۔ صَادِقٌ سچ
ہونے والا۔ مَصْدُوقٌ سچا قرار دیا ہوا۔ صِدِیقٌ
بہت سچا۔ مخلص دوست۔ صَدَقَتْ صَدَقَاتٌ
نیرات۔ چنہ۔ مَصْدِیقٌ تصدیق کرنے والا
تَصَدَّقْتُ تصدیق شدہ تصدق۔ نیرات
دینا۔ صدقہ دینا۔ قربان کرنا۔ مَصْدُوقٌ تصدیق
کرنے والا۔ ثابت کرنے والا۔ کسوٹی۔ کسی سداقت
کا گواہ یا مصدر اور منکر صِدِیقٌ راستہ
عورت۔ جس کا مقام نبیوں کے قریب ہو۔

صَدَمَ یَصْدِمُ صَدْمًا ہٹانا اور صدمہ
پہنچانا۔ تَصَادُمٌ ایک دوسرے سے ٹکرائنا۔ یا ٹکرائ
کھانا۔ مَتَصَادِمٌ ایک دوسرے سے ٹکرانے والا
صَدْمَةٌ ٹکراؤ۔ صدمہ۔

تَصَدَّی لِي دیکھ ہونا۔ تَصَدَّی کسی کام
کا بھیجا کرنے والا۔ اہتمام کرنے والا۔

آصَدَّ عَلٰی پتکارا دہ کرنا۔ اعمارا کرنا۔ مَصِیْرٌ
ہمٹ کرنے والا۔ صَدِیْرٌ قلم علی کی آواز۔ آصَدَّ
پیسنے کی آواز۔ صَدَّ عَمَّا ہمیائی۔ ہٹا۔ مَصِیْرٌ
کی تخلیق۔

صَدْرٌ یَصْدُرُہِ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
ہونا۔ واضح ہونا۔ فالص ہونا۔ صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا

تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا
تَصَدْرٌ صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا صَدْرًا

صَرَفٌ يَصْرِفُ صَرْفًا - ہٹانا۔ واپس کرنا
پھیر دینا۔ تَصْرِيفٌ خرچ کرنا۔ روپیہ تبدیل کرنا
پھیرنا۔ تَصْرِيفٌ اپنی خواہش بارائے کے مطابق
فعل۔ آزادی عمل۔

صَرَافٌ وَ صَرَافِيٌّ - صراف۔ روپیہ پیسہ کے
تبادلہ کا کام کرنے والا۔ مَصْرَافٌ خرچ پھر
کے لئے۔ خرچ کرنے کا مقام۔ مَتَصَرِّفٌ عمل کی آزادی
رکھنے والا۔ گماشتہ۔ کسی قسم کا حاکم۔

مَصْرِفٌ جس لفظ کا آخر حرف تینوں حرکات کی
صلاحت سے ہو۔

مَصْرِفٌ مَصْرَافٌ مَصْرَافِيٌّ خرچ کیا ہوا۔ کام میں
مشغول (اردو) صَرَافٌ علم صرف جس میں ایک
کلمہ کو مختلف اشکال میں بدل کر لایا جاتا ہے۔
تَصْرِيفٌ۔ گردان۔ ہر فی گردان۔

تَصْرِيفٌ وَ قِيَمَةٌ کام میں مشغولیت اور ادا ہر پھرنے
کا کام مَصْرِفٌ روپیہ کا تبادلہ۔ مَصْرِفٌ۔ فالس
غیر مخلوط۔ صَرَافٌ علم صرف بدلنے والا۔

صَاعِدٌ يَصْعَدُ صَعْدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ
کرنے یا سہنے میں مشکل ہونا۔ صَعْبٌ مشکل۔

صَاعِدٌ يَصْعَدُ صَاعِدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ
صَاعِدٌ يَصْعَدُ صَاعِدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ

تَصَاعُدٌ يَتَصَاعَدُ تَصَاعُدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ
تَصَاعُدٌ يَتَصَاعَدُ تَصَاعُدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ

تَصَاعُدٌ يَتَصَاعَدُ تَصَاعُدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ
تَصَاعُدٌ يَتَصَاعَدُ تَصَاعُدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ

مصر کا ایک علاقہ۔ زمین کی سطح۔ صَاعِقَةٌ رگڑ
سخت آواز۔ صُعْلُوكٌ غریب جمع صَعَالِيكٌ
صَعْوَةٌ مولا۔ بیا۔

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ
صَعْرٌ يَصْعَرُ صَعْرًا - اُصْعَرُ - اُصْعِرُ

صَاعِدٌ يَصْعَدُ صَاعِدًا - اُصْعَدُ - اُصْعِدُ

الصَّفَا کوہ صفا۔ جو مکہ شریف میں ہے اور چال
سے مروہ تک حج میں حاجی سعی کرتے ہیں۔
صَفِيٌّ بَرَكزیدہ۔ خالص۔ پاک۔ حِجْ اَصْفِيَاءُ۔
مُصْطَفَىٰ مَنْتخب۔ پسندیدہ۔ صَفْوَةٌ ہر چیز
کا خالص اور عمدہ حصہ۔ صَفْرٌ شُكْرٌ۔

صَقَلٌ يَصْقُلُ صَقْلًا وَصِقَالًا پالش
کرنا۔ چمک پیدا کرنا۔ صَقَالٌ وَصِقَالٌ پالش
کرنے والا۔ صِقْلٌ کرنے والا۔ صِقْلِيَّةٌ جزیرہ سیسی۔
صَلَبٌ يَصْلِبُ صَلْبًا وَصَلْبٌ سولی پر
چڑھا کر مار دینا۔ صَلْبٌ يَصْلِبُ صَلَابَةً
سخت ہونا۔ مضبوط ہونا۔ صَلْبٌ وَتَصْلِيْبٌ
سولی دینا۔ سولی پر چڑھا کر مار دینا۔ صَلْبٌ حِجْ
اَصْلَابٌ ریڑھ کی ہڈی یا مخصوص پیٹ کا منہ
صَلِيْبٌ حِجْ صَلَابَاتٌ سولی۔ صِلِيْبِيٌّ صلیبی
لڑائی لڑنے والا۔

مَصْلُوْبٌ صلیب دیا ہوا۔ صَوْلَجَاتٌ پولو
کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔ ہالی۔

صَلَمٌ يَصْلِمُ صَلَامًا وَصَلَامَةً دُور
ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ نیک ہونا۔ صَالِحٌ مَصَالِحٌ
کسی سے صلح کر لینا۔ یا۔ ارضی ہو جانا۔ اَصْلَةٌ بَيْنَهُمْ
کسی کے درمیان صلح کر دینا۔ اَصْطَلَحَ عَلٰی
بات پر تجھوتہ کر لینا۔ صَالِحٌ صَالِحٌ اَرْضِيٌّ
صَالِحٌ نیک۔ مناسب۔ صَالِحَةٌ نیک عورت
نیک جمع صَالِحَاتٌ۔ صَالِحٌ اچھائی۔ نیکی۔

راستی بازی۔ اچھی حالت۔

صَلَا حِيَّةٌ۔ اہلیت۔ نیک ہونا۔ درست ہونا
اِصْطِلَاحٌ کسی قوم کا کسی لفظ کے خاص معنی پر
اتفاق کرنا۔ جو اصل معنی کے علاوہ ہو۔ حِجْ
اِصْطِلَاحَاتٌ۔

صُلْحًا صَالِحِينَ وَصَالِحُونَ نیک لوگ

مُصَالِحَةٌ۔ میل ملاپ۔ صلح کرنا۔ صَفَا حِجْ

مُصْلِحٌ اصلاح کرنے والا۔ مَصْلِحَةٌ حِجْ

مَصَالِحٌ کوئی بات یا معاملہ جس میں جہاد ہو

فائدہ غرض۔ بہتری۔ خوبی۔ مَصْلِحَةٌ صَالِحٌ ہر حق

صَلَحَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

صَلَى يُصَلِّي صَلَاةً وَصَلَوَاتٌ نماز

پڑھنا۔ دعا کرنا۔ عبادت کرنا۔ صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

حِجْ صَلَوَاتٌ نماز۔ دعا۔ عبادت۔ صَلَوَاتٌ

نمازی۔ مَصَلَّى جاسے نماز۔

تَصَلَّيْتُ اَلْفَتْحَةَ صَلَوَاتٌ

مَصَلَّى صَلَوَاتٌ

صَلَى يَصَلِّي صَلَاةً

صَلَاةً صَلَوَاتٌ

صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

صَلَوَاتٌ صَلَوَاتٌ

تَصْنِيفٌ جِ تَصَانِيفٌ تَصْنِيفَاتٌ كِتَابٌ
مُصَنَّفٌ كِتَابٌ بِنَانٍ وَالْا- مُصَنَّفَةٌ جِ
مُصَنَّفَاتٌ كِتَابٌ بِنَانٍ هُوَئِي-

صِنْفٌ جِ اصْنَافٌ قِسْمٌ جِنْسٌ-
اصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ الْكُتُبُ بِاقَاعِدِهَا تَرْتِيبٌ
كِي هُوَئِي قِسْمٌ- صِنْفٌ جِ اصْنَافٌ تَرْتِيبٌ
صِنْفٌ- اِسْمٌ فَصْلٌ يَسْتَعْمَلُ فِي تَرْتِيبِ
صِنْفِهَا تَرْتِيبٌ شَادِي رَشْتِ كَانَاط-

واناد- بہنوئی- سالا وغیرہ-
صہیل گھوڑے کے ہنہانے کی آواز-
صَابٌ يَصُوبٌ صَوْبًا وَمَصَابًا وَوِجْرٌ
اُتْرَانَا- درست ہونا-

اَصَابٌ يَصِيبُ اِصَابَةً دَرَسْتُ كَرْنَا
يَا دَرَسْتُ پَانَا- حَاصِلٌ كَرْنَا- صَوْبٌ تَصْوِيبًا
تَصْدِيقٌ كَرْنَا- اِسْتَصَوَّبٌ اِسْتِصْوَابًا دَرَسْتُ
پَانَا- تَحْكِيكٌ خِيَالٌ كَرْنَا- صَوَابٌ دَرَسْتُ تَحْكِيكٌ
اِصَابَةً رَسْتُ كَا دَرَسْتُ هُونَا-

مُصِيبَةٌ جِ مَصَائِبٌ بِلَا مَصِيبَةٍ
صَدٌّ نَاكِهَانِي- اَفْتٌ- مَصَابٌ بِلَا رَسِيدٍ اَدْمِي
صَائِبٌ تَحْكِيكٌ- تَصْوِيبٌ تَصْدِيقٌ- دَرَسْتُ
پَانَا- سَبِيحٌ اَكْرَانَا- صَوْبٌ طَرَزٌ رَاسْتٌ مَبْدَلٌ
سَمْتٌ- صَوْتٌ جِ اَصْوَاتٌ اَوَاظٌ صِبْتٌ
نِيكٌ نَامِي- شَهْرَتٌ- نَامُوِي-

صَوْدٌ يَصْوَدُّ تَصْوِيرًا شَكْلٌ بِنَانًا تَصْوِيرًا

اَصْمٌ جِ صَمٌّ بَهْرَةٌ-
صَمْتٌ يَصْمِتُ صَمُوتًا فَا مَوْشٌ هُونَا-
صَامِتٌ فَا مَوْشٌ بَهْرَةٌ وَالْا- يَمَانٌ- صَوَاخٌ
كَانٌ كَا سَوَارِخٌ-

صَمْتٌ بِلَا نِيَاظٍ- بَهْمِيشَةٌ بَهْمِيشٌ رَهْنَةٌ وَالْا- اَنْزَلِي
اِبْرَاهِيْمٌ صَدَا- صَمْدِيَّةٌ بِلَا نِيَاظِي-

صَمْمٌ صَمٌّ يَتَغَيَّرُ اِنْ جَسٌ كِي وَحَارٌ نَهْرٌ
صَوْتٌ مَعْتَرٌ صَوَا مِعْ كَرَجَا- كَنِيْسَةٌ-
صَمٌّ كَوْنًا لِقَمْعٍ اَلْعَرَبِيَّةِ- كَيْلُ كَا كَوْنٌ
صِنْدِيَّةٌ جِ صِنَادِيَّةٌ- بَطْرَا سَمْرَوَار-

صُنْدُؤِيٌّ جِ صِنَادِيْقٌ جَسٌ- صُنْدَلٌ
بِحَدِيْنٌ كِي لَكْرَهِي- صُنْدَلَانِي- دَوَا سَاز-

صَنَعٌ يَصْنَعُ صِنْعًا يَبْدَأُ كَرْنَا- بِنَانَا-
صَنِيعَةٌ- كَارِيغِي- اِحْسَانٌ- فَا نَدَه- كَامٌ-
صِنْعٌ عَمَلٌ- صِنَاعَةٌ هَنْرٌ- پِيْشَةٌ- كَارِيغِي-
صَانِعٌ كَارِيغِي- مَصْنُوعٌ- مَتٌ- مَصْنُوعَةٌ
بِنَاوِي- بِنَاوِي- صِنَاعٌ كَارِيغِي- مَتٌ كَامٌ كَرِيغِي
صِنْعَةٌ كَارِيغِي- دَسْتَكَارِي- كَامٌ هَنْرٌ- پِيْشَةٌ-

صِنَاعَةٌ جِ صِنَاعٌ هَنْرٌ- كَامٌ- پِيْشَةٌ-
صِنَاعِيٌّ بِنَاوِي- تَصْنَعٌ بِنَاوِي- مَصْنُوعِيٌّ
بِنَاوِي- قَدْرَتِي كِي مَتَابِلَةٌ مِي- مَصْنَعٌ كَارِخَانَةٌ
جَمْعٌ مَصَانِعٌ-

صَنَفٌ يَصْنِفُ تَصْنِيفًا- كِتَابٌ بِنَانَا
كُوْنِي قَصْدٌ كَطْرَانَا- عِلْمِيٌّ كَرْنَا-

صَوْرَةٌ كَأَنَّ صَوْرَةً شَكْلٌ - حلیہ - صفت -
 تَصْوِيرٌ كَأَنَّ تَصَاوِيرٌ شَكْلٌ - فوٹو - تصویر -
 اسٹیجو - بت - تمثال - مَصَوْرٌ تصویر کھینچنے والا
 صَوْرٌ - لکل - نرسنگا - بینگ جس کو بجایا جاتا ہے
 صَاعٌ يَصْوَعُ صَوْعًا پیمانہ سے ماپنا -
 صَاعٌ آصَوَاعٌ ایک پیمانہ کا نام ہے جو دو
 سیر چودہ چھٹانک چار تولہ ہوتا ہے -

صَاعٌ يَصْوَعُ صَوْعًا ڈھالنا شکل بنانا - ایک
 لفظ سے خاص وزن پر لفظ بنانا -

يَصِفُّ صَيْغٌ شَكْلٌ - ڈھانچہ - صیغہ -
 صِيَاغَةٌ زَرْغِيٌّ - صَائِعٌ سُنَارٌ - زرگر -
 صَوْفٌ آصَوَافٌ اُونٌ - پشم - صَوَافٌ
 اُونٌ بَرُوشٌ - صَوْفِيٌّ صَوْفِيَاءٌ - مُرْتَضٌ
 عَابِدٌ - زاہد - نفس کشی کرنے والا - اہل اللہ تصوف
 خدا تعالیٰ کے وصال کا طریقہ - صوفی بنا -
 مُتَصَوِّفٌ - صوفی - بناوٹی صوفی - کیونکہ صوفی
 لوگ عام طور پر صوف یعنی اُون کا لباس پہنا کرتے
 تھے اس لئے صوفی کہلائے -

صَالٌ يَصُولُ صَوْلَةً عَمَلِيٌّ كَأَنَّ
 صَوْلَةً - حملہ - قوت - طاقت - ثلثہ - سطوت -

صَامٌ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا - روزہ
 رکھنا - صَوْمٌ صِيَامٌ - روزہ - صَائِمٌ رُوْزَةٌ
 صَوْمٌ مَعْتَدٌ صَوَامِعٌ رَاهِبِيٌّ كَأَنَّ
 گریہا - راہب کے رہنے کی جگہ -

صَانَ يَصُونُ - صِيَانَةٌ بچانا - حفاظت
 کرنا - مَصْنُوتٌ محفوظ - بچا ہوا -
 صَاحٌ يَصِيحُ صَيْحَةً بِيحْنًا بِلَانًا صَيْحَةٌ
 چیخ - نعرہ - صَيَّاحٌ شور مچانے والا -
 صَادٌ يَصِيدُ صَيْدًا اَوْ اَصْطَادٌ شَكَارٌ كَرْنَا
 صَيْدٌ شَكَارٌ صَيَادٌ شَكَارِيٌّ -

صَيْدٌ آءٌ عِلَاقَةُ شَامٍ فِي بَحْرِ رُومٍ كَأَنَّ
 پراگ ایک قدیم شہر ہے -

صَيْدٌ لِيٌّ - دوائی فروش - پنیاری -

صَارَ يَصِيرُ صَيْرٌ وَرَدَةٌ وَصَيْرٌ
 ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا -

صَيَّرَ يَصِّرُ صَيْرٌ يَصِّرُ
 بدل دینا - مَصِيرٌ ٹھکانا -

صَيْفٌ آصِيَافٌ مَوْسِمٌ كَرِيٌّ - صَيْفٌ
 موسم گرما گزارنے کی جگہ - صَيْفٌ صَيْفٌ
 صَيْفِيٌّ مَسُوبٌ بِصَيْفِيٍّ - چینی -

صَيْفِيَّةٌ - چینی -

صَائِبٌ كَأَنَّ
 صَائِبٌ كَأَنَّ

صَائِبٌ كَأَنَّ
 صَائِبٌ كَأَنَّ

صَائِبٌ كَأَنَّ
 صَائِبٌ كَأَنَّ

صَائِبٌ كَأَنَّ
 صَائِبٌ كَأَنَّ

ضَابِطٌ وَضَابِطَةٌ ضَوَابِطٌ قاعدہ۔
قانون۔ آئین۔ حفاظت۔ مضبوط اچھی طرح
یا عمدہ۔ درست کیا ہوا۔ ٹھیک ٹھیک۔ پکا۔
إِنْضَابًا قَابِوِينَ لَنَا مَضْبُوطًا مَنضَبًا
ضبط میں لایا ہوا۔

مَضْبُوعٌ مَضًا جَعَّ سونے کی جگہ بستری بننا
ضَوَاكٌ يَضَعُكَ ضَعًا نَسَا۔

ضَاعِكٌ ہے والا۔ مَضُوعٌ مَحْوٌ کہیں
ہنسی پیدا کرنے والی چیز تَضَعُكَ کسی پر ہنسا۔
مَضُوعٌ ہنسانے والا۔ مَضُوعٌ ہنسوڑ۔

تَسْحِيحٌ پاشت کا وقت جس میں سورج بہت
چڑھ آیا ہو۔ پھرون چڑھنے کا وقت۔

تَسْلُوةٌ الضُّحَى پاشت کی نماز ضَحِيَّةٌ ج
ضَحَابًا وَضَحِيَّةٌ وَآضَارٌ عَمَى۔ قربانی۔ قربانی
کی بھیڑ بکری۔ يَوْمُ الضُّحَى قربانی کا دن۔
عید الاضحیٰ کا روز۔

ضَخْمٌ يَضْحَمُ ضَخَامَةً مَوت ہونا۔
ضَخَامَةٌ مَوتی۔ جَمٌّ ضَخِيمٌ مَوتی کے جسم
جِنْدٌ جَاحِدٌ مَخَالِفٌ شَمْنٌ اَضْدَادٌ وہ
لفظ جن کے متضاد معنی ہوں۔ مَتَضَادٌّ مَخَالِفٌ
ایک دوسرے سے متغایر۔

ضِدِّيٌّ۔ مقابل کرنے والا۔ تَضَادٌّ ایک دوسرے
کی مخالفت کرنا یا ایک دوسرے سے متغایر ہونا۔
مَضْرُوعٌ مَضْرُوعٌ نَقْصَانٌ دینا۔ تکلیف دینا

ضَرَجٌ ضَرَدٌ وَآضْرَانٌ نَقْصَانٌ سختی۔ حالی
ضَرَدٌ وَضَرَّةٌ جَاحِدٌ مَضْرَانٌ وَهَضْرَانٌ
نقصان۔ ضَرُورٌ وَضَرُورِيٌّ جس پر انسان
کو مجبور کیا جائے۔ ضروری۔ لا بدی۔ ضروری اندھا
نا بینا۔ ضَرُورَةٌ حاجت۔ احتیاج۔

إِضْطْرَادٌ مجبور کرنا۔ مَضْطَرٌّ مجبور کیا ہوا
لاچار کیا ہوا۔ ضَرَّاءٌ جَاحِدٌ آضْرَانٌ سختی تنگ حالی
تنگی۔

ضَرِبٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا مارنا۔ مثال
بیان کرنا۔ ضَارِبٌ مارنے والا۔ مَضْرُوبٌ
جسے مارا جائے۔ ضَرْبٌ وَضَرْبَةٌ ج
ضَرْبَاتٌ۔ چوٹ۔ دَاذُ الضَّرْبِ۔ ٹکسال
مَضْرَابٌ زخمہ۔ تار جو نگلی میں پہنکر ستار
بجاتے ہیں۔ إِضْطْرَابٌ بے کلم ہو جانا۔

مَضْطَرِبٌ بے کلم ہونے والا۔ گمراہ ہٹ والا۔
ضَرْسٌ جَاحِدٌ آضْرَانٌ۔ وارث۔ دانٹ۔
ضَرَاطٌ پاؤ۔

ضَرْعٌ يَضْرَعُ ضَرَاعَةً اپنے آپ کو کسی
کے سامنے دلیل کرنا۔ تَضْرَعُ التَّجَارِكُنَا۔ عاجزی
سے مانگنا۔ انکاری کرنا۔ ضَرْعٌ جَاحِدٌ ضَرْعٌ مَضْرُوعٌ
مَضْرِعٌ فعل کا وہ صیغہ جس میں حال او۔
مستقبل دونوں زمانے پائے جاویں۔ علم
عروض کے ایک بھر کا نام۔

مَضْرَعٌ اَللّٰهُ تَعَالَى سے عاجزی سے دعا کرنے والا۔

ضَرْعًا - شیر - بہادر - مضبوط -
 ضَرِمَ يَضْرِمُ ضَرْمًا وَاضْطَرَمَ وَتَضَّرَ
 جلنا یا بھر گنا (آگ) مُضْطَرِمٌ بھڑکنے یا جلنے والا
 ضَعْفٌ يَضْعَفُ ضَعْفًا - کمزور - ضعیف
 یا ناتواں ہونا - ضَعْفٌ وَاضْعَفٌ وَتَضَاعَفَ
 دوگنا کرنا کسی چیز کو دوگنا بنانا - تَضَاعَفَ دُوہرانا
 دوہرا ہونا - دوگنا یا کئی گنا ہونا - يَضْعَفُ ج
 اَضْعَافٌ دوگنا دوچند - ضَعْفٌ کمزوری -
 ضَعِيفٌ کمزور - جمع ضَعْفَاءٌ - مُضْعِفٌ
 کمزور کرنے والا - دوگنا کرنے والا - اَضْعَفُ
 بہت کمزور - ضَعِيفَةٌ کمزور عورت -
 ضَغْطَةٌ - ایک دفعہ بھینچنا یا چوڑنا -
 تنگی - قہر - دباؤ - اضطرار -

ضَيْغَمٌ شِر

صِفْدَةٌ ج صِفْدَةٌ مِينْدَك

ضِغْنٌ - کینہ -

ضَلَّ يَضِلُّ ضَلَالًا وَضَلَالَةً گمراہ

ہو جانا - بھٹک جانا - بھول جانا - غلطی کر جانا -

ضَلَالَةٌ گمراہی - ضَالٌّ گمراہ - مُضِلٌّ گمراہ

کرنے والا - تَضَلَّلْتُ گمراہ کرنا - ضَالَّةٌ گمراہ

پتیز بس کی تلاش کی جائے -

ضَلَعٌ يَضْلَعُ ضَلْعًا - نمیدیا ٹیڑھا ہونا

ضَلَعٌ ج اِضْلَاعٌ پسلی - مثلث وغیرہ کا ضلع

ضَلْعَةٌ پہلو -

ضَمَّ يَضُمُّ ضَمًّا - ملانا - جمع کرنا - ضَمَّةٌ

پیش - مَضْمُونٌ پیش دیا ہوا حرف - اِضْمَامٌ

مل جانا - ضَمِيمَةٌ ملا ہوا - بلحقہ - ضَمٌّ پیش -

اِضْمَحَلٌ (اِضْمَحَلَالٌ) گھٹنا - اِخْطَاطٌ -

نہیں ہونا - اُرْطُ جانا - بکھر جانا - مُضْمَحِلٌّ فنا

ہو جانے والا - کمزور ہو کرنا بود ہو جانے والا -

ضَمَادٌ بٹی زخم کی پٹی - موٹا لیب کرنا -

اِضْمَامٌ لیب کرنا -

اَضْمَرَ يَضْمِرُ اِضْمَارًا - چھپانا -

ضَمِيرٌ ج ضَمَائِرٌ پوشیدہ خیال ضمیر

اندیشہ - بھید دل کی بات اسم ضمیر - مُضْمِرٌ

دل میں پوشیدہ بات - چھپا ہوا خیال - دل کے

اندر کا تفتی ارادہ - دل میں چھپایا ہوا -

ضَمِينٌ يَضْمِنُ ضَمِينًا وَضَمَانًا عَدْلَانٌ

بننا - کسی بات کا ذمہ دار ہونا - ضَمِينٌ اَمْرٌ

کسی چیز کا - ضَامِنٌ ذمہ دار - ضَمْنٌ عَدْلَانٌ

وہ چیز جو کسی کے اندر ہو - ضَمَانٌ عَدْلَانٌ

کفالت - ذمہ داری - تَضْمِينٌ عَدْلَانٌ

کسی اور شخص کا مشہور ہونا - ضَمْنٌ عَدْلَانٌ

مُقْتَضٍ عَدْلَانٌ (ضَمْنٌ عَدْلَانٌ) ہونا - ضَمْنٌ عَدْلَانٌ

کرنے والا - شامل شدہ -

ضَاءٌ يَضْوُءُ ضَوْءًا وَضِيَاءٌ چمک

دکنا - ضَوْءٌ ج ضِيَاءٌ روشنی - چمک دکنا

سوختن کی روشنی - مَضِيٌّ ج روشنی کرنے والا -

ضَاعَ يَضِيعُ ضِيَاعًا - گم ہونا۔ ضَائِعٌ
یا تباہ ہونا۔ اِضَاعَةٌ ضَائِعٌ کرنا۔ ضَائِعٌ
گم یا تباہ ہونے والا۔ ضِيَاعٌ بے کار۔ فضول
مُضِيعٌ۔ ضائع کرنے والا۔ ضَيْعَةٌ۔ جاگیر۔
جائیداد۔ ضَيْفٌ ضِيُوفٌ۔ مہمان۔
وَأَرَا الضِّيَافَةَ۔ مہمان خانہ۔
ضِيَافَةٌ۔ مہمانی۔ ضیافت۔
إِضَافَةٌ شامل کرنا۔ بڑھانا۔ ایک اسم کو
دوسرے اسم کی طرف مضاف کرنا۔ اِضْرَافٌ
اضافی۔ نسبتی۔ بطور ضمیمہ۔ ایذا دی۔ معاون
مُضْرَافٌ محاصرہ میں آیا ہوا۔ اَلْمُضْرَافُ
وَالْمُضْرَافُ الْبَيْتُ۔ دو اسم جن کا آپس میں
ضافت کا تعلق ہو۔ ضَيْفٌ مِزْبَانٌ۔

ضَائِقٌ يَضِيقُ ضَيْقًا۔ تنگ ہونا۔ ضَيْقٌ تنگ
کرنا۔ مُضِيقٌ تنگ کرنے والا۔ ضَيْقٌ تنگی
مُضْهِقٌ تنگی۔ حرج۔ مُضْهِقٌ۔ تنگ کرنا

بَابُ الطَّاءِ

طَبَّ يَطِبُّ طِبًّا۔ بیماری کا علاج کرنا۔
طَبَّبْتُ تَطْبِيبًا۔ بیمار کا علاج موائجہ کرانا۔
طِبٌّ علم طب۔ فن علاج۔ حکمت۔ طِبِيْبٌ ح
أَطْبَاءٌ۔ طبیب۔ حکیم۔ موائجہ۔ مُطَبِّبٌ بناوٹی
طیب۔ نیم حکیم۔ عطائی موائجہ۔ مُطَبِّبٌ۔ طبابت
کرنے کی جگہ۔ طِبْنًا۔ طیب کرنا۔ علاج موائجہ کا پیشہ
اختیار کرنا

طَبَخَ يَطْبَخُ طَبْخًا وَطَبَخَ يَبْخَانًا۔
طَبَاخٌ باورچی۔ نانباتی۔ مَطْبَخٌ باورچی خانہ
طَبَاخٌ پکانے کا ہنر۔
طَبْرِيٌّ۔ طبرستان کی طرف منسوب۔
طَبْرُزْدٌ۔ مصری۔ طَبْرٌ تبر۔ کلہاڑا۔
طَبَا شَيْئًا۔ بسلوچین۔ طباشیر۔
طَابُورٌ۔ فوج کا دستہ۔ پلٹن
طَبَعٌ يَطْبَعُ طَبْعًا۔ مہر کرنا۔ نقش کرنا۔
اَلطَّبَاعُ چھپنا۔ کتاب طبع ہونا۔ طَبْعٌ حِطْبَاعٌ
مہر۔ نقش۔ مزاج۔ فطرتی۔ خصالت۔ نمونہ۔ شکل۔
طَبَاعَةٌ چھاپنے کا پیشہ۔ پریس۔ طَابِعٌ چھپنے
والا۔ مَطْبَعٌ حِطْبَاعٌ چھاپہ خانہ۔ پریس۔
طَبِيعٌ فطرتی۔ طَبِيعَةٌ حِطْبَاعٌ۔ سبھاؤ
خصالت۔ فطرت۔ طَبِيعٌ مَہرِ عِلْمٍ۔ مہر علوم طبعیات
مَطْبُوعٌ۔ قدرتی۔ طبع کے موافق۔
طَبَّقَ يَطْبُقُ طَبْقًا۔ مطابق آنا۔ پورا آنا۔
طَبَّقَ جُرًا جُرًا کرنا۔ طَابَقَ مُطَابَقَةً وَطَبَّاقًا
موافق آنا۔ مطابق ہونا۔ اِنطِبَاقٌ کسی سے متفق
ہونا۔ طَبَّقَ حِطْبَاعٌ۔ دھکنا۔ طَبَّقَةُ حِطْبَاعٌ
طَبَقَاتٌ۔ طبقہ۔ تہ یا پرت۔ جماعت۔ درجہ۔ عا
طَبَقَاتُ الْأَرْضِ۔ زمین کے درجے۔
مَطْبَقَةٌ۔ لگاوار سلسل مطابقی کسی چیز کے
مطابق۔ موافق۔ یا بلتا جلتا۔ مُطَابَقَةٌ موافقت
تطابقی۔ موافقت کرنا۔ مُطَبِّقٌ۔ پورا آنے والا

طِبَا قَاتَ تہ بہ تہ۔ اوپر تلے۔

طَبْلٌ يَطْبُلُ طَبْلًا۔ ڈھول بجانا۔ طَبْلٌ
جِ اطْبَالٌ ڈھول۔ طَبْلَةٌ تھالی۔ طبلہ۔
طَبَالٌ ڈھولچی۔ طبلچی۔ ڈھولکی بجانے والا۔
طَبْنَجَةٌ۔ تپنچہ۔ پستول۔

طِحَالٌ تَحِي۔ طِحَالٌ تَحِي کی بیماری۔ مَطْحُولٌ
تَحِي کی بیماری والا۔

طُحْلُبٌ۔ کائی جو کھڑے پانی پر آجاتی ہے۔

طَحْنٌ يَطْحَنُ طَحْنًا وَطَحْنٌ۔ پینا رطوبت
و طَحْنٌ سِطَا۔ طَحْنٌ آٹا پیسنے والا۔ طَا حُونٌ
چکی۔ مَطْحَنَةٌ رَج مَطَا حِنٌ۔ خراس۔ چکی۔
مَطْحُونٌ پسا ہوا۔

طُرَّةٌ۔ پیشانی۔ پیشانی کے بال۔ طُرَّاءٌ حَبِيبٌ
کترنے والا۔ تیز طَارِدِيٌّ۔ ناگہانی آفت یا مصیبت
إِطْرَاءٌ حد سے زیادہ تعریف یا مدح کرنا۔

طَرِبٌ يَطْرِبُ طَرِبًا۔ خوش ہونا۔ سُرُورًا
ہونا۔ خوشی یا غم سے جھومنا مَطْرِبٌ۔ گویا۔
طَرِبٌ خوشی بہت۔ طَرِبُوشٌ۔ رُوی نُوپی۔
طَرَابِلُسُ الشَّامِ۔ شام کا طَرَابِلُسُ

طَرَحٌ يَطْرَحُ طَرَحًا پھینکنا۔ طَرَحٌ پھینکا
ہوا۔ مَطَارِحَةٌ گفتگو۔ طَرْحَانٌ وَتَرْحَانٌ
رئیس شہزادہ۔

طَرْدٌ يَطْرُدُ طَرْدًا۔ دھتکارنا۔ طَرِيدٌ
دھتکارا ہوا۔ مَطْرُودٌ راندہ ہوا۔

طَرَزٌ يَطْرِزُ نَقْشٌ وَكَارُكْرُنَا۔ سبیل بونے والا
طَرِزٌ۔ شکل۔ ترتیب۔ طریقہ۔

طَرَفٌ يَطْرِفُ طَرَفًا۔ آنسو جھپکنا۔ طَرَفٌ
جِ اطْرَافٌ، پہلو۔ صفحہ۔ کنارہ۔ آخری حد۔

أَطْرَافُ الْبَدَنِ جسم کے اطراف۔ دونوں ہاتھ
دونوں پاؤں سر وغیرہ۔ طَرَفَةٌ عمدہ نمی پینے کا پیچہ
طَرَفَاءٌ جھاو کا درخت۔ پھرواں۔ فرانس۔

طَرِيفٌ نادر چیز عجیب و غریب چیز۔

طَرَفَيْنِ۔ جانبین۔ دونوں جانب۔

طَرَفَةُ الْعَيْنِ۔ آنسو کا جھپکنا۔

طَرَقَ لِي۔ راستہ بنا۔ طریقہ نکالنا۔ طَرِيقٌ
جمع طَرِيقٌ وَطَرِيقٌ۔ راستہ۔ طریقہ۔

طَارِدٌ رَاتٌ كُوْتِنٌ وَاللَّ۔ جھپکنا۔ طَارِدٌ

جیرا۔ شرمک۔ سپا نیو یعنی اندس کے زار۔ طَارِدٌ
بہ زیادہ کہ نام کا سپین میں ایک پہاڑ ہے۔

مَطْرَقَةٌ۔ ہتھوڑا۔ مَطْرَقَةٌ۔ ہتھوڑا۔

طَرْنِيَّةٌ وَطَرْنِيَّةٌ۔ کھانا۔

طَرَاوَةٌ۔ تازہ ہونا۔ طَرَاوَةٌ۔ تازہ ہونا۔

طَرِيبٌ۔ نازک۔ طَرِيبٌ۔ نازک۔

طَرِيبٌ يَطْرِبُ طَرِيبًا۔ کھانا۔ مزہ دیکھنا

طَعْمٌ۔ مزہ۔ طَاعِمٌ کھانے والا۔ طَعَامٌ

جِ اطْعِمَةٌ۔ خوراک۔ غذا۔ رزق۔ مَطْعَامٌ۔

پہان نواز۔

طَعْنٌ يَطْعَنُ طَعْنًا۔ نیزہ مارنا۔ نیزہ چھوڑنا

طَاعُونَ ج طَوَاعِينُ - طاعون - بلیگ -

طَعْنٌ - طعن و تشنیع کرنا - طَعَانٌ - ملامت کرنا
طَعُونٌ جس کو ملامت اور طعن کیا جاوے -

طَاعُونَ کی مرض کا مریض - مَطَاعِيحٌ - غیب الزما
ملامت کی باتیں -

طَغْرًا شہابی ذرا بین اور سلطان مسکوکات کا
نام طرز خط و تحریر جیسا کہ آج کل کے پاکستانی
روپیہ اور اٹھنی پر لکھا ہوا ہوتا ہے -

طَغْيٌ بَطْغِيٌّ طَغْيَانًا - حد سے گزر جانا - کفر سے
بڑھ جانا - طَغْيَانٌ کفری - طَاغِيٌّ - ظالم پلید

کفر میں حد سے بڑھا ہوا - طَاغُوْتٌ ج طَوَاعِيْتٌ
باطل معبودیت خانہ بہت بڑا بے دین - شیطان
گمراہ کرنے والا -

طَفِيٌّ يَطْفَأُ طَفْوَةً يَجْمَعُ جَانًا يَجْمَعُ جَانًا
وہیجا پڑ جانا - مُطْفِئٌ يَجْمَعُ جَانًا -

طِفْلٌ ج اَطْفَالٌ - بچہ - بالک - طِفْلِيَّةٌ
بچپن - سَفْرَسِيٌّ - طَفِيْلٌ ذَرِيْعٌ - واسطہ طَفِيْلِيٌّ
کسی وحوت پرین بلائے مہمان -

طَقٌّ پتھر پتھر پڑنے کی آواز - طَقَطَقٌ وروان
کو کھٹکھٹانا - یا جانداروں کے پاؤں کی آواز -

طَلَبٌ يَطْلُبُ طَلَبًا - تلاش کرنا - وَهَوْنٌ
پوچھنا - پابنا - طَالِبٌ ج طَالِبَةٌ - ڈھونڈنے والا

تلاش کرنے والا - مَطْلُوْبٌ - مقصود جسکی تلاش ہو
طَلَبٌ درخواست - وَهْوِيٌّ - طَلَبَةٌ طَلَبًا - امید

طالبتعلم (اردو) شاگرد

مَطْلَبٌ ج مَطَالِبٌ ج مَطَالِبَاتٌ خواہش

تحقیق طلب امر -

طَالُوْتٌ - بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا
صفاقی لقب جس کا نام شاول اور جو حضرت داؤد
علیہ السلام کا خسر تھا -

طَلْمٌ يَطْلُمُ طَلْمًا - شریہ ہونا - خراب اور بد ہونا
طَالِحٌ - بد بخت - شریہ پاجی - بد معاش - فساد
طَلْحَةٌ - کینا -

طَبِيْلَسَانٌ سبز چادر جو علماء اور مشائخ سر پر اوڑھتے
یا مونڈھوں پر ڈالتے ہیں

أَطْلَسٌ - سائن - ریشم کی بنی ہوئی چیز - اَطْلَسٌ
نقشوں کا مجموعہ - ریشم کی بناوٹ والا کپڑا -

طَلْسَمٌ ج طَلْسَمَاتٌ جادوگر کی لکیریں یا
تحریر جادو کا فن یا کام -

طَلَعٌ يَطْلَعُ طُلُوعًا - چڑھنا - ظاہر ہونا -
إِطْلَاعٌ - جاننا - مطلع ہونا - خبردار کیا جانا -

طُلُوعٌ - ظہور - مَطْلِعٌ جمع مَطَالِعٌ - چڑھنے یا
طلوع ہونے کی جگہ - لظم کا پہلا شعر -

مَطْلِعٌ - اطلاع یا خبر دینے والا - اَطْلَاعَاتٌ
خبر دی ہوئی باتیں - طَلْعَةٌ - چہرہ - دیدار - شکل -

طَالِعٌ ج طَوَالِعٌ چڑھنے والا ستارہ - جَنَمٌ پتھری
مَطَالَعَةٌ پڑھنا - مطالعہ کرنا - جانچ پڑتال کرنا -

طَلِيْعَةٌ - مقدمتہ الجیش - ہراول دستہ -
طَلَّقَ يَطْلُقُ - طَلَاقًا - آزاد کرنا - عورت کو
طلاق دینا

اِطْلَاقٌ جھوڑ دینا۔ آزاد کر دینا۔ مُطْلَقٌ آزاد
 کہا ہوا۔ طَلَاقَةٌ فصاحت۔ زبان کی روانی۔
 طَلِيقُ اللِّسَانِ فصیح زبان آور۔ مُطْلَقَةٌ
 طلاق دی ہوئی عورت۔ طَلَاقٌ عورت کی طلاق
 آزادی کی سند۔ اِطْلَاقٌ آزاد کرنا۔ طَلِيقٌ
 الوجہ۔ کشادہ رو و خندہ پیشانی والا۔ تَطْلِيقٌ آزاد
 حَکِيمَةٌ عَلَى الْاِطْلَاقِ بلا استثنا حکیم۔
 اِشْتِطْلَاقٌ پیٹ کا جاری ہو جانا۔ مُطْلَقًا
 قَطْعًا بالکل عام طور پر۔ طَلْمَجِحٌ آگ بجھانے
 والا سپاہی۔ طَلَا سونا۔ پتلا لپچ آٹلیبۃ
 مُطَلَّأٌ زریں۔ سنہری۔ مُذْهَبٌ۔
 طَمِثٌ يَطْمِثُ طَمَثًا عورت کو حیض آنا۔
 طَمِثٌ جیض۔ ناپاکی۔ گند۔ میل۔ فساد۔ خون۔
 بکارت۔
 طَوْمَارُجٌ طَوَامِيرٌ لکھے ہوئے کاغذ کا ٹھما
 پلندہ۔ رَجِيسٌ۔
 طَمَسٌ يَطْمِسُ طُمُوسًا محو کرنا۔ مٹا دینا۔
 مَطْمُوسٌ مٹا ہوا۔
 طَمَعٌ يَطْمَعُ طَمَعًا فِي بٍ لالچ کرنا۔
 بہت خواہش رکھنا۔ کسی چیز کی امید کرنا یا رکھنا
 طَامِعٌ حریص۔ لالچی۔
 اِطْمَئِنٌّ يَطْمِئِنُّ اِطْمِئِنَانًا تسکین
 دینا۔ تشفی و اطمینان دلانا۔ مُطْمِئِنٌّ تسلی و
 تشفی یافتہ۔ طَمَائِنَةٌ اطمینان تسلی۔ دل کا چین۔

تسکین و قرار دل۔
 طَنَّبَ خیمہ لگا کر اسکی طنابیں گنا۔
 اَطْنَبَ فِي الْكَلَامِ بات کو لمبا کرنا۔ اِطْنَابٌ
 بات کا بھیداؤ۔ طول کلامی۔ طَنَابٌ خیمہ کی رستی
 طَنَبُورُجٌ طَنَابِيْرٌ سارنگی۔ ساز۔
 طَهْرٌ يَطْهَرُ طَهْرًا وَطَهْرًا طَهْرًا سٹھرا ہونا
 پاک ہونا۔ راستیاز ہونا۔ تَطْهِيرٌ صفائی پاکیزگی
 طَاهِرٌ پاک۔ صاف۔ طَهْرٌ وَطَهْرًا
 پاکیزگی۔ صفائی۔ مُطَهَّرٌ پاک و صاف کرنا
 اَيَّامُ الطَّهْرِ عورت کے حیض سے پاک ہونے
 کے دن۔ اَطْهَارٌ پاک لوگ۔
 طَوْدُجٌ اَطْوَادٌ طریقہ عمل۔ قسم۔ جماعت
 حالت۔ طَوْدٌ کوہ طَوْرٌ۔ اَطْوَادٌ قسما قسم۔
 طَاؤُوسٌ مور۔ طَامِسٌ ج طَامِسَاتٌ پھا
 طَاعٌ يَطْوَعُ طَوْمًا وَاطَاعَ دَانِطًا
 ل۔ فرمانبرداری کرنا۔ تابعدار ہونا۔ حکم ماننا۔
 اِسْتِطَاعَةٌ طاقت رکھنا۔ طَائِعَةٌ
 اِطَاعَةٌ فرمانبرداری۔ تابعداری۔ طَائِعَةٌ
 تابعداری کرنے والا۔ مُطَاعٌ
 تابعداری کی حالت۔ اِسْتِطَاعَةٌ طاقت و
 قدرت رکھنے والا۔ طَوْعٌ مرضی سے بغیر جبر کے
 طَوْعِيٌّ خوشی۔ رضا۔ و رغبت۔ مُتَطَوِّعٌ
 والنیئر۔ رضا کار۔ تَطَوُّعٌ رضا کارانہ فعل۔
 اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا۔

مُطَاوَعَةٌ - مرضی - خوشی - رضا - موافقت - اتفاق

طَافَ يَطُوفُ طَوَافًا - ارد گرد گھومنا

جَرَ لَكَانَا - پٹرول کرنا - طَائِفٌ گھومنے والا -

طَوَّافٌ گھومنا - طواف کرنا - مَطَافٌ چکر

رگانے کی جگہ - مُطَوِّفٌ - طواف بیت اللہ

کرانے والا - طَائِفَةٌ ج طَوَائِفٌ - جماعت

قوم - کنبہ - گروہ - فرقہ - طُوفَانٌ - سیلاب

طوفان - طَوَّافٌ کعبہ شریف کا طواف کرنے والا -

طَاقٌ يَطُوقُ - طَوْقًا وَ طَاقَةً وَ اَطَاقَ

عَلَى - طاقت رکھنا - طَوَّقِي - طوق پہنانا - طَوَّقِي

جمع اَطَوَّقِي گھے کا زیور - کالر - مُطَوَّقِي - فاختہ

کبوتر - مَا لَا يُطَاقِي - ایسا کام جو طاقت سے

باہر ہو - طَاقِي - گنبد - محراب - طَاقٌ -

تَطَوَّقِي - طوق یا مالا پہننا -

طَالَ يَطُولُ - طَوَّلًا - دیر تک رہنا - بڑھنا

طَوَّلَ - اَطَالَ لِمَا كَرْنَا - طَوَّلَ لِمَا بِيْ عَرَصَ

مَدَت - طَائِلٌ فَايِدَه - نفع - لَا طَائِلَ بِفَايِدَه

بے مصرف - تَطَوَّلِيْ لِمَا كَرْنَا - ورازا کرنا - طَوَّلِيْ

لِمَا - طَوَّلَ لِمَا لِمَا بِيْ - تَطَوَّلِيْ - ظلم - زیادتی

مَطَوَّلٌ ایک کتاب کا نام ہے - اَطَوَّلَ بہت

لمبا - طَاوِلَةٌ - میز - طَيْلٌ - مُسْتَطِيْلٌ لمبا

منواری الاضلاع جس میں تمام زاویے قائمے

ہونے ہیں مگر اضلاع برابر نہیں ہوتے - فن عروض

کی ایک بحر - طَحِيٌّ پھینٹنا طے کرنا - نہ کرنا -

طَوَى ایک وادی کا نام ہے -

طَابَ يَطِيْبُ طَيْبًا - اچھا - خوشگوار

و عمدہ ہونا طَيْبٌ خوشبودار چیز - طَيْبٌ

پاکیزہ - پاک - اَطْيَبُ - بہت پاک -

مُطِيْبٌ خوشبودارینے والا - خوش کرنے والا -

مُسْتَطَابٌ پاکیزگی والا - طَيْبَةٌ ج

طَيْبَاتٌ - پاکیزہ چیز عمدہ چیز - طَوْبِي

خوشخبری - ایک بہشتی درخت -

طَارَ يَطِيرُ طَيْرَانًا - اُطْرًا - طَائِرٌ

ج طَيْرٌ - پرندہ - طَيْرٌ پرندہ - طَبَّادَةٌ

ہوائی جہاز - طَيْرَانٌ اُطْرَانٌ - پرواز -

طَاشٌ يَبْطِيشُ طَيْشًا - عقل کھونا -

عقل ضائع ہونا - طَيْشٌ چھچھورا بن جانت

غصہ - اَطَافٌ وَ طَيْفٌ گردا گرد گھومنا -

طَيْفٌ سایہ - خیال - جنون - طَيْنٌ - مٹی - کچرہ

طَيْبِنَتْ - فطرت - نیچر - طبیعت - مَطِيْنٌ

گل حکمت کیا ہوا - مٹی کچرے سے لپیا ہوا -

بَابُ الطَّاءِ

طَبِيٌّ - ہرن - ہرنی

ظَرَفٌ يَظْرَفُ ظَرْفًا وَ ظَرْفَةً -

ذہین ہونا - ماہر ہونا - خوش ہونا - ظَرْفٌ ج

ظَرْوَةٌ - برتن - اندرونی حالت - ظَرْفَةٌ

ذہانت - ظَرْفٌ حاضر جواب - ذہین - خوش طبع

مَظْرُوفٌ رتن کے اندر کی چیز پانی وغیرہ
ظَفَرَ يَظْفِرُ ظَفْرًا اب و علی کامیاب
ہونا۔ غالب آنا۔ مَظْفَرٌ کامیاب۔ فتح مند۔
ظَفْرٌ کامیابی۔ ظَفْرٌ آظْفَارٌ ناخن۔
ظَفْرَةٌ ناخونہ چشم۔ آنکھ کی ایک مرض جس
میں ناخن کی شکل کا اُبھار پیدا ہو جاتا ہے۔

ظَلٌّ يَظِلُّ ظِلًّا جاری رہنا۔ برابر رہنا
ظِلٌّ وَ آظِلٌّ سایہ کرنا۔ ظِلٌّ آظِلَالٌ
سایہ۔ پرچھاواں۔ عکس۔ نمونہ۔ مَظَلَّةٌ چھاتا
چھتری۔ بڑا خیمہ۔ ظِلٌّ ظِلِيلٌ بہت گھنا سا یہ
ظَلَمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا ظلم کرنا۔ جور کرنا۔
بے انصاف ہونا۔ زیادتی اور ستم کرنا۔ آظلمَ
اندھیرا ہونا۔ تاریک ہونا۔ تَظَلَّمَ ظلم کرنا۔ ظلم
برداشت کرنا۔ ظَلَمَةٌ ظُلُمَاتٌ اندھیرا
تاریکی۔ جہالت۔ فسق۔ شرک۔ يَحْرُ الظُّلُمَاتِ
بحراوقیانوس۔ ظَالِمٌ ظلم کرنے والا مَظْلُومٌ
ستم رسید۔ ظَلَامٌ وَ ظُلُومٌ بہت ظالم
بہت بڑا بے انصاف۔ مَظْلِمَةٌ مَظَالِمٌ
زیادتی بے انصافی۔ وہ حق جس سے کسی کو محروم
کر دیا جاوے۔

ظَنَّ يَظُنُّ ظَنًّا خیال کرنا۔ فرض کرنا۔ جانتا
شبہ کرنا۔ ظَنَّ جَ ظُنُونٌ خیال۔ شبہ۔ شک۔ قیاس
گمان۔ امکان غالب۔ مَظْنَةٌ خیال۔ قیاس
وہ موقع جہاں کسی بات کے پائے جانے کا گمان ہو۔

ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُورًا کھلم کھلا ہونا۔ باہر آنا۔
ظاہر ہونا۔ آشکارا ہونا۔ دکھائی۔ اَظْهَارٌ ظاہر کرنا
ظَاهِرٌ واضح۔ صاف۔ کھلا ہوا۔ اِشْتِظْهَارٌ
مدد چاہنا۔ اظہار چاہنا۔ غالب آنا۔ ظَهْرٌ ج
ظُهُورٌ پیٹ۔ پشت۔ مَظَاهِرَةٌ دکھاوا
اپنے آپ کو دکھانا۔ نمایاں کرنا۔ اِظْهَارٌ مرد کا عورت
کو ماں بہن کہہ دینا۔ مَظْهَرٌ جَ مَظَاهِرٌ قدرت
الہی کے ظہور کا مقام۔ کسی نبی یا رسول کی شان کو
ظاہر کرنے والا وجود۔ جیسا کہ مسیح مہدی جو موجود
امت محمدیہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
کمالات اور شان کو ظاہر کرنے والا ہے یعنی
روحانیت و تقویٰ و شان نبوی و کمالات بے مصلو
کے ظہور کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کے وجود باوجود
کا منظر کا مل اور ہر وقت آتم ہے۔ ظَاهِرٌ جَ ظَاهِرٌ
سورج کے زوال کے بعد کا وقت۔ نماز کے بعد
وقت۔ مَظْهَرٌ ظاہر کرنے والا۔ آشکارا کیونکہ
ظَهْرٌ الغیب۔ پس پشت سے بیٹھ کر
ظہیر سودیتہ والا۔ اِظْهَارٌ
پشت و پیادہ ظاہر کرنا۔ اِظْهَارٌ
پوشیدہ طور پر

يَا أَيُّهَا الْمَعِينُ

حَبَابٌ وَ غَيَابَةٌ۔ ایک قسم کا اونی پودہ
حَبَابٌ وہ ایسے آئینے پودے جو سب کپڑوں کے اوپر پڑے

پر ڈال لیں۔ کھلی۔ تَعْبِيَةٌ تیار کرنا۔ ترتیب دینا
کھٹک ٹھاک کرنا۔

عِبْتٌ يَعْبِتُ عِبْتًا بے کار کھیل کھیلنا
بے فائدہ کھیلنا گودنا۔ لغو کام کرنا۔

عَبْتٌ بے فائدہ۔ بے ہودہ۔ کھیل۔ مخول ^طبھٹھا
فضول۔ بے نتیجہ۔

عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً وَ عِبُودِيَّةً پوجنا
پرستش کرنا۔ بندگی کرنا۔ عبادت کرنا۔ تعریف کرنا

حمد کرنا۔ الٰہی کرنا۔ عِبَادَةُ عِبَادَةٍ۔ غلام بندہ
نوکر۔ عَابِدٌ عِبَادَةٍ۔ بندگی اور عبادت کرنے

والاء۔ مَعْبُودٌ جس کی پوجا یا بندگی کی جائے
خداوند کریم۔ تَعْبُدُ خدا پرستی۔ علیحدہ ہو کر عبادت

میں مشغول ہونا۔ عبادت کے لئے وقف ہونا۔
عِبُودِيَّةً۔ غلامی۔ بندگی۔ عقیدت۔

مَعْبُودٌ عِبَادَتِ عِبَادَتِ عِبَادَتِ عِبَادَتِ عِبَادَتِ عِبَادَتِ
گر جا۔ جہاں پر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاوے

مَعْبُودٌ غلام بنایا ہوا۔ ذلیل کیا ہوا۔
عَبْرٌ يَعْبُرُ عَبْرًا۔ گزرنا۔ پارا نرنا۔

گزر کر جانا۔ تَعْبِيرٌ کسی خواب یا رؤیا کے
معنی یا مطلب بیان کرنا۔ رَاْحَتِيْبَادٌ کسی پر

بھروسہ یا اعتماد کرنا۔ کسی چیز سے عبرت و نصیحت
حاصل کرنا۔ عَبْرَةٌ نصیحت۔ سبق۔ عبرت۔

عِبَادَةٌ مَطْلَبُ الْفَاظِ يُوَكِّفِي مَطْلَبِ ظَاهِرِ
کریں۔ بیان۔ تشریح۔ طرز تحریر۔ طرز ادا۔

مُعْتَبَرٌ جس کا اعتبار ہو۔ جس پر اعتماد اور
بھروسہ کیا جاوے۔ عزت اور قدر والا۔

مَعْبَرٌ کشتی۔ پل۔ گذرگا۔ حو دریا یا کسی
ندی نالے پر ہو۔ رَاْحَتِيْبَادِيٌّ نسبتی۔ اضافی

اعتباری۔ فرضی۔ عَبِيْرٌ ایک مرکب خوشبو
جس میں زعفران وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ عَابِرٌ

عبور کرنے والا۔ کسی دریا پر سے گذرنے والا۔
عَبْرِيٌّ وَ عَبْرَانِيٌّ۔ عبرانی۔ یہودی

عَبَّاسٌ۔ بڑا سخت مزاج۔ بہت ترش زرد
الْعَبَّاسُ شیراز۔

عَبْقَرِيٌّ۔ نادر چیز۔ نفیس و خوبصورت
چیز۔ قَبْهَرٌ۔ زگرس۔ چنبیلی۔

عَعْبٌ يَعْتَبُ عَعْبًا۔ ناراض ہونا۔
سرزنش کرنا۔ خفا ہونا۔ خفگی کا اظہار کرنا۔

عِنَابٌ وَ مَعَانِبَةٌ۔ سرزنش کرنا۔ غفہ کرنا
مَعْتُوْبٌ جس پر عتاب کیا جاوے۔

عُنْتَةٌ عُنْتَابٌ۔ دہلیز۔ سیڑھی کا زینہ
مَعَانِبٌ سرزنش کرنے والا۔

مُعْتَدٌ بِهِ۔ تیار۔ کافی۔ عَشْرَةٌ۔ شاخ
آہل و اولاد۔ قریبی رشتہ دار۔ رُوْحَانِيٌّ اولاد

جو کسی سے شدت تعلق محبت و مودت و لفت
رکھتی ہو۔ عَنِيْبِيٌّ۔ پیرانا۔ آزاد۔ کریم۔ لقب

سنت ابو بکر صدیق فلیقہ اول رضی اللہ عنہ
بَيْتُ الْعَنِيْبِيِّ۔ بیت شریف خداوند کریم کا پہلا

جو غیر اقوام کے تسلط سے آزاد ہے۔ اور اس کا آج تک ان ہی لوگوں کو محافظ بنایا گیا جو اسکے خادم اور نوکر تھے اور جابروں سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

أَعْتَقَ يَعْتِقُ إِعْتِقًا - آزاد کرنا۔
عَائِكَةُ - پرانی کمان۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا نام۔ عَائِيَةٌ حد سے گزری ہوئی۔ سرکش۔
عَتَمَةُ عَشَاءُ کی نماز کا وقت۔ مَحْتَوَةٌ پاگل بے وقوف۔ عَثَانٌ ایک قسم کا پرندہ۔

عَاجٍ ہاتھی دانت۔ عَجَّاجٌ شور کرنے والا۔
عَجِبَ يَعْجَبُ عَجَبًا عَجَبٌ وَ لَوْ
تَعَجَّبَ وَ اسْتَعْجَبَ مِنْ كَسِي بَاتٍ پیر
حیران ہونا۔ کسی بات کو انوکھی یا عجیب خیال
کرنا۔ عَجِبْتُ غرور۔ تکبر خود پسندی۔

مُعْجِبٌ کھنڈی شیشی باز۔ عَجِبْتُ رَجَّحًا
انوکھا۔ غیر معمولی عجیب۔ تَعَجَّبْتُ۔ حیرانی۔ تعجب
اسْتَعْجَبْتُ تعجب کرنا یا حیرانی میں پڑنا۔
عَجِيبٌ سمجھنا۔ اَعْجَبُ الْعَجَابِ بہت ہی عجیب

أَعْجُوبَةٌ عَجَابٌ عَجِيبٌ طَرْفٌ نادر چیز
عَجَزَ يَعْجِزُ عَجْزًا بَسٌ ہونا۔ ناطق
یا نامرد ہونا۔ عَاجِزٌ کمزور ضعیف۔ اَعْجِزُ
کسی کو عاجز کر دینا۔ وہ بند پایہ۔ ناقاب مشال
فصاحت و بلاغت جس کا مثیل کوئی نہ ہو سکے
قرآن پاک معجزہ

مُعْجِزَاتٌ مُعْجِزَاتٌ - خارق عادت
واقف۔ پیغمبروں کی کرامت۔ حَسْبُونَا
وَحَجُوزَاتٌ عَجَائِزٌ بُوْرُصِي عورت کمزور
عورت۔ عَجِزٌ عاجزی۔ کمزوری۔ بے بسی
ناطاقی۔

عَجَلَ يَعْجَلُ عَجَلًا وَ عَجَلَةٌ وَ عَجَلٌ
وَ تَعَجَّلَ وَ اسْتَعْجَلَ - جلدی کرنا۔ جلد
بازی سے کام لینا۔ تَعَجَّلْتُ جلدی کرنا۔

عَجَلَةٌ جلد بازی۔ عَجَلٌ جلدی کرنے والا
مُعْجَلٌ جلدی سے ادا کیا ہوا (لہذا مہر)

عَجْمٌ جو عرب نہ ہو۔ عَجَبِيٌّ منسوب شمیم
أَعْجَبِيٌّ غیر عرب۔ ایرانی۔ پروسی۔ گونگا
مُعْجَبٌ نقطہ وار حروف یا الفاظ یا عبارت

آخراچہ غیر عرب۔ غلط عربی لفظ و اسے

أَعْجَبْتُ يَعْجَبُنَّ عَجَبًا كَوْنًا عَجَابًا
عَجَابًا عَجَابًا كَوْنًا عَجَابًا كَوْنًا
عَجَابًا عَجَابًا كَوْنًا عَجَابًا كَوْنًا
عَجَابًا عَجَابًا كَوْنًا عَجَابًا كَوْنًا

گنتی کرنا۔ اندازہ و تخمینہ کرنا۔ عَجَابًا كَوْنًا

شمار۔ حساب۔ عَجَابًا كَوْنًا عَجَابًا كَوْنًا

عَدِيدَةٌ کئی قسم کا۔ کئی طرح کا مُتَعَدِدٌ

متعدد۔ مُتَعَدِدٌ تیار۔ آمادہ اِسْتَعْدَادٌ

تیاری۔ لیاقت۔ اہلیت۔ عَدَّةٌ عِدَّتٌ مُتَعَدِدَةٌ

! بیوہ کی عدت۔

عَدَدٌ آَعَدَاةٌ - کثرت - بڑی تعداد شمار
گنتی - مقدار -

عَدُوٌّ عَدُوٌّ بِهٖ نَاقِلٌ تَوَجَّهَ نَاقِلٌ شَارَ -
مُتَعَدِّ بِهٖ - قابل توجہ جسے اہم سمجھا جائے -
قابل لحاظ -

عَدَسٌ مَسُوْرٌ - عَدَسٌ مَسُوْرٌ مَسُوْرٌ کی طرح -

عَدَلٌ يَعْدِلُ عَدْلًا وَعَدَاةٌ اَلَّةٌ وَمَعْدَلَةٌ
انصاف کرنا - برابر کرنا - عاجل عدل و انصاف
کرنے والا - عَدُوٌّ بِيْلٍ دَرَسْتِي كَرْنَا - برابری و انصاف
کے ذریعے سے ایک طرف ہو جانا - عَدِيْلٌ
برابری اختیار کرنے والا ہموار ہونا - یکساں ہونا -

عَدِيْلٌ تَوَجَّهَ عَدْلًا بِرَوَاقِعِ هُوَ - ایک جیسا
ہو کسی طرف بھگا ہوا نہ ہو - سیدھا - مناسب
متوسط - طحال - عَدُوٌّ بِرَبِّ مِثْلٍ - مشابہ -

عَدِيْلٌ مَرِيضٌ مَرِيضٌ عَدَاةٌ - نہ ہونا - معدوم ہونا
اَلْعَدَاةُ مَرِيضَةٌ هُوَ - ناپود ہونا - عَدُوٌّ مَرِيضٌ مَرِيضٌ
جس کے پاس کچھ نہ ہو - عَدُوٌّ مَرِيضٌ - وجود نہ رکھنے
والا غیر موجود - کم شدہ - تباہ شدہ - عَدُوٌّ مَرِيضٌ
نیستی - فقدان - نقصان -

عَدَنٌ - یمن کا ایک شہر - رِائِشٌ کی جگہ
ہمیشہ رہنے کا مقام - جنت - مَعْدِنٌ مَعْدِنٌ
کان - وحات - اصل - جڑ - نبع - مَعْدِنٌ مَعْدِنٌ
بہ معدن - کافی -

عَادِي يَعْدِي عَدَاةً - شہمنی کرنا -
نفرت کرنا

تَعَدَّى - حد سے تجاوز کرنا - حد سے باہر نکل جانا
مُنْتَعِدِي - بومرض ایک دوسرے کو لگ جائے
عَدَاوَةٌ - دشمنی - نفرت - عداوت - عَدُوٌّ - دشمن
بدخواہ - عَدُوٌّ اِنْ بے انصافی - دشمنی - ظلم -
اَعْدَاءُ عَدُوٍّ کی جمع - مَعَادَاةٌ - ظلم -
دشمنیاں - عداوتیں - تَعْدِيَةٌ - متعدی ہونا -
اِعْتِدَاءٌ بے انصافی - زیادتی - ظلم - مَتَعَدٍ
فعل متعدی عَادٌ - ایک قوم کا نام ہے -

عَذِيْبٌ بِهٖمَا - عَذَابٌ سِزَا - مصیبت -
مُعَذِّبٌ عَذَابٌ دِيْنٌ وَالَا - مُعَذِّبٌ حَسْبٌ
عذاب وار دکیا جائے - تَعَذِّبُ عَذَابٌ يَاسِزَا
دینا -

عَدُوٌّ يَعْدُوُّ عَدُوًّا وَمَعْدُوَّةٌ الزَّامُ
سے پری کرنا - معاف کرنا - عذر قبول کرنا -

اِعْتَدَاةٌ عَذْرٌ كَرْنَا - مَعْدُوَّةٌ عَذْرٌ
مَعْدُوَّةٌ - معافی دیا گیا - عذر والا - تَعَدُّرٌ
ناممکن ہونا - وقت - عَدَاةٌ عَدَاةٌ كِنُوْرِي
عورت - عَدُوَّةٌ بَكَرَت - عَدَاةٌ رِخْسَاةٌ كَال
مُنْتَعِدِي مَعْكَل - صعب - عَرَبٌ اَعْرَابٌ
ملک عرب کا رہنے والا - عربی - عَرَبِيٌّ مَلِكٌ عَرَبٍ
باشندہ - اَعْرَابِيٌّ اَعْرَابٌ - بَدُوٌّ - جنگل میں
رِائِشٌ رکھنے والا - عَرَبٌ اَلْعَرَبِيَّةُ خَالِصٌ نَسْلٌ
کے عرب باشندے - مَعْرَبٌ عَرَبِيٌّ بَنِيَا هُوَا -

تَعْرِيْبٌ عَرَبِيٌّ بَنَانَا - اَعْرَابٌ زِيْرٌ بِيْشٌ كَالْبَنَانَا

مُعَرَّبٌ وہ لفظ جس پر ہر قسم کا اعراب آسکے
اعْرَابٌ کوئی حرکت یعنی زیر زبر پیش وینا۔
الْعَرَبِيَّةُ عَرَبِيٌّ زبَانٌ عَرَبِيَّةٌ كَالْيَاسِيَّةِ
الْعَرَبِ الْمُتَعَرَّبِيَّةُ وَالْمُسْتَعَرَّبِيَّةُ
وہ لوگ جو خالص عرب نسل کے نہ ہوں۔ بلکہ عرب بن
گئے ہوں۔

عَرَبٌ يَعْرَبُ عُرُوجًا اوپر چڑھنا۔
مَعْرَابٌ مَعَارِبٌ سیرھی۔ نروبان۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ روحانی کشف کا واقعہ
جس میں آپ کو ذاتی اور آپنی اُمت کی ترقیات
اور عروج دکھایا گیا۔ آعْرَابٌ۔ لنگڑا۔

عَرَادَةٌ توپ۔ گاڑی۔ منجیق۔ پتہ۔
عُرُوشٌ عُرُوشٌ سُسُ دُہن۔ ڈولہا۔ نوشہ
عُرُوشٌ ولیمہ۔ عُرُوشٌ مَسُوبٌ بَعْرُوسٌ
عَرَشٌ يَحْرُشُ عَرَشًا انگر کی بیل
کو چھپر پر چڑھانا۔ عَرَشٌ عُرُوشٌ تَحْتِ
چھت۔ چھپر۔ اَلْعَرَشِ مَرَادُ حُكُومَتِ
مَدَاوِنَدِيٍّ وَاَنْتِظَامِ حُكُومَتِ وَاِبَادَتِهَا۔

عَرَشٌ شَدٌّ جہاز کا چھت۔
عَرَشَةٌ عَرَشَاتٌ صحن۔ وہ گھسی جگہ
جس کے گرد اگر وہ مکانات ہوں، مارت، بازار
بزبان اردو۔

عَرِضٌ يَعْزِضُ عَرِضًا واقع ہونا، ظاہر
کرنا۔ پیش کرنا۔ عَارِضٌ واقع ہونے والا

مَعْرُوضٌ پیش کیا ہوا۔ گذارش۔
اِعْتِرَاضٌ مقابل میں آنا۔ مخالفت۔ اعتراض
تردید۔ مدافعت۔ مُعْتَرِضٌ مخالفت کرنے والا
رکاوٹ ڈالنے والا۔ مَعْرُضٌ ظاہر ہونے کا مقام
یا واقعہ۔ مَعَارِضٌ مخالفت۔ تردید۔ رکاوٹ
عَرِضٌ شَعْرٌ بِحَرِّ عَرِضٌ يَعْنِي شَعْرٌ كَوْنِي كَمَا عَلِمَ
عَارِضَةٌ عَوَارِضٌ حاجت۔ ضرورت۔
پیش آنے والا حادثہ۔ عَرِضٌ شَعْرٌ شَعْرٌ شَعْرِيٌّ
کا عالم۔ جَبَلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ جو جگہ پر آتا
عَرِضٌ پورا۔ عَارِضٌ معمولی۔ اَعْرَابٌ بات
سمجھانے کے لئے اشارہ کرنا۔

عَرَفَ يَعْزِفُ مَعْرِفَةٌ وَعَرَفَ زَانَا
جاننا۔ کسی چیز سے واقف ہونا۔ اَعْرَافٌ
تعارُفٌ۔ اپنے آپ کو پہچاننا۔ اَعْرَافٌ
تسبیح کرنا۔ کسی بات کا اقرار کرنا۔ اَعْرَافٌ
حقیقی۔ عَارِضٌ ذَاتُ عَالَمٍ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ

اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
کا علم۔ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ

اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ
اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ اَعْرَافٌ

مَعْرِقَةٌ - ہم معرق ہو کر نہ ہو۔ اَلْأَعْرَاقُ
 بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام۔
 عُرْقٌ - جو عام طور پر مشہور ہو۔ مستعمل ہو۔ ایک
 فارسی شاعر کا تخلص۔ عَمْرُؤُا - سرو کا درخت۔
 عَمْرُقٌ بِلَعْرُقٍ - عَمْرُقٌ قَا پینہ کلنا۔ رطوبت
 بہنا۔ عَمْرُقٌ کَشِیدِیَا ہوا عَمْرُقٌ پینہ۔
 عَمْرُقُ الْمَسَادِ لنگڑی کا درد۔ رنگین۔ وہ درد
 جو ران اور ٹانگہ میں ہوتا ہے۔ عَمْرُقٌ وَجَلٌ اور
 قرانت کے درمیان کا علاقہ مَعْرَقٌ پینہ اور روا
 تَعْرِیْقٌ پینہ لانا۔ عَمْرُقٌ بھانا۔ عَمْرُقٌ جِ عَمْرُقٌ
 لگ۔ نس۔ جِڑ۔ مَعْرُقٌ لَوَانِی کا میدان۔ ج
 مَعْرَادِکٌ۔ عَمْرُقٌ کُڑا۔ دستہ۔ ٹیک۔ بخونی۔
 عَمْرُقٌ نَزْکَا۔ پر ہنہ۔ خالی جِ عَمْرُقٌ۔ اردو میں
 عَمْرُقٌ نَزْکَا پین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
 مَعْرُقٌ نَزْکَا۔ پر ہنہ۔ خالی۔ عَمْرُقٌ شَرْمٌ پچھلی ہٹ
 عَمْرُقٌ بِلَعْرُقٍ بطور اور عَمْرُقٌ ہونی چیز مَعْرُقٌ
 اور عَمْرُقٌ ہونی۔ اس میں عَمْرُقٌ جو حقیقت پر
 بنی نہ ہو بلکہ بطور مجاز کے ہو۔ عَمْرُقٌ نَزْکَا پین۔
 عَمْرُقٌ بِلَعْرُقٍ۔ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ قوی ہونا۔ طاقتور
 ہونا۔ آبرو والا ہونا۔ عَمْرُقٌ بِلَعْرُقٍ طاقتور۔ شریف۔
 اپنی رفعت میں۔ بِلَعْرُقٍ عَمْرُقٌ مَضْرُوبٌ مہر کا
 حاکم۔ وزیر۔ اَلْعَمْرُقِی تریش کی ایک بیوی کا نام
 عَمْرُقٌ شَرَفٌ۔ عزت۔ شمع۔ مَعْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ
 والا۔ غلہ بخشنے والا۔ مَعْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ
 عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ

أَعْرَاقٌ۔ پیارے۔ عزیز۔ محبت۔ عَمْرُقٌ التَّقْسِ
 خود داری۔ عَمْرُقٌ یَعْمُرٌ عن روٹنا۔ عَمْرُقٌ
 تَعْمُرٌ بِلَعْرُقٍ۔ سزا دینا۔ لعن طعن کرنا۔ کوڑے لگانا
 تَعْمُرٌ بِلَعْرُقٍ تَعْمُرٌ بِلَعْرُقٍ۔ سزا جو حاکم مقرر کرے
 شرعی سزا کے علاوہ تنبیہی سزا۔
 عَمْرُقٌ رِثِیلٌ۔ لاکھ موت۔ موت کا فرشتہ۔
 عَمْرُقٌ یَعْمُرٌ۔ عَمْرُقٌ۔ بر طرف کرنا کہیں
 علیحدہ کرنا۔ معزول کرنا۔ عَمْرُقٌ علیحدگی
 گوشہ نشینی۔ بے تعلقی۔ الگ تھمنا کہ رہنا۔
 عَمْرُقٌ۔ جسے کسی عہدہ سے علیحدہ کر دیا جائے
 کسی عہدہ سے بر طرف کیا ہوا۔
 عَمْرُقٌ علیحدہ یا الگ تھمنا ہو جانے والا۔
 اَلْمَعْمُرٌ۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو باقی
 اہل اسلام سے الگ ہو گیا۔
 عَمْرُقٌ یَعْمُرٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ کسی کام
 کا چختہ ارادہ کر لینا۔ کسی کام کا فیصلہ کرنا۔
 عَمْرُقٌ۔ چختہ ارادہ۔ پکا عہدہ منبیط قصد۔
 عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ عَمْرُقٌ
 بادو عمل۔ عَمْرُقٌ ارادہ کرنے والا۔
 عَمْرُقٌ یَعْمُرٌ عَمْرُقٌ مصیبتوں میں
 صابر رہنا۔ تَعْمُرٌ صبر کی تلقین کرنا۔ تسکین
 دینا۔ نسلی دینا۔ ماتم پر سی کرنا۔ عزاداری کرنا۔
 کسی کے مرنے پر تشییع دینا۔ یَعْمُرٌ شہد کی
 لکھیوں کا بادشاہ۔ بڑا رئیس۔ سردار۔ آقا۔ عَمْرُقٌ
 سونا۔ خواہر

عَشِيرٌ يَعْتَدِرُ عَشْرًا مُشْكِلٌ هَوْنًا يَحْتَبُونَ
 تَنْكِيٌّ هَوْنًا - عَشْرَةٌ تَنْكِيٌّ - غَرَبَتْ - بے چارگی -
 عُنْدٌ - مَعْصِمَةٌ - تَنْكَدَسَتْ - کنڈکال - غَرِيبٌ مَقْلَسٌ
 مَسِيئَةٌ - مُشْكِلٌ - يَحْتَبُ - بے چیدہ - عَسْكَرٌ فَوْجٌ
 لَشْكِرٌ - عَشْرَةٌ سِيَاهِيٌّ - لَشْكِرِيٌّ - فَوْجِيٌّ -
 مَعْصِمَةٌ - چھاوٹی - فَوْجٌ كَا كِيمِپٌ - عَشْرَاتٌ
 شام کے ساحل کا ایک شہر - عَمَلٌ - شہد تازہ
 کچوروں کا رس - عَسَلِيٌّ شہد کی مانند -
 عَسَلِيٌّ افعال مقاریہ میں سے ہے بمعنی امید
 اور نزدیک ہونا - عَسَلِيٌّ آثٌ - امید ہے کہ -
 شاید کہ - یہ ایک فعل ہے جو امید یا خواہش ظاہر
 کرتا ہے جس کے بعد ضمیر یا کوئی اہم ہو کر تاسے
 کہنی آث بھی ہوتا ہے -

عَشْرٌ گھونسل - پرندے کا آشیانہ -

عَشْرٌ يَعْتَدِرُ عَشْرًا - دسواں حصہ وصول
 کرنا - عَاشِرٌ مَعَاشِرَةٌ کسی کے ساتھ ملا کر
 میں جوں رکھنا - بے تکلفی کی ملاقات رکھنا - عَشْرٌ
 دسواں حصہ جمع آئندہ عَشْرَةٌ بَابِ مِيلٍ
 ملاپ - دوستی - رفاقت - عَاشِرٌ دسواں نمبر
 عَشْرُونَ مِائِسٌ - عَاشِرٌ آئندہ محرم کا دسواں
 دن - عَشِيرَةٌ رَفِيقٌ - دوست - عَشِيرَةٌ قَبِيلَةٌ
 گوت مَعْشَرٌ - قوم - جماعت - مَعْشَرٌ دسواں
 حصہ - عَشْرٌ عَشِيرٌ دسواں حصہ بے حصہ
 آعْشَارِيٌّ - علامہ : اغشاریہ - مَعْشَرٌ رَفِيقٌ

مَعَاشِرَةٌ رِفَاقٌ - بے تکلف دوستی - ظَلَامٌ
 عَشِيقٌ يَعْشِقُ عِشْقًا بَهِتٌ مَحَبَّتٌ كَرْنَا
 محبت میں حد سے گزرنا - تَعْشِقٌ عَشِقٌ كَا اَنْهَارٌ كَرْنَا
 عشق جتلانا - عَاشِقٌ مَحَبَّتٌ كَرْنَا وَالَا - مَعْشِقٌ
 جس سے محبت کی جائے - عَشْقَانٌ عَاشِقٌ كِي جَمْعٌ
 عَاشِقَةٌ بَاهِمٌ اَبْهَمٌ دوسرے سے عشق کرنا -

عَشِيٌّ يَعْشِيٌّ وَتَعْشِيٌّ رَاتٌ كَا كَمَا اَكْمَأُ
 عَشَاٌ وَعَشَاوَةٌ شَبٌّ كُورِيٌّ - رَاتٌ كِي قُوتٌ
 کچھ دکھائی نہ دینا - عَشَاٌ شام کا کھانا - طَحَامٌ شَبٌّ
 صَلَوَةٌ اَلْعَشَاءُ نَمَازٌ خَفَلَنَ -

عَصَبٌ يَعْصِبُ عَصَبًا - پٹی باندھنا -
 تَعْصِبُ كَسِيٌّ اَصْوَابٌ كِي نَبَايَتٌ عَصَبٌ اَوْ كَسِيٌّ اَصْوَابٌ
 کے ساتھ تائید کرنا - اِبْنِيٌّ رَسْمٌ عَصَبٌ عَصَبِيٌّ
 جمع آٹھ اَبْطٌ پٹھا - نَسٌ - عَصَابٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ

اَنْتَعَصِبُ وَهَمٌّ بَدِيٌّ كَرْنَا وَالَا - اَبْطٌ
 عَصَبِيٌّ نَسُوْبٌ عَصَبٌ عَصَبِيٌّ اَبْطٌ
 داری - اِبْنِيٌّ پارٹی کی ط فراری - حَايَةٌ اَبْطٌ اَبْطٌ

عَصَاٌ يَعْصِبُ عَصَاٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ
 چوڑے ٹوٹے کے لیے اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ
 کا وقت - عَصَابٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ
 عَصْفَرٌ كَسْمٌ كَارَنَكٌ - وَرَنَكٌ مَعْصَرٌ
 کسم سے رنگ ہوا - عَصْفَرٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ

عَصَمٌ يَعْصِمُ عَصَمًا - بچان - حَفَلَتُ
 کرنا - عَصَمَةٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ

عَصَمَةٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ اَبْطٌ

عَطِفَ يَعْطِفُ عَطْفًا وَعُطُوفًا إِلَى مَأْخُذٍ
ہونا۔ جھکنا۔ مڑ جانا۔ اِنْعَاطِفُ جھکنا۔ مڑنا۔ مائل
ہونا۔ مُنْعَطِفٌ جھکنے والا۔ مائل ہونے والا۔
عُطُوفَةٌ وَعَاطِفَةٌ عَوَاطِفٌ۔ رحم
ہمدردی۔ رشتہ۔ طرفداری۔ شفقت۔
عَطْفٌ وَحَرْفٌ عَطْفٌ وہ حرف جو جملوں یا
کلموں کو ملانے کا کام دے۔ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ
عطف کیا گیا۔

عَطَلٌ يَعْطِلُ عَطْلًا لَئِيْلٌ بَعْدَ كَارٍ
ہونا۔ تَعَطُّلٌ بے کار کر دینا۔ مُعْطَلٌ
بے کار کیا ہوا۔ کسی کام سے فارغ کیا ہوا۔ تَعَطَّلُ
بند کر دینا۔ بے کار ہونا۔ عَطْلَةٌ جھٹی۔ تعطیل
بے کاری۔ فرصت۔ رخصت۔

عَطَا يَعْطُو عَطْوًا لَا تَخْفَ مِنْهَا
آعْطَى يُعْطِي اِعْطَاءً دِينًا تَخْفَ نَحْشًا
تَعَطُّيَةٌ نَحْشٌ مَعْطِيٌّ دِينَ وَالْاِحْشَاءُ
عَطَاةٌ عَطَايَا نَحْشٌ رِزْقٌ عَطَا
عَظْمٌ يَعْظُمُ عِظْمًا وَعِظَامَةٌ بَرٌّ
ہونا۔ عَظْمٌ عِظَامٌ بَرٌّ عَظِيمٌ بَرٌّ
آعْظَمٌ بَرٌّ بَرٌّ عِظْمَةٌ بَرٌّ مَعْظَمٌ
تعظیم کیا ہوا۔ عَظِيٌّ بَرٌّ تَعْظِيمٌ بَرٌّ
عَفْفٌ يَعْفُ عَفْفًا وَبِقَافٍ نَابِزٌ كَامٌ
بچنا۔ پرہیزگار ہونا۔ عَفِيفٌ مَوْنٌ عَفِيفٌ
نَابِزٌ يَاتُونَ سَعْفًا وَالْاِعْفُؤُ نَحْشٌ وَالْاِعْفُؤُ

عَاصِمَةٌ وَارِ الْخِلَافِ عَاصِمٌ بِيَانٍ وَالْاِعْصَامُ
مُعْتَصِمٌ بِنَاهٍ وَهُوَ نَدْوَةٌ وَالْاِعْصَامُ

عَصَا وَنَدَا لَهْطٌ جَهْرٌ
عَصِيٌّ يَعِصِي مَعْصِيَةً نَافِرًا كَرْنَا
اطاعت سے نکلنا۔ عَاصِيٌّ نَافِرًا كَرْنَا وَالْاِعْصَامُ
عِصْيَانٌ نَافِرًا بِمَعْصِيَتِهِ مَعْصِيَةٌ ج
مَعْصِيَةٌ كِنَاةٌ لَفْزٌ

عَضَدٌ يَعْضُدُ عَضْدًا اِدْوًا كَرْنَا اِدْوًا
عَضْدًا مَرَجٌ اِعْضَادٌ مَوْزٌ عَا كِنْدَهَا مَعْضَدٌ
جس سے مدد حاصل کی جائے۔

عَضَلٌ يَعْضِلُ عَضْلًا رُكْنًا
مَعْضَلَاتٌ مَشْكَلٌ مَسَاكِلٌ وَاحِدٌ مَعْضَلَةٌ
عَضْرُجٌ اِعْضَاءٌ جِسْمٌ كَاحْتِصَانٍ جَوْرٌ كَسِيٌّ عَمَّا
کارکن۔ جماعت۔ کافر۔

عَطِرٌ يَعْطُرُ عَطْرًا مَهْكًا نَوْشِبُودًا
عَطْرٌ عَطْرٌ عَطْرٌ نَوْشِبُودٌ عَطْرٌ
فَرْوَشٌ كَنْهِيٌّ بِنَسَارِيٍّ مَعْطَرٌ نَوْشِبُودًا كَرْنَا
ہوا۔ تَعَطُّرٌ نَوْشِبُودًا كَرْنَا كَسِيٌّ كَوْشِبُودًا كَرْنَا
عَطَارَةٌ سَبِيحٌ اَبِيٌّ سَبِيحٌ كَانَامٌ
عَطِيسٌ يَعْطِيسُ عَطِيسًا جَبِيحٌ لِينًا
مَعْطِيسٌ جَبِيحٌ لَانِيٌّ دَوَا عَطِيسَةٌ وَ

عَطِيسٌ جَبِيحٌ لِينًا
عَطِيسٌ يَعْطِيسُ عَطِيسًا بِيَا سَا هُونَا
عَطِيسٌ بِيَا سَا عَطِيسٌ بِيَا سَا كِي مَرِيضٌ بِيَا سَا
کے پیاسے کی بیماری

لَهُ عَفْوَةٌ بَدَلٌ تَعْفُونُ بَدَلٌ يُوَدُّ هُونًا مَتَعْفُونٌ بَدَلٌ يُوَدُّ هُونًا

عَافِيَةٌ تندرستی۔ صحت۔ اِسْتِعْفَاءٌ سبکدوشی۔ کسی خدمت سے علیحدگی کی خواہش۔ مُعَاْفَاةٌ تندرستی۔ صحت۔ عَفُوٌّ درگذر کرنا۔ مُعَاْفِيٌّ صحت دینے والا۔ عَافِيَةٌ عطا کرنے والا۔

عَفْرِيَّتٌ جمع عَفَارِيَّتٌ۔ دیو۔ شیطان۔ عَقِيْقٌ۔ ایک قسم کا قیمتی پتھر۔ عَقُوْقٌ والدین کی نافرمانی۔ عَاقٌ۔ نافرمان بے ادب۔

عَقِيْقَةٌ۔ وہ جانور جو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ساتویں دن ذبح کیا جاوے۔

عَقَبٌ يَعْقِبُ عَاقِبَةٌ۔ قائم مقام ہونا کسی کی جگہ لینا۔ جَانِثِيْنٌ۔ عِقَابٌ۔ عذاب سزا۔ عَقَبٌ پیچھے۔ اِیْرِيٌّ۔ عِقَابٌ۔ تَعَاْقَبٌ پیچھا کرنا۔ مُتَعَاْقِبٌ پیچھا کرنے والا۔ عَاقِبَةٌ آخرت۔ پیچھے آنے والی۔ اِنْحَامٌ۔ مُعَاْقِبَةٌ سزا دینا۔ عُقْبِيُّ۔ آخرت۔ جِزَارٌ عِقَابٌ گدھ۔ يَعْقُوْبٌ۔ نر چکور۔

عَقْدٌ يَعْقِدُ عَقْدًا۔ گرہ باندھنا۔ عَقْدٌ گرہ۔ معاہدہ۔ عَقْدًا گرہ۔ وعدہ۔ معاہدہ۔ عَقِيْدَةٌ عَقَائِدٌ۔ اعتقاد۔ ایمان۔ اِعْتِقَادٌ وِھْمٌ۔ ایمان۔ عقیدہ۔ اِنْعِقَادٌ طے ہو جانا۔ مُنْعَقِدٌ انجام کو پہنچنے والا۔ طے ہونے والا۔ مُعَقَّدٌ الجھا ہوا۔ عَاقِدٌ عقد کرنے والا۔ مُعْتَقِدٌ عقیدہ یا اعتقاد رکھنے والا۔ پابندی کرنے والا۔ تَعْقِيْدٌ گرہ باندھنا۔

عُقْرٌ بانجھ ہونا مرویا عورت کا۔ عَاقِرٌ مَوْنٌ عَاقِرَةٌ بانجھ مرویا عورت۔ مُرْتَقِيٌّ۔ بانجھ بنانے والا۔ عَقَائِيْرٌ جڑی بوٹیاں۔ عَقْرِيْكٌ عَقَارِيْبٌ بچھو۔ ایک بُرُج کا نام۔ گھنٹے یا گھڑی کی سوئی۔ عَقْلٌ ج عَقُوْلٌ عقل۔ سمجھ۔ دماغ۔ عَاقِلٌ ج عُقْلَاءٌ عقلمند۔ سمجھ دار۔ عَقِيْلَةٌ عقلمند عورت۔ مَعْقُوْلٌ۔ درست۔ صحیح۔

مَعْقُوْلَاتٌ سمجھ میں آنے والی باتیں۔

عُقْمٌ بانجھ پن۔ عَقِيْمَةٌ بانجھ عورت۔

عَكَّةٌ شام کا ایک شہر جو بہائی فرقہ کا مرکز ہے۔ عَكْسٌ يَعْكِسُ عَكْسًا۔ اُلْطُ پلٹ کر دینا۔ مَعْكُوْسٌ اُلْطَا یا ہوا بِالْعَكْسِ اُلْطُ بِرُغْلًا بِرَعَسٍ۔ عَكْسٌ وَ اِنْعَاكٌ۔ فُوْءٌ تَصْوِيْرٌ لِيْنَا۔ مُنْعَكِسٌ تَصْوِيْرِيًّا فُوْءًا اِنْعَاكًا۔

عَكْفٌ يَعْكِفُ عَكْفًا۔ ٹھہرنا۔ کون بند کرنا۔ اِسْتِعْكَافٌ کسی مسجد یا مکان میں عبادت الہی کے لئے تنہا بیٹھ جانا۔ اِسْتِعْكَافٌ عِبَادَةُ اِلٰہِي كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اِسْتِعْكَافٌ۔ عِبَادَةُ اِلٰہِي كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اِسْتِعْكَافٌ۔ ٹھہرنے والا۔

عِلَّةٌ مرض۔ جَانِبٌ اِسْتِعْكَافٌ۔ عِلَّتٌ بِ كَسِيٍّ شَيْءٌ كَوَعَلْتُ بِ سَبَبٍ بَدِيْءٍ يَأْوِيْهِ قَارِيْنًا۔ عِلِيْلٌ۔ بیمار۔ مَرِيْضٌ۔ اِعْلَالٌ تَعْلِيْلٌ حُرُوفٌ عِلَّتْ كِي تَبِيْلِيٌّ نَفٌ ہونا۔ اَوْلَا بَدَنًا۔ حُرُوفٌ اِلْعَلَّةِ۔ اَلْفٌ۔ اَوَاوِيٌّ۔

مَعْلُولٌ - علت والا - عَلَا لَنَّهُ بِجَارِي - وَكَمْ
 عِلَّتُ الْعِلَلِ - اصل باعث اور سبب -
 مُعْتَلٌ - وہ لفظ جس میں کوئی حرف علت یعنی
 الف - واو - اور یا میں کوئی ایک ہو -
 عَالِمٌ مَعَالِمَةٌ وَعِلَا جَا بِجَارِي كَيْ دَوَا
 كَرْنَا - مُعَالِمٌ مَلَّحٌ يَدُوَا كَرْنَهُ وَالَا - عِلَّاجٌ وَ
 مُعَالِجَةٌ وَارُوَا وَرَمَن - دَوَا وَاوَا - بِيَارِي كَا
 مَلَّحٌ - تَابِيرٌ - عِلَّازِقَةٌ جَارَةٌ مَعْلُوتٌ كَهْرَبِي -
 عَلِيٌّ نِيضَانِي عِلْفَانِي جَمِينَا - لِسْكَانَا بِكِرْمَانَا
 عِلَّافٌ تَعَانِي - بِيَارِي - لِكَاوُ - تَعَلَّقُ ج
 تَعَلَّقَانِي - لِكَاوُ - بِيَارِي - مَعْتَلِقٌ - لِسْكَانَا
 جَمَانَا هُوَا - عِلَّاقَةٌ جَ عِلَّاقِيٌّ - جَمْت - تَعَلَّقُ
 عِلْفَانِي جُونِك - مَعْلُوتَةٌ وَهُوَ عَوْرَتٌ حَسْبُ خَاوَنَد
 نَهْ طَلَقٌ وَكَمْ نَسَاكِي - مَعْلُوتَانِي لِسْكَانِي
 جُونِي تَعَلِّقِي - مَخْتَصِرٌ كَرْنَا - تَعَالِيقَةٌ كِتَاب
 كَا حَاشِيَةٌ - كِتَابُ كَا شَمِيمَةٌ - مَعْلُوتَةٌ - حَنْظَلٌ مَرَّةً
 عَلِمَ - يَعْلَمُ عَلَمًا - نَشَانُ كَرْنَا - عَلِمَ
 يَعْلَمُ عَلَمًا جَانَا - عَلِمَ كَمَا - يَقِينُ كَرْنَا -
 عَلِمَ يَعْلَمُ تَعَالِيمًا - سَكْمَانَا تَعْلِيمِيَا
 تَعْلَمَ يَتَعَلَّمُ تَعَلَّمَ مَا يَكُونُ - تَعْلِيمُ
 حَاصِلُ كَرْنَا - عَلِمَ جَ عَلُوْمٌ وَاقْفِيَّتِ عِلْمٌ وَ
 عَمَتٌ - عَلِمَ جَ أَعْلَامٌ نَشَانُ اسْمُ عَلَمٍ -
 عِلْمِيٌّ نَسُوبٌ بِعِلْمٍ - عَالِمٌ جَ عَلَمَاءُ جَانِي
 وَالَا - عَالِمٌ جَ عَوَالِمٌ وَنِيَا - عَالِمٌ عَلَامَةٌ نَشَانِي

عَلَامٌ وَعَلَامَةٌ زِيْرُوسْتِ عَالِمٌ وَفَاعِلٌ
 عَلِيمٌ - جَانِي وَالَا - أَعْلَمُ خُوبٌ جَانِي وَالَا
 تَعْلِيمٌ تَعَالِيمَاتٌ وَتَعَالِيمٌ سَكْمَانَا -
 مَعْلَمٌ مَعَالِمٌ - آثَارٌ - نَشَانِي - مَعْلَمٌ سَكْمَانَا
 هُوَا - مُعَلِّمٌ أَسْتَاذٌ - مَعْلُوْمٌ جَانَا هُوَا - مَشْهُورٌ
 فَعْلٌ مَعْرُوفٌ - اِسْتَعْلَامٌ عِلْمٌ جَانَا هُوَا -
 عَلَنَ يَعْلَنُ - عِلَانِيَةٌ - مَشْهُورٌ هُوَا -
 عَامٌ هُوَا - اِعْلَانٌ اِنْهَارُ كَرْنَا مَشْهُورُ كَرْنَا جَمَلَانَا
 مُعْلِنٌ - اِعْلَانُ كَرْنِي وَالَا - عِلَانِيَةٌ كَهْلُمُ كَهْدَانَا
 عَلِيٌّ يَعْلُوَا عَلُوًّا - اَوْنَجَا هُوَا - بَلَنْدٌ هُوَا
 عَلُوٌّ بَلَنْدِي - عَالِيٌّ بَلَنْدٌ - اِعْلَاءٌ بَلَنْدُ كَرْنَا -
 اِسْتِعْلَاءٌ بَلَنْدِي جَانَا هُوَا - اَعْلَى بِهْتِ بَلَنْدِي -
 عَمِيٌّ بَلَنْدٌ اَوْرِشَانُ وَالَا - تَعْلَانُ بَلَنْدِي كَا دَعْوِيَا
 بَرَانِي كِي دُونِيكُ بَارْنَا - عَلُوِيٌّ - حَضْرَتُ عَلِيٍّ رَضِيٍّ اَشْرَفِ
 عِنْدُ كِي اَوْلَادُ كَا اِيكُ فَرْدٌ - تَعَالَى وَهُوَ بَلَنْدٌ هُوَا -
 مَنَعَالٌ بَلَنْدٌ اَوْرَفُجٌ - اَعْلَى مُؤَنَّثٌ عُلْيَانٌ
 اَعَالِيٌّ بَلَنْدٌ - عِلَاءٌ بَلَنْدٌ مَرْتَبَةٌ - عِلَاوَةٌ اِمْنَانَةٌ
 زَاوَدٌ جِيَزٌ - عِلْيَانٌ - اَسْمَانٌ مِيں سَبْ بَلَنْدٌ مَقَامٌ
 عَلَوَانٌ - عِنْوَانٌ - سِرْنَامَةٌ - سِرْحَانِي -
 عَلِيٌّ يَعْلِيٌّ عَلِيًّا وَعُدِيًّا - جُرْهُنَا - جُوْطِيٌّ بَرَجَانَا

لُغَةُ الْعَرَبِيَّةِ الْاَسَاسِيَّةِ بِاخْلَاصَةِ الْمُتَجِدِّدِ رُوَسُلِ
 چھتار ہے گا - اور نئے سال کی جلد دوم کے پچھے رسالہ
 میں بھی چھپ رہا ہے - خریدار آرڈر بھیج کر منگوائیں -

مینجر

تعلیم القرآن المجید

اپریل تا ستمبر ۱۹۲۹ء

لغات العربیۃ الاساسیۃ یعنی تلخیص العربیۃ یا خلاصۃ المتجددو

عَامٌ - عام۔ جو خاص نہ ہو جمع عَوَامٌ عَامَّةُ النَّاسِ
عام لوگ۔ سب لوگ۔ عَامِیٌّ - عامی۔ اُن پڑھ سناؤ
عَمِیْمٌ - عام۔ عالمک۔ اَعْمَدٌ - زیادہ عام۔ مَعَمَّہ
پگھلی والا۔ سردار بنایا ہوا۔

اَعْمَشٌ - کمزور دُھندلی نظر والا۔

عَمَدٌ - یَعْمَدُ - عَمَدًا - سہارا لینا۔ عَمَدٌ وَ
تَعَمَّدٌ وَ اِعْتَمَدَ لِی وَ اِلٰی قَصْدٍ کَرْنًا اِرَادَہ کرنا۔
اِعْتِمَادٌ - کسی پر سہارا لینا۔ ٹیک لگانا۔ بھروسہ کرنا۔
عَمَدٌ وَ تَعَمَّدٌ - ارادہ۔ عزم۔ منصوبہ۔ قصد۔
عَمَدًا - جان بوجھ کر۔ بِالْاِرَادَہ عَمَدًا - ستون ٹھونکی
ٹیک۔ عِمَادٌ - وَ عِمَادَةٌ وَ اِعْتِمَادٌ - بیٹھ
عُمُودٌ - کھمبا۔ ستون۔ عَمِیْدٌ - قوم کا خاص آدمی۔
حَطٌّ - عُمُودِیٌّ خط عمودی۔ مَعْتَمَدٌ - قائم مقام
نمائندہ۔ نائِبٌ - تَعَمَّدٌ - ارادہ۔ قَصْدٌ -

عَمْرٌ - یَعْمُرُ عَمْرًا - آباد کرنا۔ اَعْمَارٌ - آبادیاں
عِمَادَةٌ - آبادی کرنا۔ اَعْمَارٌ - آبادیاں۔ اَعْمَارٌ - آبادیاں
تعمیر کرنے والا۔ اَعْمَارٌ - آبادیاں۔ اَعْمَارٌ - آبادیاں
عَمْرٌ وَ عُمُرٌ - اَعْمَارٌ - عمر۔ زندگی۔ زمانہ جیسا
مَعْمَرٌ - عمر دیا ہوا۔ ایسی زندگی والا۔ عُمُرٌ - کائنات
کا نفل جی جو ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں طواف کعبہ
اور صفا و توہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔

عَلٰی - اوپر۔ پر۔ ساتھ۔ واسطے۔ لئے۔ اگرچہ۔ از بسکہ۔
حالانکہ۔ گو۔ مطابق اس کے حرفِ جار ہے۔ مندرجہ ذیل
معنوں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) اِسْتَعْلَاً جیسے عَلٰی
ظَهْرِ الدَّابَّةِ (گھوڑے کی پیٹھ پر) (۲) مَصَاحِبَةً
جیسے بَدَلِ الْمَالِ عَلٰی فَقْرِهِ (اس نے مال باوجود
احتیاج کے خرچ کیا) (۳) بِمَعْنٰی عَنِ جیسے رَضِيَ عَلَيَّ
(اس سے خوش ہوا) (۴) بِمَعْنٰی تَعْلِيلٌ جیسے عَلٰی مَا
تَضَرَّبْتَنِيْ مَجھے کیوں مارتے ہو؟ (۵) بِمَعْنٰی ظَمَّ فِت
جیسے دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰی غَمَلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا
شہر میں بے خبری میں داخل ہوا۔ (۶) مَوَافَقَتِ بَاءٍ جیسے
اَزْكَبَ عَلٰی اِسْمِ اللّٰهِ - خدا کا نام لے کر سوار ہو (۷)
بِمَعْنٰی اِسْتِزَاكٍ جیسے عَلٰی اِنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ
مِّنْ بَعْدِهِ۔ لیکن گھر کا قرب دُوری سے بہتر ہے (۸)
کبھی مَن کے بعد تَوْفِقٌ کے معنی دیتا ہے۔ جیسے اَقَامَ
مَنْ عَلٰی جَنَاحِ الْهَيْكَلِ وَہ ہیکل کے بازو پر کھڑا
ہوا۔ عَلَيَّهٖ وَ بِيْہ۔ وہ مجھے دے دو۔ عَلَيْكَ زَيْدًا
زید کو چھٹا بناؤ۔

عَمْرٌ يَعْمُرُ عَمْرًا - عام ہونا۔ حاوی ہونا
تَعَمَّرَ - عام باندھنا۔ عَمَّرَ جِجَا۔ عَمَّةٌ پھوپھی ج
اَعْمَامٌ - عَمَّاتٌ - عَمَامَةٌ ج عَمَامَةٌ پگھلی
دستا۔ عَمُومًا۔ عام طور پر۔ عَمُومِيٌّ عام غیر مخصوص
آبادیاں

عَمَّانُ حرفاً جار ہے اس کے معنی امثلہ ذیل سے ظاہر ہیں (۱) عجاوزت کے لئے جیسے تَرَكَتْلُ عَنْ مَكَانٍ فِيهِ ضَيْمٌ۔ اس جگہ سے آگے گزرا جس میں ظلم ہو۔ (۲) بَدَلٌ جیسے يَوْمٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے گی (۳) تَغْلِيلٌ جیسے مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ اضْطِرَّارٍ۔ اس نے اس کو بے بس ہو کر کیا۔ (۴) بعد جیسے عَنْ قَلِيلٍ تَرَى۔ تھوڑی دیر کے بعد تو جان لیگا (۵) اِسْتَعْلَاءٌ جیسے اَحْبَبْتُ اِلْحْسَانَ اِلَى الْفُقَرَاءِ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ میں نے فقروں پر احسان کرنے کو کثرت سے نماز پڑھنے پر ترجیح دی (۶) اِسْمٌ بِعَيْنِ جَانِبِ جَلَسَ۔ عَنِ يَسَادِ الْخَلِيفَةِ وہ خلیفہ کی بائیں جانب بیٹھا۔ عَنِ وَعَنِ بعینہ ہی طرح عَنَّ وَعَنَّونَ عُنُوَانًا۔ کتاب کا عنوان یا سرخی لکھنا۔ عُنُوَانٌ جِ عُنَاوِينٌ۔ سرخی۔ عِنَانٌ جِ اَعْنَةُ۔ لگام۔ عُنَّةٌ۔ نامردی۔ عُنْتِيْنٌ۔ نامرد۔ تَعْنُونُ کسی کے نام سرخی لکھنا۔ نَسوبُ کرنا۔ مَعْنُونٌ۔ نَسوبُ کی ہوئی۔ عَائَةُ۔ پیڑو۔ عُنْبٌ جِ اَعْنَابٌ۔ انگور۔ عُنْبَرٌ۔ غنبر۔ ایک سیا سفیدی مائل خوشبو جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ عُنَابٌ۔ عُنَابُ کا پھل اور پودا۔ تَعْنَتٌ۔ ستانا۔ دُكُهْ دِينَا۔ عِنْدَ۔ اِسْمُ ظَرْفٌ ہے پر پاس۔ سامنے۔ ساتھ۔ اوپر۔ آس پاس۔ بوقت وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے۔

عِنْدَ يَحْنِدُ عُنُوْدًا۔ دانستہ حق کا مقابلہ کرنا
سچ کی سخت مخالفت کرنا

عِمَارَةٌ جمع عِمَارَاتٌ۔ آبادی۔ مکان۔ عَاوِدٌ۔ ہاتھ بنے والا۔ مُسْتَعْمَرَةٌ جِ مُسْتَعْمَرَاتٌ۔ نوآبادی نئی بستی۔ کالونی۔ Colony عُمَرَانٌ۔ تہذیب۔ شائستگی۔ آبادی۔ عَمَّادٌ معمار۔ عمارت بنانے والا۔ مَعْمَرٌ۔ آباد۔ خوش حال۔ عَمَّقَ يَعْمُقُ عُمُقًا۔ گہرا ہونا۔ عمیق ہونا۔ عُمُقٌ جِ اَعْمَاقٌ۔ گہرائی۔ رستہ۔ عَمِيقٌ۔ گہرا۔ تَعَمَّقٌ۔ گہری نظر سے دیکھنا۔

عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلًا۔ کام کرنا۔ بنانا۔ کرنا۔

تَعَامَلٌ۔ باہم عمل میں لانا۔ ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا۔ اِسْتِعْمَالٌ کسی سے خدمت طلب کرنا۔ خدمت چاہنا کسی کو عمل میں لانا۔ تَعْمِيْنٌ۔ عمل کرنا عَامِلٌ۔ عمل کرنے والا۔ مَحْمُولٌ۔ حسیرو کوئی عمل کیا جاوے جسے تختہ مشق بنایا جاوے۔ مَحْمَلٌ جِ اَعْمَالٌ۔ کام۔ خدمت۔ ملازمت۔ ایک شخص کا دوسرے پر عمل۔ عَمَّالٌ۔ کارندے۔ کارکن۔ عَامِلٌ۔ عَمَلَةٌ۔ کماشتے۔ مَعْمَلٌ جِ مَعَامِلٌ۔ کارخانہ کام کرنے کی جگہ۔ مَعَامِلَاتٌ۔ تجارت لین۔ دین۔ باہم عمل درآمد۔ مَجْلِسٌ عَامِلَةٌ۔ ارکانِ مجلس۔ عَمَّالِيْقٌ۔ جِ عَمَّالِقَةٌ۔ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ایک فلسطینی پہاڑی وحشی قوم۔

عَمِيٌّ يَحْمِيُّ عَمِيًّا۔ اندھا ہونا۔ نابینا ہوجانا اَعْمَى وَ اَعْمِيَانٌ۔ اندھا۔ نابینا۔ مَعْمَى۔ اندھا کیا ہوا۔ دُضَلًا۔ غیرواضح۔ پوشیدہ۔ چھپایا ہوا۔ ایسا سوال یا بجدارت جس کا مطلب اور حل مشکل سے معلوم ہوسکے۔ پِيسَانٌ۔ پیچیدہ بات۔

عِنَادٌ حَقٌّ سَمَنِي كَرِيًّا - مخالفت۔ مُعَانَدَةٌ كَرِيٌّ - مخالفت۔
 مُعَانِدٌ جُ مُعَانِدِينَ - حق کا مخالف۔
 حَقٌّ كِي دِيده دَانِسْتَه دَشْمَنِي كَرْنِي وَآلَا - عَيْنِي دِيده دَانِسْتَه
 حَقٌّ كِي دَشْمَنِي كَرْنِي وَآلَا - عِنْدَ لَيْبِكْ جُ عِنَادِ دَلْ - بَيْل -
 ہزار داستان۔ مُخْتَصِرٌ جُ عِنَا صِرْ - مفرد چیز۔ عنصر
 جو مرکب نہ ہو۔ اَصْلِيَّتْ - جڑ۔ حسب۔ حاجت۔ بھولی۔
 مادہ۔ جسم۔ بیٹ۔

الْعِنَا صِرْ الْاَزْبَعَةُ - چار عنصر یعنی آگ۔ پانی۔ ہوا۔ اور
 مٹی جو قدیم حکما کے نزدیک مفرد ہیں۔ مُخْتَصِرٌ جُ - جنگلی پیاز
 عُنْفٌ - دُرْسْتِي - سختی۔ شدت۔ عُنْفُوَانٌ ہر چیز کا
 پہلا حصہ۔ عُنْفُوجٌ اَعْنَاقٌ كَرُون - مُعَانَفَةٌ كَرُون
 میں یا ہیں ڈالنا۔ گلے بلنا۔ معانفہ کرنا۔ اِعْتِنَانٌ اِيك
 دوسرے کے گلے بلنا۔ کسی نئے مذہب کو اختیار کرنا۔
 عُنْكَبُوتٌ - مگڑی۔ عُنْكَوْدٌ - انگوروں کا خوشہ۔
 تَعْنِي - رنج و دکھ برداشت کرنا۔ اَلْمُتَعَانَا -

اِعْتِنَانٌ پُرُوَا - چنتا۔ فکر۔ اہمیت۔ عِنَا يَتُّ جُ
 عِنَا يَاتٌ - مہربانی۔ عطا۔ عنایت۔ مَعْنِي جُ مَعَانِي
 مُرَاو۔ مطلب۔ معنی۔ تِلْمُ الْمَعَانِي فن بلاغت کا اہم
 فن جس کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو اور کلام حال اور
 مقام کے مناسب ہو۔ مَعْنَوِيٌّ - معنی یا مطلب کے
 متعلق۔ ذہنی جو بیان نہ ہو سکے۔ عَنُوَةٌ - بزورِ سختی
 و طاقت۔

عَهْدٌ يَعْهَدُ عَهْدًا - شرط کرنا۔ دیکھنا۔ عَهْدٌ
 وَاقْت - ذمہ عرصہ۔ عَهْدَةٌ - ذمہ داری۔ تَعْهَدُ كَامٌ
 كِي ذمہ داری۔ نگرانی۔ مُعَاهِدٌ - آپس میں عہد پیمان کرنا

مَعْهُودٌ - جس کے متعلق عہد کیا گیا ہو۔ عَهْدٌ جُ
 عَهْوٌ - معاہدہ۔ قسم۔ اقرار نامہ۔ وعدہ۔ اَلْعَهْدُ الْقَدِيمُ
 تورات۔ اَلْعَهْدُ الْجَدِيدُ - انجیل۔ وَآلِي الْعَهْدِ
 ولی عہد۔ مَعْهَدٌ بَلْنِي كِي جُك - مُعَاهِدٌ - عہد کرنا۔
 مَعَاهِدَةٌ - عہد نامہ۔ اقرار نامہ۔

عَوَجٌ يَعْوَجُ عَوَجًا - ٹیڑھا ہونا۔ مُعَوَّجٌ جُ
 ٹیڑھا۔ خدار کیا ہوا۔ عَاجٌ - لالچی دانت آعَوَّجٌ بہت
 ٹیڑھا۔

عَادَ يَعْوُدُ عَوْدًا اَوْ عَوْدَةً وَ مَعَادًا
 لوٹنا۔ دوبارہ کرنا۔ پھر کرنا۔ بار بار کرنا۔ عَوْدٌ وَايِسْ
 آنا۔ لوٹنا۔ مُعَاوَدَةٌ وَايِسِي - عَائِدٌ - واقع ہونے
 والا۔ حَيْدُجٌ اَعْيَادٌ بار بار واپس آنے والا دن۔
 خوشی کا دن۔ اَلْمُعِيدُ پيدا کرنے والا۔ واپس لوٹانے
 والا۔ عِيَادَةٌ مَرِيضٍ كِي بيمار پرسی۔ عَائِدٌ اِيك قَدِيم
 عربی قبیلہ۔ اِعَادَةٌ - دوہرنا۔ لوٹانا۔ اَعْوَدٌ سَارِي
 اگر کی لکڑی۔ عَادَةٌ جُ عَادَاتٌ خُو - عادت جھلت
 طریقہ۔ عَادِيٌّ - خوگر۔ مَعَادٌ آخِرْت - لوٹنے کی جگہ
 مَعْتَادٌ - عادی۔ خوگر۔

عَادَ يَعْوُدُ عِيَادًا اَوْ عِيَادَةً
 کسی سے کسی بات کو بار بار کہنا۔ اَعْوَدٌ
 اِسْتِعَاذٌ - اَعْوَدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان سے بچنے کی پناہ طلب کرنا۔
 مَعَاذَ اللّٰهِ اللّٰهُ كِي پناہ۔ خدا نہ کرے۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ
 اللہ کی پناہ خدا اس سے بچائے یا اپنی پناہ میں رکھے
 مُسْتَعَاذٌ جُ جس سے پناہ طلب کی جائے۔ مُسْتَعِيذٌ
 پناہ مانگنے والا

تَعْوِيذٌ تَعْوِيذٌ بِجَاوِ كَاوْرِيْعِهِ حَرْزِ جَانِ عَوْدٌ وَعِيَاذٌ بِنَاءِ
 يَسْتَعَاوِرُ وَآعَادٌ مَسْتَعَارٌ وَيُنَا عَارِيَةٌ وَيُنَا عَوْدَةٌ
 ح عَوْدَةٌ عَوْرَتٌ مَرَدٌ كَيْفَ هُوَ اَعْضَاءُ شَرْمِ كَاهِ
 عَارِيَةٌ اُوْدَهَارٌ وَيُنَا اِسْتِعَاذَةٌ كُوْغْرِغْوِي
 معنی میں استعمال کرنا جیسے بہادر کو شیر کہنا، مُسْتَعَاذٌ
 عَارِيَتٌ لِيَا بُهْوَا عَادٌ شَرْمٌ اَعْوَدٌ بَهِيْنَكَا يَكُ حِشْمٌ

عَاَضٌ يَعْوُضُ عَوْضًا عَوْضٌ وَيُنَا عَوْضٌ وَ
 مَعَاوِضَةٌ بَدَلٌ قَامَ مَقَامَ عَوْضٍ بَدَلٌ اَيْكُ دُكْرُ
 كُ بَدَلٌ مِيْنٌ عَوَّقٌ تَعْوِيْقًا كُ سِي اَمْرٌ رُوْكُنَا بَاذِ
 رُكْنَا عَوَائِدٌ رُوْكُنٌ وَاَلٌ بَاذِ رُكْنٌ وَاَلٌ

تَعْوِيْقٌ رُكَاوْطٌ دَالِنٌ كَاَعْلٌ رُوْكٌ تَهَامٌ

عَالٌ يَعْوُلُ عِيَالَةً كُ سِي كِي پُرُوْرَشُ كُرْنَا

عَائِلَةٌ خَانْدَانٌ بِيُوِي عِيَالٌ كُنْبٌ بَالٌ نَجِي كَهْرُ كُ
 اُوْمِي كَهْرِبَارٌ عَاوْرَجٌ اَعْوَاْمٌ سَالٌ

عَاوَنٌ يُّعَاوِنُ مَعَاوِنَةً مَدُوْدِيْنَا تَعَاوُنٌ
 اَيْكُ دُوْسَرٌ كِي اَعَاْنَتٌ كُرْنَا اِسْتِعَاْنَةٌ مَدُوْدِيْنَا
 كُرْنَا رَاَعَاْنَةٌ مَدُوْدِيْنَا مَعَاوِنٌ مَدُوْدِيْنَا مَعَاوِنٌ
 عَوْنٌ عَاوَانٌ مَدُوْدِيْنَا مَعَاوِنٌ مَعَاوِنَةٌ
 مَسْتَكْبِرِي عَوَانٌ جَوَانٌ دَرْمِيَانِي اَمْرُ كِي مَعِيْنٌ
 مَدُوْدِيْنَا مَسْتَعَاْنٌ مَسٌ سَ مَدُوْدِيْنَا كِي جَائِ

عَابٌ يَعْيبُ عَيْبًا عَيْبٌ وَاَرُ هُوْنَا عَيْبٌ
 ح عَيْبٌ نَقُوْرٌ نَقْمٌ بَرَانِي مَعَايِبٌ بَرَانِي
 كُنَا نَقُوْرٌ مَعَاوِيَةٌ نَامٌ اَيْكُ جَلِيْلِ الْقَدْرِ صَحَابِي كَا
 عَاَرٌ يَعِْيْرُ عَيْرًا مَلَامَتٌ كُرْنَا بَرَا بَهْلَا كُهْنَا

عَاَرٌ شَرْمٌ ذَلَّتْ حَقَارَتٌ عَاَرُوْتَنُكَ قَابِلٌ شَرْمٌ بَا

عَبَادٌ بِدِمَعَاَشِ اَوَاْرَهٌ كُرُوْ هُوْشِيَارٌ چَالَاكٌ بَهْتٌ
 چَلَنُ كُهْمَنُ وَاَلَا عِيَاذٌ وَ مَحْيَاذٌ نَابٌ يَا وَرَنٌ بَا
 كَا اَلٌ كَسُوْتِي كُ سِي كَا سَحٌ يَا جُهُوْطٌ مَعْلُوْمٌ كُرْنُ كُ لِنُ قُرْآنِ كُرِيْمٌ
 يَا حَدِيْثٌ شَرِيْفٌ كَا بِيَانٌ كُرُوْهٌ مَعْيَارٌ وَاِلِيْلٌ يَا بَرْمَانٌ يَا اَبِيْتٌ

عَيْسِي حَضْرَتٌ مَسِيْحٌ عَلِيَّةٌ سَلَامٌ كَا نَامٌ جُوْ قُرْآنِ كُرِيْمٌ
 مِيْنٌ وَاَرُوْهٌ عَيْسُوِي نَسُوْبٌ بِهٌ عَيْسِي عَلِيَّةٌ سَلَامٌ عَيْسِيَانِي
 عَاَشٌ يَعْيشُ عَيْشًا زَنْدُكِي بَسْرُكُرْنَا مَعِيْشَةٌ
 زَنْدُكِي بَسْرُكُرْنَا زَنْدُكِي كُذَارْنَا تَعْيِشٌ اَرَامٌ اُوْرَا حَفْ
 سَ زَنْدُكِي بَسْرُكُرْنَا عَيْاشٌ زَنْدُكِي كُو اَلُ تَلْتَمَسُ
 بَسْرُكُرْنَا وَاَلَا عَيْشٌ وَ عَيْشَةٌ زَنْدُكِي بَسْرُكُرْنَا كَا
 طَرِيْقٌ مَعَاَشٌ كُذْرَا وَاَقَاتٌ كُ سَبَابٌ

عَانَ يَعْينُ عَيْنًا نَظْرٌ لُكَا نَا عَيْنٌ جَمْعٌ
 عِيُونٌ اَنْكُ حِشْمٌ ذَاتٌ اَلْاَعْيَانُ بُرُطٌ بُرُطٌ
 اُوْمِي مَعَايِنَةٌ اَنْكُوْنٌ سَ بَعُوْرٌ وَاِكِيْنَا تَعْيِيْنٌ
 مَقْرُرٌ كُرْنَا عِيَانًا كَهْلٌ كَهْلًا صَافٌ تَعْيِيْنٌ نَقْرٌ
 مَعْيِيْنٌ مَقْرُرٌ كِيَا هُوَا مُتَعْيِيْنٌ كُ سِي كَامٌ پُرْمَقْرُرٌ كِيَا
 هُوَا مَحُوْدٌ عِيِيْنٌ مَوِيْ اَنْكُ وَاَلِي حُوْرٌ عِيَانٌ وَاَضَحٌ
 صَافٌ مَعْيِيْنٌ صَافٌ شَافٌ عَيْنٌ اَصْلٌ ذَاتٌ
 عَيْنٌ اَلْبَقِيْنٌ حَقُّ اَلْبَقِيْنِ پُوْرَا پُوْرَا يَقِيْنِ
 عَيْنٌ حَ اَعْيِيْنٌ اَنْكُ حِشْمٌ عِيُونٌ حِشْمٌ

بَابُ الْغَيْنِ

غَبٌّ يَغِيْبُ غَيْبًا اَيْكُ دُنٌ كُ بَعْدُ تَپٌ كَا
 اَنَا اَيْكُ دُنٌ چھوڑُ كُرُو دُوْسَرُ دُنٌ مَلَا قَاتٌ كُرْنَا
 حَمِي الْغَيْبِ تَبِيْرٌ دُنٌ كَا بَخَارٌ تَبِيْرٌ بَخَارِي

شَطْرُ الْغَيْبِ دُيُورًا بَخَارًا -
 غَبْرٌ يَغْبُرُ غُبُورًا وَأَغْبَرٌ مِثْلُ مِثْلِي كَيْفَ رَنُوكِ
 کا ہو جانا۔ بہت غبار آلود ہو جانا۔ الْغَبْرَاءُ زَمِينٌ -
 غبار مٹی۔ خاک کی رنگ۔ غَبْخَبٌ گدے کے نیچے لٹکنے
 والا گوشت۔ غَبْنٌ خرید و فروخت میں دھوکا۔
 يَوْمُ الثَّغَابِینِ۔ قیامت کا دن۔ افسوس کا دن
 غَبَاوَةٌ۔ گند ذہن ہونا۔ بے سمجھ ہونا۔ جہالت بیوقوفی
 ساوہ لوجی۔ غَبِيحٌ۔ گند ذہن۔ جاہل۔ بے وقوف۔
 غَدَّرَ يَغْدِرُ غَدْرًا - دھوکا دینا کسی کے ساتھ
 بے وفائی کرنا۔ غَادِرٌ۔ خائن۔ غَدَّادٌ بہت بے وفا
 دھوکے باز۔ غَدِيرٌ جوہڑ۔ تالاب۔
 غِذَاءٌ مَجْرُوحٌ آغْذِيَةٌ خَوْرَاكٌ - غِذَاءٌ يَبِيئَةٌ غِذَاكَ
 فعل یا عمل۔ غِذَائِيٌّ نسوب بہ غذا۔ اِغْتَرَبَ دھوکا
 کھانا کسی کے فریب میں آ جانا۔ غُرَّةٌ چاند کی پہلی تاریخ
 پور۔ نور کا ترکا۔ غُرُورٌ فضولیات (اردو تکبر۔ خود
 پسندی) صَغْرُورٌ۔ دھوکہ خوردہ۔ متکبر۔ جبوٹا۔ خود
 پسند۔ دَارُ الْغُرُورِ دھوکے کا گھر
 غَرَبٌ يَغْرِبُ - غُرُوبًا۔ سورج کا ڈوب جانا
 غَرَبٌ مَغْرِبٌ۔ مَغْرِبٌ مَجْرِبٌ وہ چہت
 جہاں پر سورج ڈوبتا نظر آتا ہے۔ مَغْرِبِيٌّ نسوب
 بہ مغرب۔ مغرب کا رہنے والا۔ غَرِيْبٌ مسافر پر وہی
 مَجْرِبٌ غَرِيْبٌ غَرِيْبَةٌ۔ مسافر۔ اجنبیت۔
 غَرِيْبَةٌ مَجْرِبٌ غَرَائِبٌ کوئی عجیب اور غیر معمولی واقعہ
 غَرَائِبٌ مَجْرِبٌ غَرَائِبٌ كَوَا۔ غَرِيْبٌ مَسْكِيْنٌ -
 فریب۔ نادار۔ مفلس۔ مَجْرِبٌ غَرَائِبٌ

غَرَبَالٌ غَرَابِيْلٌ چھلتی۔
 غَرَّ غَرًّا۔ مرنے کے وقت حلق سے جو آواز نکلتی
 ہے۔ گلے میں آواز کا خراٹہ۔
 تَغْرِيبٌ پرندوں کا چھپانا۔
 غَرِيْبَةٌ قُوْرَتٌ۔ جبلی مزاج یا خصلت۔
 غَرِيْبِيٌّ۔ اصل۔ فطری۔ جبلی۔ پیدائشی۔ طبیعی
 غَرَضٌ يَغْرِضُ غَرَضًا۔ کام کرنا۔ غَرَضٌ
 مقصد۔ تدعا۔ نصب العین۔ حاجت۔ غُرْفَةٌ رَجُلٌ
 غُرْفَاتٌ۔ بالافانہ۔
 غَرِقٌ يَغْرِقُ غَرَقًا۔ پانی میں ڈوبنا۔
 غَرِيْقٌ ڈوبنے والا۔ اِغْرَاقٌ مبالغہ۔ حد سے تجاوز
 اِشْتِغْرَاقٌ شمول۔ شامل ہونا۔ صرفاً و توہیں کسی
 جلسہ کا کل افراد پر شامل ہونا۔ مَشْتِغْرِقٌ منہمک
 ڈوبا ہوا۔ مشغول
 مَغْرَمٌ مَجْرِمٌ مَغَارِمٌ جرمانہ۔ قرض۔ تاوان۔
 غَرِيْبٌ قَرْضٌ مَغْرَمٌ۔ تدعی۔ غَرَاصَةٌ برہنہ اِغْرَاقٌ
 اُكْسَانًا۔ براہِ گتہ کرنا۔ تَرْغِيْبٌ غَرَاءٌ روشن تاباں
 مَحْرَلٌ يَغْرِلُ غَرْلًا وَ اِغْرَالٌ عاشقانہ
 اور عورت کو مائل کرنے کے لیے ایسا کہہ کر
 عاشقانہ اشعار یا نغمے کہہ کر عورت کو مائل کرنا
 اور جہاں کے ذکر و پیشکش اشعار کہتے۔ عاشقانہ ناز
 میں گفتگو کرنا۔ عَشْقِيَّةٌ شاعری۔
 غَرَالٌ ہرن۔ مَغْرَالٌ مَحَارِلٌ۔ نکلا۔ پرورد
 غَرِيْبٌ يَغْرِبُ غَرًّا وَ اِغْرَابٌ مَسْكِيْنٌ پیرانی
 کرنے کے لیے باہر جانا۔

عَزْوَةٌ عَزَوَاتٌ۔ ایک فوجی حملہ۔ اپنے دین کو بچانے کے لئے اسلامی جنگ۔ عَزَائِيٌّ عَزَائِيٌّ۔ دین اسلام کی حفاظت کے لئے لڑنے والا۔ مَعَزِيٌّ مَذْهَبِيٌّ جَنَگِيٌّ اور اسلام کی حفاظت کی لڑائیاں۔ عَمَّانٌ شام کا ایک عربی قبیلہ جو عیسائی ہو گیا تھا۔ غَسَلٌ يَغْسِلُ غُسْلًا وَغَسَلٌ۔ دھونا۔ پاک کرنا۔ غَسَلٌ۔ اسٹنان غسل۔ غَسَلٌ وَغَسَلٌ۔ مردہ کو نہلانے والا۔ مَغْسَلٌ لَانْدَرِيٌّ۔ مَغْسُولٌ دھویا ہوا۔ غَمٌّ يَغْمُ غَمًّا۔ قریب وینا۔ دھوکہ دینا۔ مَغْمُوشٌ کھو۔ جھلی۔ بناوٹی۔

غَمِيٌّ يَغْمِيٌّ غَمِيًّا دھانکنا۔ چھپانا۔ غَمَّاءُ عَجَازٌ غَمِيَّةٌ وَطَمَنٌ۔ پردہ۔ لٹافہ۔ غَمِيٌّ۔ بیہوشی۔ غَمَّةٌ۔ غم۔ اندوہ۔ ناراضگی۔ گلوگیر رنج۔ غَضَبٌ يَغْضِبُ غَضَبًا وَغَضَبٌ مِنْ جَبْرٍ اِجْبِئِنَ لِيْنَا۔ غَضَبٌ زَبْرُوتِيٌّ جَبِيْنَا۔ جھپٹی کرنیوالا ظالم۔ مَغْضُوْبَةٌ جَبِيْنِيٌّ ہوئی چیز۔ غَضُّ الْبَصَرِ آنکھ نیچی رکھنا۔ آنکھ پھیر لینا۔

غَضِبٌ يَغْضِبُ غَضَبًا عَلَيَّ كَسِيٌّ پَرَنَارِضِيٌّ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَغْصَةٍ اور ناراضگی کی جائے غَضِبٌ غَضَةً اور ناراضگی کرنے والا۔

غَضْمٌ شَرِيْبٌ مِغْمًا طَبِيْسٌ جَبْشٌ مَقْنَسٌ غَفَرٌ يَغْفِرُ غَفْرًا وَغَفْرًا ثَاوً مَغْفِرَةٌ لِيٌّ درگذرنا۔ بخش دینا۔ معاف کرنا۔ غَافِرٌ۔ غَفُوْرٌ غَفَّارٌ۔ کنا ہوں کو بخشنے والا۔ خداوندِ کَرِيْمٌ۔ مَغْفُوْرٌ بخشا ہوا۔ اِسْتِغْفَارٌ کنا ہوں کی بخشش یا معافی طلب کرنا

مُسْتَعْفِرٌ کنا ہوں کی بخشش مانگنے والا۔ غَفِيْرٌ سب کے سب۔ سب کو شامل۔ جَمٌّ غَفِيْرٌ بَرٌّ اِگْرُوْهُ بَصِيْرٌ جَوْمٌ۔ انبوہ۔ مَغْفَرٌ نُوْدٌ۔ زرہ وغیرہ۔ غَفْلٌ يَغْفُلُ غَفْلَةً۔ بے پروا ہونا۔ تَغَافُلٌ جان بوجھ کر یا بناوٹی طور پر بے پروائی کرنا۔ چشم پوشی۔ غَافِلٌ۔ غفلت کرنے والا۔ لَاطِرٌ وَاوَاهٌ۔ مَغْفَلٌ۔ سادہ لوح۔ بے وقوف۔

غَلَّةٌ آدِنِيٌّ مَالِكٌ ذَارِيٌّ نَمَلَةٌ۔ آغْلَالٌ۔ گروں کے لئے لوہے کا طوق۔

غَلَبٌ يَغْلِبُ غَلَبَةً۔ جیتنا۔ زیر کرنا۔

غَالِبٌ جِيْتِنِيٌّ وَالَا۔ مَغْلُوْبٌ زِيْرٌ كِيَاٌ هُوَا۔ ہارا ہوا۔ اَغْلَبٌ اَكْثَرٌ۔ غَالِبًا اَكْثَرٌ۔ عام طور پر۔ تَغْلِبُ قِتْلًا سے غالب آنا۔ مغلوب کرنا۔ غُظْفَانٌ۔ یہود مدینہ کا ایک قبیلہ۔ غَلَطٌ يَغْلِطُ غَلَطًا۔ بھول جانا۔ غلطی کرنا۔

مَغَالِطَةٌ اِيْكٌ دُوْسَرٌ كُوْغْلَطِيٌّ مِيْنٌ ذَاوَاتٌ۔ غَلَطٌ جِ اَغْلَاطٌ غَلَطِيٌّ۔ چوک۔ بھول۔ فرودگذاشت۔

تَغْلِيْطٌ۔ کسی سے غلطی کرنا۔ غلطی کی تردید کسی کو غلطی کرنے کا الزام لگانا۔ اُغْلُوْطَةٌ جِ اُغْلُوْطَاتٌ مشکل مسئلہ۔ وہ سوال یا عبارت جو کسی کو غلطی میں ڈالتی ہے۔

غَلَطٌ يَغْلِطُ غَلَطَةً كَاْرُهَا هُوْنَا۔ سخت ہونا۔ گننا ہونا۔ موٹا ہونا۔ تَغْلِيْطٌ كَاْرُهَا كَرْنَا۔ مَغْلِطٌ كَاْرُهَا كَرْنَا وَالَا۔ مَغْلِطَاتٌ۔ گندی گالیاں۔ تَغْلِيْطُ الْقَلْبِ سخت دل۔ بد اخلاق۔ غُلْخَلَةٌ۔ شور و غوغا۔

غِلَافٌ۔ ڈھکنا۔ خول۔ مِيَانٌ۔ کيس۔ غُلْفَةٌ خْتَنَةٌ كَاْمُوْلٌ

اخلاق، مشکل کلام، مطلق مبہم، غیر واضح، پڑیج
 مشکل پیچیدہ۔ غلام مریغ غلمان لڑکا۔ نوجوان۔ غلام
 اغلام۔ لواطت۔ بہائم سے وطی۔ شہوت
 پرست ہونا۔ مخلم۔ لواطت کا عادی۔ لونڈ سباز
 بد معاش۔ بد ذات۔ سخت شہوت پرست۔
 غلو۔ حدود معینہ سے تجاوز کرنا۔ غالی مذہب میں
 سخت جوشیلا اور حد سے گذرنے والا۔ مبالغہ کرنے والا
 غلبان۔ جوش مارتا۔ بال۔ غالیۃ خوشبو دار مشک،
 عنبر اور کافور سے ملی ہوئی خوشبو۔ قیمتی سامان۔ غالی
 ہنگامہ گراں۔ غم مریغ غمومہ اندوہ۔ رنج۔ ملال
 مغمومہ رنج و اندوہ میں مبتلا۔ غمومہ سفید بادل
 بادل۔ غمرات الموت۔ موت کی تکلیف۔
 غمزة آنکھ کا اشارہ۔ غمماز۔ آنکھ سے بہت اشک
 کرنے والا۔ غامض مریغ غوامض۔ مشکل کھن۔
 باریک۔ پوشیدہ۔ رغاماض چشم پوشی۔ آنکھ پر کڑھنا
 غم بھڑ بھڑ بکریاں۔ غنیمۃ مریغ غنائم۔ لوٹ
 مال غنیمت جو جنگ میں لاکھ آئے۔ غنیم۔ مقابل
 مفتحیم غنیمت سمجھا ہوا غنیمت جاننے والا۔
 مغانمہ مال غنیمت۔ غنۃ ناک سے آواز نکالنا
 غنچ ناز و نخرہ۔
 غنی یغنی غنا مالدار ہونا۔ غنی مالدار
 مغنی مالدار کرنے والا۔ اغنیاء مالدار لوگ۔
 غنائہ گا۔ مغنی گویا۔ ڈوم۔ تطرب۔ گایوالا
 استغناء لاپرواہی
 غات یغوث غوثا۔ ایداروینا۔ مدد کرنا۔

اشتیقائۃ۔ مدد چاہتا۔ فریاد کرنا۔ غوث فریاد رسا۔
 مدد دینے والا۔ اشتغیث۔ مدد مانگنے والا۔ فریاد کرنے والا
 شیات مدد مانگنے کی پکار۔ غیث مدد کرنے والا۔
 غار۔ غار گڑھا۔ غور فکر۔ بچار۔ غار گہرا جانے
 والا۔ مغارۃ گڑھا۔ غوامض۔ غوطہ لگانے والا
 غوطۃ دمشق کا گرد و نوارح۔ غدیوط۔ ایک
 مرض جس میں جامع کرتے وقت پاخانہ نکل جاتا ہے۔
 غوغاء لوگوں کا گڑمڈ گروہ۔ شور و غوغا۔ غوغول ج
 غیبلان۔ بھوت۔ حق۔ دیو۔ غائیلۃ مصیبت۔
 ہلاکت۔ امر غیبلان۔ بیکر کا درخت۔
 غوی یغوی غیا۔ گمراہ ہونا۔ غواۃ کراہی
 مغوی گمراہ کرنے والا۔ اغواء گمراہ کرنے۔ راہ سے
 بھٹکانا۔ مغویۃ گمراہ کی ہوئی۔ غاوی گمراہ کرنے والا
 غوی۔ دھوکہ دینے والا۔
 غاب یغیب غیباً۔ غیر حاضر ہونا۔ غائب
 ہو جانا۔ غیب۔ پوشیدہ چیز۔ راز۔ بید غائب
 غیر حاضر۔ غیوب و احادیث غیبیہ۔ غیب
 پیچھے کسی کی بڑائی بیان کرنا۔ غیبیہ ہونا پوشیدہ
 ہو جانا۔ مغیبۃ غیبیات۔ غیبیہ
 غیب کے امور۔ غیبیہ۔ غیبیہ کے سوال کے لئے
 مفید ہو۔
 غار یغادر غیبرۃ علی و ابیہ رقیب
 کے باعث عورت یا مرد کا جلتا یا کڑھنا۔ غیبرۃ
 تبدیل کرنا۔ بدل لینا۔ تغیر۔ بدلا جانا۔ تبدیل ہونا
 غیبرۃ غیبیہ۔ دوسرا کوئی دوسرا شخص۔ سوال کے لئے

وَغَيْبٌ ذَلِيلٌ اور اس کے سوا۔ غَيْبَةٌ۔ حسد
بوش۔ حمیت۔ غلطی پر غصہ۔ مقدس چیزوں کی
نگرانی۔ مُتَغَيِّرٌ بدل جانے والا۔ غَيْبُورٌ جوشیلا
غیرت کھانے والا۔ مُتَغَيِّرٌ بدلنے والا۔ مُتَغَايِرٌ
خلاف۔ مُتَغَايِرَةٌ غیر ہونا۔ خلاف ہونا۔
غَيْظٌ۔ غصہ۔ ناراضگی۔ خشم۔ غَضَبٌ۔
غَيْمٌ بادل۔

غَايَةٌ غَايَاتٌ۔ سرحد۔ مبعاد۔ حد۔ در وقت
یا جگہ کی (منزل مقصود۔ مطلب۔ آخری مقصد۔
انتہاء۔ اِلْغَايَةُ اس درجے تک۔ اس حد تک۔ یہاں تک

بَابُ الْفَاءِ

ف۔ یہ حرف کئی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
(۱) حرف عطف کے طور پر جو ترتیب کے معنی بھی دیتا
ہے۔ جیسے قَامَ زَيْدٌ فَعَمَرَ پیلے زید کھڑا ہوا۔ پھر
عمر کھڑا ہوا۔ (۲) سبب کے لئے ضروریہ فہرات
اس نے اس کو مارا اس لئے وہ مر گیا۔ (۳) شرط کے جواب
کے لئے جیسے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاَحْفَظُوا
وَصَايَايَ یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری
وصیتوں کو یاد رکھو (۴) بمعنی اِسْتِئْذَانٍ یعنی نے
معنوں کے لئے جیسے يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۵)
زائد جیسے زَيْدٌ فَلَا تَضْرِبْهُ زید کو نہ مار۔
فَوَاعِدٌ اَوْعِدٌ۔ دل۔

فَاَزٌّ۔ چوہ۔ سَمُّ الْفَاْرِ۔ چوہے کا زہر۔ یعنی سنگھیا
یا شگ۔ بوسیدہ زر و سمن و سیاہ چادر رنگ کا ہونا

فَأَسٌّ کھاڑا۔ مراکش کا ایک شہر۔ قَالَ جِ قَالَ جِ
قال بشگون۔ تَفَاعُلٌ۔ قال کے طور پر اچھے شگون
کے رنگ میں۔

فَاتِحٌ يَفْتَحُ فَتْحًا۔ دروازہ کھولنا۔ فتح کرنا۔
قبضہ میں لانا۔ فَتْحٌ فَتُوْحٌ جیت۔ کسی ملک یا
شہر کی فتح۔ نصرت۔ مدد۔ فَتُوْحَاتٌ فتح کئے ہوئے
علاقے۔ فتوحات۔

فَاتِحَةٌ زَبْرٌ۔ فاتح جیتنے والا۔ مَفْتُوحٌ۔ مَفْتُوْحٌ
جیتا ہوا۔ کھلا ہوا۔ فَاتِحَةٌ فَوَاتِحٌ۔ ابتداء تہید
دیباچہ۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ۔ فَتَاْحٌ خوب کھولنے
والا۔ اِفْتِتَاحٌ۔ ابتدائی رسم۔ ابتداء۔ افتتاحی رسم
مِفْتَاحٌ جِ مَفَاتِيْحٌ وَ مَفَاتِيْحٌ۔ کلید۔ کنجی۔ چابی
مَفْتُوحٌ۔ زبر والا حرف۔ فتح کی حرکت والا حرف۔
فَاتِرَةٌ درمیانی فاصلہ۔ فَتُوْرٌ۔ سرد مہری۔ سستی۔
بے توجہی۔ خرابی۔ خلل۔ کمزوری۔

فَتَشٌ وَ فَتَشٌ يُفْتَشُ تَفْتِيشًا۔ جانچنا
پڑتال کرنا۔ تحقیقات کرنا۔ مُفْتِشٌ۔ جانچ پڑتال کرنے والا
تفتیش کرنے والا۔ تحقیقات کرنے والا۔
فَتَقٌ بھٹ جانا۔ باد خایہ۔ یعنی خصیہ بڑھ جانے کی
مرض۔

فَتَلٌ يُفْتَلُ تَفْتِيلًا۔ سی بٹنا۔ فَتِيلَةٌ
چراغ کی بیٹی۔ مُفْتَلٌ سی بٹنے والا۔ مُفْتَلٌ بٹا
ہوا دھاگا۔

فَتَنٌ يَفْتِنُ فِتْنَةً۔ جلانا۔ بھگانا۔
فَتْنٌ يَفْتِنُ وَ فِتْنٌ وَ اَفْتِنٌ۔ فتنہ کرنے والا
دینا۔ مائل کرنا۔ فریبہ کرنا۔ فتنہ کرنے والا۔

فِتْنَةٌ جِ فَتْنٌ كَمَا هِيَ. آزمايش فتنہ۔ فساد
 مصیبت۔ بغاوت۔ فِتْنَانٌ بہت فتنہ انگیز۔
 مَفْتُونٌ فریفتہ اور غلابا ہوا وہ شخص جس پر بھونٹا ہوا
 ہو جائے۔ مَفْتِنٌ فتنہ انگیز فساد ڈالنے والا۔
 آفَتِي بِفِتْنِي إِفْتَاءً۔ فتویٰ دینا۔ علمی اور دینی
 مسئلہ کا جواب دینا۔ کوئی مذہبی فیصلہ سرزد کرنا۔ یا
 لکھنا۔ فتوای ج فتاویٰ شریعت کا فیصلہ۔ مَفْتِي
 فتویٰ دینے والا۔ اِسْتِفْتَاءٌ فتویٰ چاہنا۔ مذہبی یا
 دینی فیصلہ دریافت کرنا۔ اِفْتَاءٌ فتویٰ دینا۔ فِئْتِي ج
 فِئِيَانٌ۔ نوجوان۔ کم عمر آدمی۔ فِتَاةٌ جِ فِتِيَانٌ زہلی
 نوجوان عورت۔ فِتْوَةٌ جِ نوجوانی۔ فِیَاضِي۔ جوانی کی
 عالی ہمتی۔ جوانمردی۔

مَفَاجَاةٌ۔ ناگہانی طور پر حملہ کرنا۔ بے خبری میں یا
 اچانک واقع ہو جانا۔ فِجَاةٌ اچانک۔ ناگہانی طور پر
 بے خبری میں۔

فَجْرًا يَفْجُرُ فَجْرًا۔ بہانا۔ (پانی) فَجْرًا يَفْجُرُ
 فَجْرًا۔ کھلم کھلا۔ بدکاری۔ اور گناہ میں مبتلا ہونا۔ زنا
 کرنا۔ بدکاری کرنا۔ بھوٹ کہنا۔ فَاِجْرًا جِ فِجَارٌ بدکار
 زانی۔ جھوٹا۔ فاسق۔ فَاِجْرًا جِ فِجَارٌ بدکار عورت۔ زانیہ
 فَجْرًا صَبْحٌ کی روشن سویرا۔ دن کا ٹڑکا تَفْجِيرًا پھاڑنا
 اِنْفِجَارًا پھٹ جانا۔

فَجَعَمَ يَفْجِمُ فِجْعًا كَلِيفٌ دِينًا۔ فَاِجْعَةٌ دُكْحٌ
 دینے والی مصیبت۔ درد مند کرنے والی آفت۔
 فِجْلٌ مَوَلِيٌّ کا پودا۔ مَوَلِيٌّ۔

فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا۔ بدکاریاں ناکار ہونا۔
 بے شرم یا بُرا ہونا۔

فَاِحْشَةٌ كَيْفِيٌّ۔ زانیہ فحش ہے حیاتی بے شرمی
 والی حرکت۔ فَاِحْشٌ حد سے بڑھا ہوا۔ فَاِحْشٌ بَدَلٌ
 بے شرم سپہ سیا۔ مَعْتَقَةٌ فِتْنٌ بے عیا غیاس۔
 فَحْشًا جِ قُوَاِحْشٌ۔ بے شرمی کے کام میں حیاتی
 فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا۔ غور سے دیکھنا۔ تلاش
 کرنا۔ دریافت کرنا۔ معائنہ کرنا۔

تَفْحِشٌ۔ جانچ پڑتال کرنا۔ کھود کر کسی چیز کو باہر
 نکالنا۔ تَفْحِشٌ کرنا۔ فَحْشٌ جِ فَحْشٌ تَرَجَاوُزٌ قُوِيٌّ
 طاقتور آدمی۔ قُوِيٌّ دَمْعٌ اِنْسَانٌ فُضِيْلَةٌ وَالْاَعَالِمُ۔
 فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا۔ جواب دہ نہ ہو سکتا۔
 اَوْحَاةٌ کسی کو چُپا کر دینا۔ لایا ہوا کہہ دینا۔ مَعْتَقَةٌ
 ناموش کرنے والا۔ دلیل اور ثبوت سے چُپا کر لینے والا۔

فَحْشٌ كُوْلٌ۔ فَحْشٌ اَلْحَجْرُ اَقْرَبُ كُوْلٍ اَنْحُوْرٍ
 فَحْشٌ اَلْحَجْرُ اَقْرَبُ كُوْلٍ اَنْحُوْرٍ۔ فَحْشٌ اَلْحَجْرُ اَقْرَبُ كُوْلٍ اَنْحُوْرٍ
 فَاِحْشَةٌ كَيْفِيٌّ اور کبوتر کا خنڈ۔ فِجَاةٌ جِ فِجَارٌ
 فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا اَوْ فِجَارًا اور فحش اور گنہگار

کرنا۔ فحش کرنا۔ مَعْتَقَةٌ جِ فِجَارٌ اور فحش اور گنہگار
 جِ مَعْتَقَةٌ جِ فِجَارٌ اور فحش اور گنہگار
 جاوے۔ تَفْحِشٌ اَلْحَجْرُ اَقْرَبُ كُوْلٍ اَنْحُوْرٍ
 فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا اور فحش اور گنہگار
 فَحْشٌ يَفْحَشُ فَحْشًا اور فحش اور گنہگار

آہ ابلت۔ آواز کو ترانت میں کھٹا ہوا اور ابلت کرنا
 فَعْدِيٌّ يَفْدِيٌّ فِدَاةً قَدِيْرًا دِيْنًا۔ روپے سے
 پھراننا۔ فِدَاةً قَدِيْرًا دِيْنًا۔ قربان ہونا۔ فِدَاةً
 مال جو قیدی کے آواز سے بچا دیا جائے۔ فَعْدِيٌّ يَفْدِيٌّ فِدَاةً
 مال جو قیدی کے آواز سے بچا دیا جائے۔ فَعْدِيٌّ يَفْدِيٌّ فِدَاةً

قَدْ قَدَّانِ قَطْبِ شَمَالِي كَقَرِيبٍ دُونَ سَائِمِي - جو قطب
سنارہ کے قریب ہوتے ہیں۔ قَرَّ نَسَائِمُ فَرَأَسُ كَالْمَلِكِ -
قَدَّ اِدْبِئِمَةُ - خوشی خوبصورتی۔ مہارت۔ قَرَّ اِدْبِئِمَةُ
بتانے والا۔ ایک نحوی کا لقب۔

قَرَّي يَفْرِدِي قَرِيًّا عَلِيًّا - قَرَّي يَفْرِدِي قَرِيًّا عَلِيًّا
اِفْتَرَايَ يَفْتَرِي اِفْتِرَاءً كَسِيًّا بِرَبِّهَانِ بَانِدًا
الزام لگانا۔ مَفْتَرِي جھوٹ بانڈ لگانا۔

مَفْتَرِيَاتٌ - جھوٹ۔ جھوٹی باتیں۔ قَرَّي جھوٹی بہتان
اور جھوٹی بات۔ حیران کن بات۔

قَرَّعَ يَفْرَعُ قَرَّعًا مِنْ - ڈرنا۔ خوف کھانا۔
قَرَّعٌ - ڈر۔ خوف۔ ہمیشہ۔ بول۔

قَسَسٌ - شرح ترکی ٹوپی۔ قَسَسٌ وَفَسَسٌ قَسَسٌ
درخت یا پھل قَسَسٌ قَسَسٌ - پستہ کے رنگ والا۔

قَسَسَاتٌ - عورت کا لباس یا بیٹی کوٹ۔

قَسَسَةٌ - رحمت کا دن۔ عید فتح کا روز۔ کشادگی۔
کھلی جگہ۔ چوک۔ قَسَسٌ - چوڑا مکان۔ وسیع جگہ۔

قَسَسَةٌ يَفْسَسُ قَسَسًا - بدابہا کرنا۔ قانون کو ٹوٹ
کرنا۔ عہد کو توڑ دینا۔

قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسَةٌ - شرارت۔ قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا

قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا

قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا

قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا
قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا - قَسَسٌ يَفْسِدُ قَسَسًا

اِفْرَاطٌ - زیادتی۔ تَفْرِيطٌ کمی کرنا۔ اِفْرَاطُ فَرِي بِي
ہی اِفْرَاطُ تَفْرِيطُ كَالْبُكَطِ هُوَ اِبْنُ - مَفْرُطٌ حد سے تجاوز
کرنے والا۔ قَرَّعٌ جَفْرُوعٌ - شاخ۔ ماخوذ کسی چیز
کا بالائی حصہ۔ عورت کے بال۔ اصل چیز سے علیحدہ۔
تَفْرِيعٌ شاخ نکالنا۔ مَتَفْرِعٌ شاخیں نکالنے والا۔
کئی شاخوں والا۔

فِرْعَوْنٌ جَفْرَاعِيْنٌ - مصر کے قدیمی بادشاہوں کا
لقب۔ ظالم۔ مغرور۔

فَرَّعَ يَفْرَعُ فَرَّعًا - خالی ہونا۔ فارغ ہو جانا
اِسْتَفْرَاعٌ خالی کرنا۔ قَرَّعٌ کرنا۔ بول و براز کی حاجت
سے فراغت چاہنا۔ قَرَّعٌ خالی بے کار۔ قَرَّعَةٌ
فرصت۔ قَرَّعٌ خلو۔ ختم۔ اختتام۔ فراغت۔

فَرَّقَ يَفْرِقُ فَرَقًا وَفَرَقَانًا بَيْنَ تَقْسِيمِ
کرنا۔ دو چیزوں میں فرق کرنا۔

فَرَّقٌ جَفْرُقٌ - فرق۔ جدائی۔ اختلاف۔ امتیاز
تَفْرِيقٌ تقسیم کرنا۔ حصوں میں دینا۔ قَرَّقٌ فرق
کرنے والا۔ قَرَّقٌ حق اور باطل کے درمیان فرق
کرنے والا۔ قَرَّقٌ امور کا فیصلہ کرنے والا۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا لقب۔ قَرَّقَانٌ حق اور باطل کے درمیان
امتیاز کا ذریعہ۔ فَرَّقٌ جماعت گروہ۔

فَرَّقَةٌ اِفْتِرَاقٌ - فَرَّقٌ - جدائی۔ فَرَّقٌ - فَرَّقٌ
قَرِيقٌ علیحدہ گروہ۔ جماعت۔ مَقَرَّقٌ جدائی
علیحدگی۔ اَلْفَرَقَانُ قرآن شریف میں۔ مَقَرَّقٌ

مَتَفَرِّقَةٌ علیحدہ علیحدہ۔ الگ الگ۔ جدا جدا
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ

اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ

اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ

اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ

اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ
اِفْرَاقِيَّةٌ بَرَّاعَةٌ اِفْرَاقِيَّةٌ

تَفْصِيلًا - قرآن پاک کی تشریح اور مطلب بیان کرنے والا۔
 تَفْصِيلٌ - بیمار کا پیشاب یا ہر چیز جو دوسری پر دلالت کرے۔
 تَفْصِيلًا - ڈیرہ۔ خیمہ پرانے مصر کا نام جو حضرت عمرؓ نے
 الحاس سے آباد کیا تھا۔
 تَفْصِيلٌ بَيْنَهُمْ فَتَقْتُلُوا وَفِدْوَةٌ لَكُمْ فَتُكْفَرُ بِهَا
 کرنا۔ کفر شکی اور حکم عدولی اختیار کرنا۔ تَفْصِيلٌ بَيْنَهُمْ
 تَفْصِيلًا - پانی۔ بدکار۔ کوشش۔ زنا کار۔ گذر کار۔ نافرمان
 تَفْصِيلًا - جو مہیا۔ فاقہ پھیلنے والا۔ فاقِيبَةٌ بَحْرٌ
 جو کشتی پر تھکتے ہوئے لوگوں کی کشتی کا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 کتب میں سے ایک کتب کا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا اور صفائی کے
 ساتھ گفتگو کرنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا خوش بینی
 اور صفائی اور صفائی سے کام کرنے والا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا - فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ رگ میں شکاف
 رہنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ رگ سے خون کالنے والا۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ جُذًا كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔
 علیحدہ کرنا۔ تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا علیحدہ علیحدہ بیان کرنا۔ تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 کرنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا کتاب کی تقسیم علیحدگی
 سال کے مہینوں میں کوئی ایک موسم۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 مقابر کا نیمہ۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ تَجْمَعًا مِّنْ كِتَابِنَا۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ عَصَدًا مِّنْ كِتَابِنَا
 کے درمیان کا فاصلہ۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا علیحدہ ہونا۔ جُذًا مِّنْ كِتَابِنَا
 جانا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ جُذًا مِّنْ كِتَابِنَا۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا کرنے والا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 تفصیلی وار۔ تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 علیحدہ تقسیم فیصلہ و فیصلہ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا عام یا
 قاضی اور اس کا حکم

فَصِيلٌ۔ دیوار۔ يَوْمَ الْفَصْلِ۔ قیامت مُفَصَّلًا
 تفصیل کے ساتھ۔ مَفْصِلٌ الْكُيُومِ الْفَصْلِ
 حق بات۔ بِالتَّفْصِيلِ۔ تفصیلی وار۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ بَعْدًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ شرمندگی۔ برائیوں کا انکشاف
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ باقی بچ رہنا۔ ضرورت
 سے زائد ہونا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ فضیلت دینا۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَا فَصْلٍ بَرَكْتَ بِرَبِّكَ
 بزرگی۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ خوبی عمدگی اور خوبی
 کا انتہائی درجہ۔ اَفْضَلُ زِيَادَةً اَعْلٰی اور عمدہ۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ عالم فاضل صاحب فضیلت۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ بقیہ۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ بجا ہوا۔ بقیہ
 پس ماندہ۔ تَفْصِيلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ مہربانی کرنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 چیز باقی بچا ہوا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ دُخْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ دینے والا
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ خالی جگہ۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ چیرنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا
 توڑنا۔ روزہ کھول دینا۔ عِيدُ الْفِطْرِ رُزْقًا مِّنْ كِتَابِنَا
 کی عید۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ پیدائشی صفت۔ مزاج
 مذہب۔ اسام۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ جو خیر نہ ہو۔ اَفْطَامًا مِّنْ كِتَابِنَا
 روزہ کھولنا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ چیر چاڑھ کر کالنے
 والا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ دُودًا مِّنْ كِتَابِنَا
 بچہ کا۔ فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ چھچھو جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو۔
 فَصْلًا مِّنْ كِتَابِنَا۔ دودھ چھڑانے والی۔

فَطَنَ يَفْطِنُ فِطْنَةً - ذہن اور تیز فہم ہونا۔

فِطْنَةٌ - سمجھ - تیز فہمی - جہارت - ذہانت

فَطَانَةٌ عَقْلِيَّةٌ - زیر کی

فَعَلَ يَفْعَلُ فِعْلًا كَرْنَا - انجام دینا - کام کرنا۔

فِعْلٌ جَ آفَعَالٌ - کام - عمل - فاعِلٌ کرنے والا۔

فَعَّالٌ - خوب کرنے والا - اور سرا انجام دینے والا۔

مَفْعُولٌ اِم مفعول - کیا ہوا کام۔

اِنْفِعَالٌ جَ اِنْفِعَالَاتٌ اثر پذیری - شرمندگی۔

بیرونی حالات کا نشان یا اثر اور اِنْفِعَالٌ جعلی طور پر

بنا۔ مَفْتَعِلٌ جَعْلًا - مَفْعُولٌ پہ فعل متعدی

کا مفعول۔ اَفْعَى جَ اَفْعَائِي سیاہ سانپ

فَعْفُوْدٌ - شاہان چین کا لقب۔

فَقَدَ يَفْقِدُ فُقْدَانًا - کھونا کسی چیز سے محروم

ہونا۔ مَفْقُوْدٌ گم شدہ۔ غیر حاضر۔ فِقِيْدُ الْعَصْرِ

وَالنَّهْرِ لاثانی۔ بے ثانی۔ فَاقِدٌ حاجمند۔

تَفَقُّدٌ - مہربانی۔ فُقْدَانٌ نقصان۔ عدم موجودگی۔

فَقْرٌ يَفْقِرُ فِقْرًا - غریب ہونا۔ مفلس اور نادار

ہونا۔ فِقِيْرٌ جَ فُقْرَاءٌ - فقیر۔ درویش۔ فِقْرَةٌ

جَ فِقْرَاتٌ - جملہ۔ فقرہ۔ کلام کا اچھا جملہ۔

فَقْرُ الدَّمِ - خون کی کمی کی مرض۔ ذُو الْفِقْرِ حَضْرَت

علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا لقب۔

فَقِيْهٌ يَفْقَهُ فِقَاهَةً - علم دین والا ہونا۔ فِقِيْهَةٌ

تَفَقُّهُ - علم دین پڑھنا۔ فِقِيْهٌ جَ فُقَهَاءٌ - علم دین

وفاقہ و قانون شریعت کا عالم۔ قانون دان۔ ذہین شرعی

قانون کا علم مع دلائل رکھنے والا۔

فَقَاهَةٌ - دانائی۔ جہارت۔ فقط۔ بس۔ صرف۔

اِنْفَكْتُ - اُلگ ہونا۔ کھلنا۔ آزاد ہونا۔

غَيْرٌ مُنْفَكٍ ذُو شَيْءٍ وَالْا - (تعلق) فُكْتُ

فُكُوْتُ جَبْرًا فُكْتُ الزَّهْنِيْنَ - رہن کو چھڑا لینا

فَكَرَ يَفْكِرُ فِكْرًا سَوْجَانًا - بچارنا۔ غور کرنا۔

تَفَكَّرَ کسی معاملہ پر سوچنا۔ بچارنا۔ فِكْرٌ جَ اَفْكَارٌ

خِیَالٌ - تصور۔ غور۔ فِکْرٌ جَ اَفْكَارٌ

سوچنے بچارنے والا۔ غور و فِکْرٌ جَ اَفْكَارٌ

پیدا کرنے والا۔ تَفَكَّرْتُ فِکْرًا سَوْجَانًا - بچار۔

فدشات۔

فَكِيْهَةٌ يَفْكُهُ فِكَاهَةً - خوش مذاق ہونا۔

مذاق کرنا۔ فَاكِيْهَةٌ جَ فَوَاكِيْهَةٌ - مہذب۔

پہل فرور۔ فَاكِيْهَةٌ جَ فَوَاكِيْهَةٌ - خوش طبعی

چہل۔ خوش مزاجی۔ ظرافت۔

فَلَحٌ يَفْلَحُ فَلَاحًا - چرنا۔ پھیلنا۔ جوتنا۔

فَلَاحٌ کامیابی۔ کامرانی۔ خوشحالی۔ بقار۔ نجات

فَلَاحٌ کسان۔ زمیندار۔ کاشتکار۔ فَلَاحَةٌ

کاشتکاری۔ مَفْلِحٌ کامیاب ہونے والا۔ فَلَاحٌ

حاصل کرنے والا۔ مَفْلِحٌ مَفْلِحَةٌ - کامیابی۔

علیہ السلام کا ایک الہامی نام ہے۔ اس سے پیشتر نہ

پڑھانے سنا گیا۔ ای مبارک نام پر خاکسار نے

اپنے اکلوتے بیٹے کا نام محمد مفلح رکھا جو ماشاء

اللہ تعالیٰ ۲۴ جون ۱۹۲۹ء کو چودہ سال کی

عمر کا ہو گیا ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ بَرَكَاتِكَ

اَلْمُقَدَّرِيْنَ الَّذِيْنَ اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ

النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْمُجَلِّينَ
 بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 فَلَجَّ وَانْفَلَجَ - فالج یا لقوہ کے مرض میں مبتلا
 ہونا۔ فالج ادھر تک کی مرض۔ مفلوج فالج کی مرض
 والا۔ قِلْدَاتٌ دھاتیں معدنیات۔ قَالُوذَةٌ قَالُوذُ
 آفَلَسٌ مُفَلِسٌ اور قَلَّاشٌ ہونا۔ غریب ہونا۔
 اِفْلَاسٌ غریب۔ مَفْلِسٌ۔ غریب۔ نادار
 فَلَاسٌ جِ قَالُوَسٌ پیسہ۔ مچھلی کا چاندہ۔
 فَلَاسَةٌ۔ فلاسفی۔ قَيْلَسُوْتُ جِ فَلَاسَةٌ
 فلسفہ کا عالم۔ فلاسفر۔ اسطو کا لقب۔ فِلْفَلٌ مِج
 دَارُ فِلْفَلٍ کہاں۔ فَلَاسِطِيْنٌ قَلِسطین۔
 فَلَاسِطِيْنِيٌّ۔ فلسطین کا باشندہ۔
 فَلَنْقٌ يَفْلِقُ فَلَاقًا۔ پھاڑنا۔ چیرنا۔ فالق
 رات کو پھاڑ کر صبح کو نمودار کرنے والا۔ وانہ کو چیر کر
 سبز سوئی نکالنے والا۔ فَلَكَ جِ اَفْلَاكٌ۔ آسمان
 فَكَيْ جِ نَجْمِيٌّ۔ فَلَكَ جِ۔ جہاز کشتی۔
 فَلَانٌ مُنْتَفِلَاتَةٌ عِلْمٌ سے کنایہ یعنی فلاں۔
 فَمُّ مِّنْهُ۔ سوراخ۔ دریا کا دبانہ۔ فَنَجٌ جِ اَفْنَانٌ
 وَ اَفَانِيْنٌ۔ قسم۔ شاخ۔ طریقہ۔ ہنر۔ علم کی شاخ۔
 دَا اَلْفُنُوْنِ۔ مدرسۃ العلوم۔ یونیورسٹی۔
 تَفَنُّنٌ۔ گونا گون ہونا۔ قسما قسم ہونا۔
 مُتَفَنِّنٌ۔ دھوکہ کی چال چلنے والا۔ علم کی مختلف شاخوں
 میں ماہر۔ گونا گون حالات والا۔
 فَنِيْجَانٌ۔ چائے پینے کی پیالی۔ مُتَدَقٌّ۔ سرائے
 ہوئی۔ جنگلی بادام کا پھل جو مقوی دماغ و حافظہ و
 ذہن ہے

قَالُوَسٌ۔ جھاڑ۔ لالٹین۔

فَنِي يَفْنِي قَسَاءً۔ برباد ہونا۔ فنا ہونا۔ ختم ہونا
 جانا۔ چک جانا۔ معدوم ہونا۔ فَانِي۔ فنا اور نابود
 ہو جانے والا۔ فَنَاءٌ ہلاکت۔ اِفْنَاءٌ تباہ کرنا۔
 فِهْرِسٌ۔ فِهْرِسْتٌ جِ فِهَارِسٌ۔ مضامین
 کی فہرست۔ فرد۔ سیاہ۔ رَجِيْرٌ
 فَهْمٌ يَفْهَمُ فَهْمًا۔ سمجھنا۔ محسوس کرنا۔
 تَفْهِيْمٌ سمجھانا۔ فَهِيْمٌ صاحب عقل و فہم۔
 مَفْهُوْمٌ مطلب۔ مراد۔ تصور۔ معنی۔ مدلول۔ وہ
 مطلب جو کسی لفظ یا عبارت سے سمجھا جائے۔
 اِسْتَفْهَامٌ۔ دریافت کرنا۔ سمجھنا۔ چاہنا۔ اطلاع
 یا واقفیت حاصل کرنے کی جستجو۔ سوال۔

فَاتٌ يَفُوْتُ فَوْتًا۔ گذر جانا۔ وفات یا جانا۔
 تَفَاوُذٌ۔ ایک دوسرے سے مختلف ہونا۔ مُتَفَادَةٌ
 ایک دوسرے سے علیحدہ۔ فَوْتِيْنَجٌ۔ پودینہ کی ایک قسم
 فَوْجٌ جِ اَفْوَاْجٌ فَوْجٌ۔ لشکر۔
 اَفَادَةٌ يَفِيْدُ اِفَادَةً۔ فائدہ دینا۔ نفع پہنچانا۔
 اِسْتِفَادَةٌ يَسْتَفِيْدُ اِسْتِفَادَةً۔ فائدہ حاصل
 کرنا۔ فَائِدَةٌ جِ فَوَائِدٌ نفع۔ فائدہ۔ مُفِيْدٌ فائدہ
 فائدہ دینے والا۔ مُسْتَفِيْدٌ فائدہ حاصل کرنے والا
 اِقَادِيٌّ نِسْبٌ بِ اِفَادَةٍ
 قَارِ يَفُوْرٌ قَوْرًا اَوْ قَوْرًا اَنًا۔ گولنا یا اُبلت۔
 قَوْرًا اَيَا عَلَى الْفَوْرِ۔ نورا۔ جلدی سے۔ فوری۔
 قَوْرًا اَيَا۔ وہ پانی جو زمین سے اچھل کر نکلے۔ چشم
 سوتا۔ جھرنا۔ فَاْدَةٌ جِ فَاْدَجٌ فَيْرَانٌ۔ چوہا۔

إِفَاضَةٌ فَيْضٌ مُنْجَانًا. اسْتِنْفَاضَةٌ فَيْضٌ مَصْلُوكًا.
فَيْضٌ رَجُوعٌ فَيْضٌ بِنَاتٍ. كَيْبَاضٌ سَخِي كَرِيمٌ الْفَرْسُ
فَيْضٌ رَجُوعٌ أَفْيَالٌ. لَاتِحِي.

بَابُ الْقَافِ

قَابٌ بَلِيْطٌ. قَيْبَةٌ رَجُوعٌ قُبْتُ وَ قِيَابٌ كُنْدِيْقَةٌ
كُنْدِيْقَةٌ وَالِي عَمَارَتٍ. شَامِيَانَةٌ. پَالِي.

قَبِيْمٌ يَنْقَبِرُ قَبِيْحًا. بِصَوْرَتٍ وَبَشَكْلٍ هُوْنَا رُجُوَا
اَوْرُوْبِلٍ وَخَوَارِ هُوْنَا قَبَاْحَةٌ رِجُوَانِي. رِيَانِي. بِرِئُوْنِي
خَرَابِي. قَبِيْمٌ مُوْنِكٌ قَبِيْحَةٌ بِشَكْلٍ. حَبَابٌ خَرَابِ
قَبْرِ يَنْقَبِرُ قَبْرًا. دَفْنٌ كَرْنَا. مُرُوْدٌ كُوْكَارْنَا
قَبْرٌ قَبْرٌ قَبْرٌ كُوْرٌ. مُرُوْبِتٌ. مَزَارٌ لِحَدْمَرَقَدِ
مَقْبَرَةٌ رَجُوعٌ مَقَابِرٌ. قَبْرِسْتَانٌ. كُوْرِسْتَانٌ.
قُنْبُرَةٌ رَجُوعٌ قُنَابِرٌ. جَنْدُوْلٌ. جِكُوْرٌ. جِكَاوَكٌ.
قُبْرُسٌ جَزِيْرَةٌ سَابْرُسٌ قُبْرُسٌ رِجُوَانِي قُبْرُسٌ كَا
بَاشَنَدَه

قَبْسٌ يَنْقَبِسُ قَبْسًا. كَبْكَبٌ لِيْنَا يَانَا كَبْكَبًا
اِقْتَبَسَ لَمْ سِيَكُوْنَا. اِقْتَبَسَ بِاِقْتَبَاسٍ كَرْنَا.
مُقْتَبَسٌ. اِقْتَبَاسٌ كَرْنَا. قَبْسٌ كَرْنَا.
جِسْرٌ كُوْنِي شَوْضٌ اَنْكَبِيُوْرٌ. كَبْكَبٌ كَرْنَا.

قَبْسٌ يَنْقَبِسُ قَبْسًا. كَبْكَبٌ لِيْنَا يَانَا كَبْكَبًا
اِقْتَبَسَ لَمْ سِيَكُوْنَا. اِقْتَبَسَ بِاِقْتَبَاسٍ كَرْنَا.
مُقْتَبَسٌ. اِقْتَبَاسٌ كَرْنَا. قَبْسٌ كَرْنَا.
جِسْرٌ كُوْنِي شَوْضٌ اَنْكَبِيُوْرٌ. كَبْكَبٌ كَرْنَا.

فَاذْ يَفُوْزٌ. فَوْزًا. كَامِيَابٌ هُوْنَا. فَتْحٌ مَصْلُوكًا.
فَائِرٌ كَامِيَابٌ. مَقَاذَاتٌ كَامِيَابِيَانٌ. فَوْزٌ.
فَتْحٌ. بِجَاوُ. نَجَاتٌ. فَوْضٌ تَفْوِيْضًا سِرُّوْرًا سُوْنِيْنَا
مُقَوَّضَةٌ. سِرُّوْرٌ كَرُوْدَه. فَوْطَةٌ خُصْبِيَةٌ. كِيُوْرَا.
فَاقٌ يَفُوْقٌ. فَوْقًا. غَالِبٌ اَنَا. سَبَقْتُ لِي جَانَا
اَوْرُوْبِلٍ هُوْنَا. فَوْقِيَّةٌ غَلْبٌ. تَفْوُوْقٌ. غَلْبٌ. فَائِقٌ
عَمَدَه. اَعْلَى. فَاقَةٌ مَغْلَسِي. غَرِيْبَةٌ. اِفَاقَةٌ بِمِيَارِي
سَعِيْتٌ. فَوْقٌ. اَوْرُوْبِلٍ فَوْقَانِي اَوْرُوْبِلٍ.

فِي حَرْفٍ بَرِيءٍ اِسْمٌ يَدْخُلُ هُوَا كَرُوْبِي حَرْفٌ كُوْبِي
وَيَتَا هُوَا ذِيْلٌ كَعَمُوْنٍ فِي اِسْتِعْمَالٍ هُوَا هُوَا جِيْبِي فِي
الْبَيْتِ كَهَرِيْمِي (۲) دَرْمِيَانٌ جِيْبِي فِي النَّاسِ (لُوْكَوْنِ
كَعَرْمِيَانِ) (۳) بِمَعْنَى اِلَى جِيْبِي كَعَرْمِيَانِي جِيْبِي
اِسْمٌ اِنْبَا اِلَى جِيْبِي كِي طَرَفٌ لُوْطَايَا (۴) بِمَعْنَى مَصَاحِمَتِ
جِيْبِي جَاءَ فِي الْقَوْمِ (وَهُ قَوْمٌ كَعَرْمِيَانِي اِيَادَه) تَعْبِيْلِ
جِيْبِي قَتْلٌ فِي ذَنْبِي هُوَا اِسْمٌ كَعَرْمِيَانِي كَعَرْمِيَانِي
(۵) مَقَابِيْسَةٌ جِيْبِي مَا عَلِيْنِي فِي بَحْرِي اِلَا قَطْرَةٌ
مِيْرَا عِلْمٌ اِسْمٌ كَعَرْمِيَانِي كَعَرْمِيَانِي اِسْمٌ كَعَرْمِيَانِي
اِسْتِعْلَاءٌ جِيْبِي لَأَصْلِيْتِكُمْ فِي جَزُوْعِ النَّخْلِ
دِيْنٌ كُوْجُوْرٌ كَعَرْمِيَانِي كَعَرْمِيَانِي اِسْمٌ كَعَرْمِيَانِي
جِيْبِي اَنْتَ بَصِيْرٌ قِي عَمَلِي كَعَرْمِيَانِي كَعَرْمِيَانِي
بَاهِرٌ (۶) مَرَادُفٌ مِيْنِ جِيْبِي مَضَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ
اَشْهُرٌ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنٍ ثَلَاثُ سَالُوْنٍ مِيْنِ سَعِيْتِ

فِي رَجُوعٍ آفُوَاةٌ مَنَّهُمْ. كَفُوُوَةٌ اِقْتَبَاسٌ.
فَاطٌ يَفِيضُ فَيْضًا نَاوِبٌ هُوَا. كَثْرَتٌ هُوَا.

قَبِيلٌ غَسَبٌ غَسَبٌ بِه قَبِيلٌ مِصْرَ كِي اِيك قَدِيم قَوْم۔
قَبْطَانٌ۔ كَيْتَان۔

قَبِيلٌ يَنْتَبِلُ۔ قَبُولًا لَيْتَا۔ وِصُولُ كَرْنَا۔ مَان
لَيْتَا۔ مَنظُورُ كَرْنَا۔ قَبَالَةٌ۔ ضَامِنٌ بِأُزْمَةٍ وَارِهُونَا۔
قَبَالَةٌ وَابِه كَرِي يَابِجِي جِنَانِي كَا كَام كَرْنَا۔ اِقْبَالٌ
سَامِنِي سِي آنَا۔ قُرْبٌ۔ تَقْبِيلٌ بُوَسِّهِ وَبِنَا۔ چومنا۔
قَابِلٌ لَانِقٌ فَانِقٌ سَامِنِي آنِي وَالَا۔ اِسْتِقْبَالٌ
سَامِنِي يَا آنگِي آكر لَمْنَا۔ مَلَا قَات كَرْنَا۔ آئِيْدِه آنَا۔

تَقَابُلٌ۔ اِيك دُوسَرِي كِي سَامِنِي آنَا۔ مَقَابِلُ كَرْنَا
قَبِيلٌ پِيْدِي۔ پِي شَتْرُ قَبِيلَةٌ وَه سَمْت جِس كِي طَرَف مِّنْ
كِر كِي نَمَازِ اِدَا كِي جَاتِي هِي۔ قَبِيلَةٌ بُوَسِّهِ۔ قَابِلَةٌ وَابِه
بُذُؤَالْفِ۔ جِنَانِي وَابِي۔ قَابِلِيَّةٌ۔ لِيَا قَت۔ مَالَت
قَبُولِيَّتٌ قَبُولٌ۔ رِضَا مَنْدِي۔ مَنظُورِي۔ قَبِيلٌ قَسْمٌ
ضَامِنٌ۔ كَفِيلٌ۔ قَبِيلَةٌ قَبَائِلٌ خَانِدَانٌ۔ اِيك اِدَا
كِي اِوَالُو كِي لُوگ۔ مَقَابِلَةٌ آَمِنِي سَامِنِي هُونَا۔ رُو
رُو۔ هُونَا۔ مَقْبِيلٌ بُوَسِّهِ قَسْمَتِ آنِي وَالَا سَال۔
مَقَابِلٌ سَامِنِي آنِي وَالَا۔ مَقْبُولٌ قَبُولٌ كِيَا هُوَا
مَقْبُولٌ آَمِنِي آنِي وَالَا۔

قَبَا۔ اچكِن۔ پُورِي آسْتِينُوں وَالَا كُوٹ۔
خَطُّ اِقْتَادِ۔ قَتَادِي كِي كَسِي اَتَارْنَا بَعْنِي بَرِي مَشْكَل
اور مَحْت سِي حَاصِل كَرْنَا۔ قَتَادٌ اِيك سَهْمَتِ خَارُوَار
پُورِي هِي۔

قَتْلٌ يَقْتُلُ قَتْلًا مَارِطَانَا۔ قَتْلٌ يَابِلَاك كَرْنَا
مَقَاتِلَةٌ آسِيں مِيں لُٹْنَا۔ قِتَالٌ جَنگ كَرْنَا۔
قَاتِلٌ قَتْل كَرْنِي وَالَا۔ مَقْتُولٌ قَتْل كِيَا هُوَا۔

مَقَاتِلٌ لُطْنِي وَالَا۔ قَتِيلٌ بِمَعْنِي مَقْتُولٌ مَقْتَلٌ
قَتْل كِي بَگ۔ قِتَالَةٌ قَتْل كَرْنِي وَابِي۔ قِتَاءٌ۔ كَبِيرَا۔
كَلْرِي۔ اُقْحُوَانٌ۔ بَابُونِي قَحْبَةٌ كَنْجِي۔ بَا زَارِي عَوْرَتِ
قَحْطٌ خَشَك سَالِي۔ بَارَش نِي هُونَا۔

قَدٌ۔ اِسْمٌ بِمَعْنِي كَافِي هِي جِي سِي قَدٌ زَيْدٌ ذَهْمٌ زَيْدٌ
كُو اِيك دَرِہِم كَافِي هِي (۲) مَاضِي مَطْلُوق كِي پِيْدِي آكر اِسْكُو
قَرِيْب كِي مَعْنُوں مِيں كَر دِي تَا هِي (۳) نِيْز مَاضِي كِي
سَاخْتِ تَحْقِيْق كِي دِي تَا هِي جِي سِي قَدٌ اَقْلَمٌ بِي شَك
وہ كَا مِيَا ب مِيں سَدَم) مَضَارِع كِي سَاخْتِ تَوَقُّع يَا تَقْبِيل
كِي مَعْنِي دِي تَا هِي جِي سِي قَدٌ يَقْدِمُ الْغَائِبُ الْيَوْمَ
ظَنُّن اَغْلَب هِي كِي غَائِبٌ آج آجَا ئِي (۵) قَدٌ يَصْدُقُ
اَلْكُذُوبُ۔ كِي سِي جِھُوَا بِي سِي كِهْتَا هِي (۶) مَضَارِع كِي
سَاخْتِ تَكْثِيْر كَا مَعْنِي دِي تَا هِي۔ جِي سِي قَدٌ اَشْهَدُ الْغَايَةَ
اَللّٰهُ خَوْلَاءُ مِيں كِي مَرْتَبِ بَرِي غَارَت مِيں حَاضِرُ هُوَا۔
قَدْحٌ چَقْمَاق سِي آگ كَا لَمَا۔ جَرَحٌ قَدْح كَرْنَا۔ حَسَنٌ وَ
خُوْبِي جَا پَنجَا۔ قَدْحَةٌ پَانِي پِيْنِي كَا پِيَا۔ قَدٌ۔ قَدُو
قَامَت۔ سَائِر۔ شَكْل۔

قَدَرٌ يَقْدِرُ قَدْرًا وَقَدْرَةٌ وَمَقْدِرَةٌ
وَمِقْدَارٌ اَعْلَى قَابِوِيَا نَا طَاقَتِ پَانَا۔ قَدْرٌ
اِنْدَازہ۔ مَقْدَارٌ نَآپ۔ جَسَامَت۔ قَدْرٌ مَضَارِعِ اَعْلَى
كَا حَكْم بُو مَشِيَّت مِيں هُوَا۔ اور جَارِي نِي هُوَا۔ قَدْرٌ بِرِغْدِ
قَسْمَت۔ قَدْرَةٌ۔ طَاقَت۔ اِخْتِيَار۔ اَبِيَّت۔ قَابِلِيَّت
قَادِرٌ وَقَدِيرٌ۔ طَاقَتُور۔ تُوَانَا۔ صَاحِبِ قَدْرَتَا۔
اِقْتِدَارٌ۔ طَاقَت۔ تُوَانَا ئِي۔ تَقْدِيرٌ پِيْدِي سِي مَقْرُور
كِي هُونِي قَسْمَت۔ مَقْدَرٌ۔ سُرُوْشَت۔ مِقْدَارٌ اِنْدَازہ۔ مَقْدَرٌ
مَقْرُورِ وَزَن۔

مُقَدَّرٌ - طاقت - قدرت - مقدرت - مَقْدَرَةٌ
 توانائی - وسعت طاقت - مُقَدَّرٌ اندازہ کیا ہوا -
 قسمت میں لکھا ہوا - علم صرف و نحو میں جو مذکورہ ہو مگر
 اس کے معنی لئے جاویں - مُقْتَدِرٌ صاحب قدرت
 قُدُسٌ یَقْدُسُ قُدْسًا - پاک ہونا - منبرک ہونا
 تَقْدِسُ پاکیزہ ہونا - مُقَدَّسٌ پاکیزہ - متبرک -
 قُدُوسٌ خداوند کریم جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے
 قَدِيسٌ پاک انسان - مُقَدَّسَةٌ پاک زمین
 حَبِيبَةُ الْقُدْسِ - بہشت بیبیت المقدس
 یروم میں پہلا قبلہ انبیاء -

قَدَمٌ یَقْدُمُ قُدُومًا - آگے آنا - پیش قدمی
 کرنا - قُدُومٌ سفر سے واپس آنا - کہیں سے آ پہنچنا -
 قَدَامَةٌ پُرانا ہونا - قَدِيمٌ ہونا - تَقَدَّمَ پیش آنا
 سامنے آنا - قَدَمٌ حِجْ آقْدَامٌ پاؤں - تَقَدَّيْمٌ کسی
 کے سامنے پیش کرنا - مُقَدَّمٌ آگے کیا ہوا - قَدِيمٌ
 حِجْ قَدَمَاءٌ - پُرانا - مُقَدَّمَةٌ اگلا حصہ - وہ معاملہ جو
 کسی کے سامنے پیش کیا جاوے - مُتَقَدِّمٌ پیش رو -
 سردار - لیڈ - حِفْظٌ مَا تَقَدَّمَ جویات آئندہ
 پیش آنے والی ہے اس کی حفاظت یا اس کی پیش بندی
 اِقْدَامٌ جرات - بہادری - پہل - اِقْتِدَاءٌ پیروی
 کرنا - متابعت کرنا - مُقْتَدٍ وَ مُقْتَدِيٌّ پیروی
 کرنے والا - نقل کرنے والا - قُدْوَةٌ نمونہ - وہ شخص جس
 عمل کی پیروی اور نقل کی جائے - مُقْتَدِيٌّ وہ ہستی
 جس کی متابعت کی جائے - قَدْرٌ حِجْ اَقْدَامٌ میل کھیل
 گند - پاخانہ - قَدْفٌ بہتان یا ہمت لگانا -

قَرَّ یَقِرُّ قَرَارًا کسی جگہ ٹھہر جانا - اِقْرَارٌ کسی
 بات کو مان لینا - تَقْرِیرٌ گفتگو کرنا - تَقْرِیرٌ کرنا -
 بیان - قَلٌّ تَقَدَّرٌ مقرر کرنا - اِسْتَقْرَارٌ قرار چاہنا
 قیام کی خواہش کرنا - قَرَارٌ مُسْتَقَرٌّ ٹھہرنے
 کی جگہ - مُقَرَّرٌ تَقْرِیر کرنے والا - مُقَرَّرٌ اِقْرَار کرنے والا -
 مان لینے والا - قَادِرَةٌ شیشی - بَیْلٌ - مَقَرٌّ ٹھہرنے
 کی جگہ -

قَرَأَ یَقْرَأُ قِرَاءَةً وَقْرَانًا - پڑھنا -
 تلاوت کرنا - قرآن پاک کا مطالعہ - قَارِئٌ قرآن پاک
 کا پڑھنے والا - الْقُرْآنُ کتاب اللہ - قِرَاءَةٌ
 قرآن مجید کی تلاوت کا علم - قُرْآنٌ پڑھنے کا عمل پڑھنا
 تلاوت - اِسْتِقْرَارٌ تحقیق کرنا کسی کو کچھ پڑھوانا
 تفتیش کرنا - خصوصاً اشیاء کے خواص کے متعلق ریسرچ
 کرنا -

قَرِبٌ یَقْرُبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا کسی کے
 نزدیک ہونا - قَرِيبٌ ہونا - نزدیک آنا - تَقَرُّبٌ
 پاس جانا - مُقَرَّبٌ ہونا - اَقْرَبٌ بہت نزدیک -
 مُقَرَّبٌ نزدیک کیا ہوا - قُرْبَانٌ اللہ کے نزدیک
 ہونے کا ذریعہ قربانی - قَرِيبٌ حِجْ اَقْرَبٌ
 قَرِيبٌ تَقْرِيبٌ حِجْ تَقَرُّبٌ قَرِيبٌ ہونا
 کوئی واقعہ - قَرِيبٌ حِجْ تَقَرُّبٌ تَقْرِيبٌ تَقْرِيبٌ
 تَقْرِيبًا قَرِيبٌ قَرِيبٌ - قَرَابَةٌ رشتہ داری
 اَقَارِبٌ رشتہ دار - مُتَقَارِبٌ تشابہ - مانند -
 قَرِيبٌ آنے والا - علم عروض میں ایک بحر کا نام -
 قَرِيبُوسٌ زین کا ہتھکڑیا یا اونچا خمدار حصہ -

قَرَحٌ تَقْرِیْحًا زخمی کرنا۔ اقْتَرَحَ اقْتِرَاحًا
 ایجاد کرنا۔ اقْتَرَحَ بِی علی سختی کے ساتھ کسی
 پر سکوت چلانا۔ بے سوچے سمجھے مانگنا۔ قَرَحٌ ج
 قَرُوْحٌ زخم۔ چوٹ۔ گھاؤ۔ قَرِیْحَةٌ طبیعتِ خصلت
 طبیعت۔ قَرُوْدٌ ج قَرُوْدَةٌ بندر۔ بنگلور۔

قَرِیْحٌ ایک عربی سگہ جو آنے کے برابر ہوتا ہے۔
 قَرِیْحٌ عرب کا مشہور قبیلہ جس میں ہمارے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قَرِیْحِیٌّ نسوب بہ
 قبیلہ قریش۔ قَرِیْحٌ ج اقْرَاصٌ کبجہ دوا وغیرہ کی
 گول روٹی۔ ایک۔

قَرَضٌ یَقْرِضُ قَرَضًا کاٹنا۔ کترنا۔ قَارِضٌ
 قرض یا ادھار دینے والا۔ مَقْرُوْضٌ جس نے ادھار
 لیا ہو۔ مَقْرُوْضَةٌ وہ رقم یا چیز جو قرض لی گئی ہو
 اِنْقِرَاضٌ وقت گذرنا۔ مَقْرَاضٌ قینچی۔ کترنی
 قَرَطٌ بالی۔ کان کا زبور۔ قَبْرُوْطٌ مرہم۔ قَرَطَبَةٌ
 گارڈ واہ سیاہی کا شہر۔ قَبْرَاطٌ ج قَدَارِیْطٌ
 دورتی کے برابر وزن۔ قَرَطَاسٌ ج قَدَارِیْطِیْسٌ
 کاغذ۔ تحریر۔ کتاب۔ قَرَطَلَةٌ ٹوکری۔ بیگ۔

قَرَطَمٌ کُنْبٌ کسب کے بیج۔

قَرَطٌ تَقْرِیْحًا مدح کرنا۔ تعریف کرنا۔ ربو یو کرنا
 کسی کتاب وغیرہ کی تعریف کرنا۔ قَرَحٌ دروازہ کھکھٹانا
 آقَدَحٌ گنج جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں

قَرَاغُولٌ کَرَاکُولٌ پولیس چوکی۔ قَوْدَمَةٌ گوشت
 کا سالن۔ قَوْمٌ۔ قَوْمٌ سرخ رنگ۔ ارغوانی رنگ
 قَوْمِیٌّ۔ قَرَامِطَةٌ یعنی شیعوں کے ایک فرقے
 تعلق رکھنے والا۔

قَرُوْنٌ ج قَرُوْنٌ۔ سینگ۔ ایک صدی۔ زمانہ
 قَرُوْنٌ ج اقْدَانٌ کسی کا ہمسر۔ قَرِیْنٌ مصائب
 رفیق۔ ساتھی۔ قَرِیْنَةٌ سہیلی۔ قرینہ۔ تخمینہ۔
 مَقْرُوْنٌ بوڑھا ہوا۔ ملایا ہوا

قِرَانٌ دوستاروں کا ایک بُرج میں اکٹھا ہونا
 قَادُوْنٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مشہور
 مالدار اور کنجوس اور خبیث۔

قَبْرَوَانٌ شمالی افریقہ میں ایک اسلامی شہر
 قَرْنَقَلٌ لونگ۔ قَرِیْتٌ ج قَرِیٌ گاؤں۔
 قَرٌّ ریشم۔ قَرُوْسٌ قَرِحٌ قوس قزح۔ دھنگ

قَسِیْسٌ پادری۔ قَسِیْسِیَّتٌ پادری کا درجہ
 قَسَطٌ یَقْسِطُ قِسْطًا وَاَقْسَطُ انصاف والا
 عادل ہونا۔ مُقْسِطٌ انصاف کرنے والا۔ قَسْطَاسٌ
 ترازو۔ قَسْطَلَانِیٌّ ایک عالم کا لقب

قَسَمٌ یَقْسِمُ قِسْمًا۔ بانٹنا تقسیم کرنا۔
 اَقْسَمٌ یَقْسِمُ اِقْسَامًا قسم یا سوگند کھانا۔
 قِسْمٌ ج اَقْسَامٌ حصہ۔ قِسْمَةٌ بانٹ نصیب
 قاعدہ۔ تقسیم و حساب۔ مُنْقَسِمٌ تقسیم ہونے والا
 مَقْسُوْمٌ تقسیم ہوا ہوا۔ قَسَامٌ بہت تقسیم کرنے
 والا۔ قَسِیْمٌ برابر کا حصہ دار۔

قَسَا یَقْسُو قَسَاوَةً دل کا سخت ہونا۔ سنگدل
 ہونا۔ قَسِیُّ الْقَلْبِ۔ سنگدل سخت دل۔ بے رحم
 قَسْوَةٌ سختی۔

قَشْرٌ ج قَشُوْرٌ چھلکا۔ قَشْرٌ ج قَشْرٌ چھلکا دور کیا
 تَقَشَّرٌ چھلکا علیحدہ ہو جانا۔

اِقْتِصْرَادٌ کا پناہ سکرنا۔ روکنے کھڑے ہو جانا۔
 قَشَعْرِيَّةٌ کچی۔ سکر اہٹ۔ تَقَشُّفٌ بد
 حال ہونا۔ جسم کا گندہ ہونا۔ درویشوں یا سادھوؤں
 جیسی زندگی بسر کرنا۔ قَشْدَاقٌ بیک۔ شفا خانہ۔
 قَصٌّ يَقْصُ قَصًّا عَلٰی بیان کرنا۔ خبر
 دینا۔ قِصَاصٌ خون کا بدل لینا۔ انتقام لینا۔ قَاتِل
 کو خون کے عوض قتل کرنا۔ قِصَّةٌ حَقِ قِصَصٌ قصہ
 کہانی۔ فسانہ۔ واقعہ۔ بیان۔ حالت۔ مَقْصُ مَقْرَضٌ۔
 قِصْبٌ قِصْبٌ زکل۔ قَصَبٌ الشُّكْرُ گناہ۔
 قِصْبَةٌ حَقِ قِصَابٌ قصبہ فہر کا اہم حصہ۔ غذا کی
 نالی۔ قِصَابٌ قِصَابٌ

قَصِدٌ يَقْصِدُ قَصْدًا لِی۔ الی کسی بات کا
 ارادہ کرنا۔ قَاصِدٌ نامہ بر۔ پیغام رساں۔ مَقْصُودٌ
 جس بات کا ارادہ کیا جاوے۔ مَقْصِدٌ حَقِ مَقَاصِدُ
 مطلب۔ ارادہ۔ مقصد۔ قَصِيْدَةٌ حَقِ قِصَايِدُ
 ایسی نظم جس میں کسی کی مدح یا تعریف ہو۔ اِقْتِصَادٌ
 میانہ روی۔ کفایت شعاری۔ دولت کو جمع کرنے کا علم
 قَصْرٌ يَقْصُرُ قِصْرًا چھوٹا ہونا۔ کوتاہ ہونا۔
 قِصْرٌ حَقِ قِصُورٌ کوتاہی۔ غفلت۔ بستی۔

تَقْصِيْرٌ تَقْصِيْرَاتٌ کوتاہی۔ گناہ۔ فوگذاشت
 مَقْصِرٌ کی کرنے والا۔ قِصْرٌ حَقِ قِصَايِرٌ کُورُم
 کے بادشاہوں کا لقب قِصْرٌ حَقِ قِصُورٌ خل۔
 پتھروں کا گھر۔ قَاصِرٌ کی کرنوالا۔ قِصِيْرٌ چھوٹے قد کا
 آدمی۔ قِصَارٌ دھوبی۔ گاؤں۔ مَقْصُورَةٌ کمرہ۔
 پالکی۔ وسیع مکان۔ قِصْعَةٌ پیالہ۔ لکڑی کا پیالہ

اَقْطَى۔ بہت دور۔ اَلْمَسْجِدُ اَلْاَقْطَى مسجد
 یروشلم۔ بیت المقدس۔ اِسْتِقْصَاءٌ بیچھا کرنا۔
 دریافت کرنا۔ تحقیقات کرنا۔
 قِضْبٌ حَقِ قِضْبَانٌ شاخ۔ چھڑی۔ کنایہ از
 آل نناسل۔

قَضَى يَقْضِي قِضَاءً حَقِ قَانَا۔ فیصلہ کرنا۔
 طے کرنا۔ تصفیہ کرنا۔ قِضَا۔ تقدیر۔ فیصلہ۔

قِضِيَّةٌ حَقِ قِضَايَا۔ فیصلہ۔ واقعہ۔ چیز۔ مقدمہ
 عبارت۔ کلام۔ قَاضِيٌ حَقِ قِضَاةٌ حَقِ مَجْطِرِيْط
 حاکم۔ قَاضِيُ الْقِضَاةِ چیف جسٹس۔ قِضَا ضَا
 مطالبہ۔ مُتَقَاضِيٌ۔ جمگٹا کرنے والا۔ مُتَقَضِيٌ

مناسب۔ مُتَقَضِيٌ گذریانے والا۔ ختم ہو جانے والا
 اِقْتِصَاءٌ حَقِ حَاجَتِ۔ ضرورت۔ خواہش۔ قَطٌّ کافی
 وافی بس۔ قِطٌّ بِلَا۔ قُطْبٌ حَقِ اَقْطَابٌ قطب ستارہ
 چنی کے درمیان لوہے کی تختی۔ لٹکا پیارا۔ یعنی

وَلِيٌّ اَللّٰهُ جِوْرًا حَقِ خَدَايِنِ غَيْرِ زَلْزَلِ اَوْ شَاثِ
 قدم اور متقل مزاج ہو۔ قَاطِبَةٌ سب کے تمام

قَطْرٌ يَقْطُرُ قَطْرًا کرنا۔ قطرہ قطرہ ٹپکنا
 قَطْرَةٌ حَقِ قَطْرَاتٌ بوند بوند۔ قَطْرَةٌ حَقِ قَطْرَاتٌ

قَطْرٌ قَطْرٌ۔ قَطْرٌ حَقِ قَطْرَاتٌ بوند بوند۔ قَطْرَةٌ حَقِ قَطْرَاتٌ
 طرف۔ تَقَاطُرٌ بوند بوند ٹپکنا۔ قطرہ قطرہ کرنا۔

مَقْطَرٌ قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ تَقْطِيْرٌ ٹپکانے
 کا عمل۔ قِطَارٌ ٹرین۔ قُطْرٌ حَقِ قِطْرَاتٌ پانی پر چلنے والا

کیڑا۔ مایخولیا کی ایک قسم۔ قَطَعَ يَقْطَعُ قِطْعًا
 قَطَعَ کرنا۔ کاٹ کر جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔

قَفَاءٌ كَرِيٌّ - گردن کا پھیلا حصہ۔ قَافِيَةٌ شَعْرًا
 اَعْرَى حَرْفٍ - مُتَقَفِيٌّ ہوزن کلام۔ سجع والی کلام
 قَائِلَةٌ الِائِي -

قَائِمٌ سَمُورٌ - ایک جانور ہے۔

قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً - کم ہونا۔ تھوڑا ہونا۔ قَلِيلٌ
 تھوڑا۔ کم۔ اَقْلٌ بہت تھوڑا۔ اَقْلِيَّةٌ کم ہونا
 تھوڑا ہونا۔ تَقْلِيلٌ کم کرنا۔ قُلَّةٌ پہاڑ کی چوٹی
 اِسْتِثْلَالٌ مطلق العنان ہونا۔ آزاد ہونا۔

مُسْتَقِيلٌ آزاد۔ مطلق العنان۔ خود مختار۔ قَلِيلًا
 قَلِيلًا تھوڑا تھوڑا۔

قَلْبٌ يَقْلِبُ قَلْبًا وَقَلْبٌ - تبدیل کرنا۔

اَلثَّادِيْنَا - اِنْقِلَابُ اَلثَّالِثِ پلٹ ہو جانا۔ مُنْقَلِبٌ
 اَلثَّالِثِ پلٹ ہو جانے والا۔ قَلْبٌ رُحْ قَلُوبٌ دَل

رُوحٌ - قَالِبٌ رُحْ قَوَالِبٌ - ڈھانچہ۔ کالبد تَقَلَّبٌ
 ہیر پھیر۔ مَقْلُوبٌ اُلْثَايَا ہُوا مُقْلِبٌ اُلْثَا

وِيْنِ وَالَا - بدل دینے والا۔ قَلَدٌ تَقْلِيدٌ اِمَارٌ
 پہنانا۔ کسی کی نقل اُتارنا۔ کسی کی پیروی کرنا۔

قَلَادَةٌ رُحْ قَلَادِيْدٌ - پٹکا۔ ہار گلے کی مالا۔
 قَلِيْدٌ رُحْ مَقَالِيْدٌ - چابی۔ میگزین۔ خزانہ۔

مُقَلِّدٌ کسی امام کی پیروی کرنے والا۔ تَقْلِيْدٌ كَرِيْمًا
 نقل اُتارنے والا۔

قَلْبُورٌ ایک چھوٹے سمندر کا نام جو ایک شہر کے
 نام پر ہے۔ قَلَنْسُوَةٌ - کلاہ۔ ٹوپی۔

قَلْعٌ يَقْلَعُ قَلْعًا جُرْسٌ اَكْهَارُنَا بِيْعٌ كُنِي كَرْنَا -
 قَلْعٌ بِيْعِيَاں جُوْلُوں يَامُنْهَ پَر ہوں۔

تَقْطِيعٌ کاٹنا علیحدہ علیحدہ کرنا۔ شعروں کی صرفی

نحوی ترکیب بیان کرنا۔ قَاطِعٌ کاٹنے والا۔
 مَقْطُوعٌ کاٹا ہوا۔ قِطْعَةٌ رُحْ اَقْطَاعٌ مَكْرَاهٌ

قِطْعَاتٌ ٹکڑے۔ اِنْقِطَاعٌ اَلْكَ ہُو جَانَا -
 مُنْقَطِعٌ اَلْكَ ہُو جَانَا وَالَا - مَقَاطِعَةٌ

تعلق چھوڑ دینا۔ قِطْعًا بِلَا شَكٍّ وَشِبْہِ قَاطِعٌ
 الطَّرِيقِ رَاہِزِنٌ - ڈاکو۔ قَطِيعٌ يَقِيْنِي مَقْطَعٌ

غزل یا قصیدہ کا آخری شعر۔ مَقْطَعَةٌ رُحْ مَقْطَعَاتٌ
 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ قرآن پاک کی بعض سورتوں

کے ابتدائی حروف۔ مَثَلًا اَلْمَخْمَلِيسَ وَغِيْرَ
 قَطْفٌ خُوشہ چینی۔ مُقْتَطَفٌ چِنَا ہُوا اِنْتَاب

کیا ہوا۔ قَطْنٌ۔ کپاس قَاطِنٌ بَاشِدہ -
 يَقْطِئِنٌ گول کدو کی بیل۔

قَعْدٌ يَقْعُدُ قُعُودًا - عِيْمَانَا - قَاعِدٌ رُحْ
 قُعُودٌ بِيْعِيْنِ وَالَا بے کار مَقْعَدٌ رُحْ مَقَاعِدٌ

بِيْعِيْنِ کی جگہ۔ سُرْبِنٌ - قَاعِدَةٌ رُحْ قَوَاعِدٌ بِنِيَاد
 قَانُونٌ - ضَابِطہ - نَمُونہ - ذُو القَعْدَةِ - گیارہواں

قَمْرِي ہَيْبِنہ - قَاعِدَةُ المُلْكِ وَا رَا الحِمْلا فہ -
 مَتَقَاعِدٌ پِذْشَرٌ وَظِيْفہ يَاب - قَحْرٌ كِهْرَائِي نہ

مَقْعَرٌ كِهْرَا - كِهْرَائِي وَالَا - كُهوكھلا - عِيْمِن -
 قَفْصٌ بِنَجْرَا - قَفْصٌ

قَفْلٌ رُحْ اَقْفَالٌ تَالہ قَفْلٌ قَافِلَةٌ رُحْ قَوَائِلٌ
 مسافروں کی بہت قافلہ قَيْفَالٌ بازو کی ایک رگ کا

نام۔ سَرَارٌ وَ جُو سُرْ كِي بِيَارِيُوں كے لئے كھولي جَاتِي ہے
 مَقْفَلٌ قَفْلٌ لُكَايَا ہُوا - بِنَدَرٌ كِيَا ہُوا -

قَلْعَةٌ قِلَاعٌ - کوٹ - قلعہ - گڑھی - حصار - مقلوع
 اُكْحَارًا ہوا۔ قُلْفَةٌ عضو تناسل کا بڑھا ہوا اجڑا
 قَلَقٌ يَغْلِقُ قَلَقًا - مضطرب ہونا۔ بے چین ہونا
 قَلَقٌ بے چینی۔ قَلْبِيَّةٌ گوشت والی چیز بھوننا
 قُلُقَاسٌ زمین قند۔ رتالو۔ بندے۔

قَلَمٌ يَقْلِمُ قَلَمًا وَقَلَمٌ كَاثِنٌ - قَلَمٌ
 قَلَمٌ قَلَمٌ قَلَمٌ - بُو قَلَمُونَ گونا گوں تَقْلِيمٌ
 تراشنا۔ اِقْلِيمٌ اَقَالِيمٌ ولایت۔ ملک
 بَرَاعَةٌ مَقْلَمَةٌ قلم دان۔ قَلِقٌ تیز پات۔
 ساذج ہندی۔ قَوْلَانِجٌ امعا کا سخت درد۔ قَوْلِجٌ
 قَمَدٌ اَقْمَادٌ چاند قَمَرِيٌّ منسوب بہ قمر
 قَمَادٌ جُوَا۔ قمار بازی۔

قَامُوسٌ قَوَامِيْسٌ سمندر۔ لغات کی کتاب
 قَمَاشٌ۔ سامان۔ کاٹھ کباڑ۔ قَمِيصٌ۔ کرتہ
 بُنْيَانٌ تَقْمِصٌ قمیص۔ پہننا۔ کرتہ پہننا۔

قَمْعٌ سر پر مارنا۔ کسی کام سے باز رہنے پر مجبور کرنا۔
 قَامِعٌ روکنے والا۔ دُور کرنے والا۔ قَمَلٌ۔ جوں
 قَتَبٌ بَنَكٌ۔ قَانُونٌ قَوَانِيْنٌ دستور
 ضابطہ۔ قاعدہ۔

قُنْبَرٌ قُنْبَرَةٌ چنٹول۔ چکاوک۔ قَنْدٌ
 کھانڈ۔ گُر قَنْدِيْلٌ قَنَادِيْلٌ جھاڑو اور فانوس
 قَعَتٌ يَقْنُتُ قُنُوْتًا۔ فرمانبردار ہونا۔

اطاعت گزار ہونا۔ عابد ہونا۔ دُعا کرنا قَانِتٌ فرمانبردار
 دُعاگو۔ عابد زاہد۔ قُنُوْتٌ اطاعت الہی۔ پارسائی
 دُعا۔ قَانِيصَةٌ سنگدانہ۔ پوٹہ۔ پرندہ کا معدہ

قُنْصَلٌ کونسل۔ سفیر۔ ایلچی۔ مُشِيرٌ
 قَنْطَ يَقْنُطُ قُنُوْتًا۔ نا امید ہونا۔ مایوس ہونا
 قَانِطٌ مایوس۔ نا امید۔ قُنُوْتِيَّةٌ نا امید۔ مایوسی
 کی حالت۔ قَنْطَرَةٌ قَنْطَرَةٌ قَنْطَرَةٌ گنبد دار قبۃ۔
 قَنْطَارٌ قَنْطَارٌ ایک ہزار دینار۔

قَنْطَارِيُونٌ ایک بوٹی کا نام ہے جو مزے میں
 کڑوی اور مقوی معدہ ہے۔

قَنْعٌ يَقْنَعُ قَنْعَةً تھوڑی چیز پر صبر کرنا۔
 قَانِعٌ صبر کرنے والا۔

مَقْنَعٌ وہ شخص جس کے سر پر لوہے کی ٹوپی (خود) ہو
 قَنْفَذٌ خارشیت۔

اَقْنُوْمٌ اَقَانِيْمٌ عیسائیوں کے عقیدے کے
 مطابق باپ بیٹا۔ روح القدس میں سے کوئی ایک
 ذات۔ افرادِ تشلیت میں سے ایک فرد۔

اَحْمَرٌ قَانٌ سخت سُرخ

قَهْرٌ قَهْرٌ - واروغہ۔ گرتا دھرتا۔ محنت۔ مطلق۔

قَهْقَهْرِيٌّ پیچھے ہٹنا۔ اُلُجٌ پاؤں چلنا۔

قَهْقَهْرَةٌ زور سے ہنستا۔ کِلْبٌ کِلْبٌ ہنستا۔

قَهْرٌ يَقْهَرُ قَهْرًا۔ قَهْرٌ قَهْرٌ۔ قَهْرٌ۔

قَاهِرٌ غالب۔ زوردار۔ قَهْرٌ قَهْرٌ۔ قَهْرٌ۔

قَهْوَةٌ کافی۔ ہموہ۔ کوکو۔

قَاتٌ يَقْمُوْتٌ قُوْتًا۔ خوراک دینا غذا دینا

قُوْتٌ جمع اقوات۔ خوراک۔ غذا۔ مُقْبِيْتٌ

مقتدر۔ محافظ۔ نگران۔ خوراک دینے والا۔

قَادٌ يَقْمُوْدٌ قِيَادَةً۔ آگے سے کسی کو لے کر گھومنا۔

(۵) ضمیر منفصل منصوب کے ساتھ جیسے اِيَاكَ
(صرف تجھ کو)

(۶) بعض اسماء افعال کے ساتھ جیسے دَرَوَيْدَكَ
پھر جاؤ۔

كَأَنَّ ج كَوُوسٌ - پیالہ کھورا۔ کَاذُ كَيْسٍ
كَادُنَج - کَاذَاتٌ۔ پیشہ۔ کام۔

كَأَنَّ (۱) حرف تشبیہ جیسے كَأَنَّ ذَيْدٌ أَسَدٌ گویا
زید شیر ہے، (۲) بمعنی شك و ظن کے كَأَنَّ ذَيْدٌ
قَائِمٌ شَاذٌ زَيْدٌ كَهْرًا ہے (۳) تقریب کے لئے جیسے
كَأَنَّكَ يَا دُنْيَا لَمْ تَكُنْ وَفِي الْآخِرَةِ
لَمْ تَزَلِي قَرِيبٌ ہے کہ دُنْيَا میں نہ ہو۔ اور آخرت
میں ہمیشہ رہے۔

کِتَابٌ - بھونا، ہوا گوشت کَبِدٌ ج اَكْبَادُ جَرٍ
مَكْبُودٌ جگر کی بیماری والا۔ عَظْمٌ اَلْکَبِدِ
ورم الکبد کا مریض۔

كَبِيرٌ يَكْبُرُ كِبْرًا - بڑا ہونا۔ بڑی عمر کا ہونا
تَكْبِيرٌ - بڑائی بیان کرنا۔

كَبِيرٌ ج كِبْرَاءٌ بڑا۔ بڑی شان والا۔ تَكْبِيرٌ
مُتَكَبِّرٌ ہونا۔ بزرگی و عظمت والا ہونا۔ اَكْبَرُ ج

اَكْبَرٌ بہت بڑا۔ کَبِيرٌ ج كِبْرٌ بہت
بڑی معیبت یا گناہ مُتَكَبِّرٌ مُتَكَبِّرٌ بڑائی کرنا

مُسْتَكْبِرٌ بڑا بننے کی خواہش کرنے والا۔ كَبْرٌ
بُخْرٌ - ستاخی۔ كَبْرٌ ہی بہت بڑی (عورت)

اَقْرَانُ کِبْرٍ شَرَابٌ - کَبْرٌ بَرِيَاءٌ بزرگی عظمت
غور۔ کَبْرٌ لَيْتٌ کَبْرٌ۔ دیاسلانی۔ یا قوتِ احر

كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا - لکھنا۔ تحریر کرنا۔ مصنف
بننا۔ فیصلہ دینا۔ كِتَابَةٌ لکھنے کا کام کرنا۔ كَاتِبٌ

ج كُتِّبَ لکھنے والا۔ كِتَابٌ ج كُتِبَ كِتَابٌ
خط حکم۔ مِزَانٌ فیصلہ۔ مَكْتُوبٌ خط۔ لکھا ہوا ج

مَكَاتِبٌ - مَكْتُوبَةٌ لکھی ہوئی۔ مَكْتُوبٌ
اَلَيْهِ جس کی طرف خط لکھا جاوے۔ مَكْتُوبٌ ج

مَكَاتِبٌ مَوْتٌ مَكْتَبَةٌ کتب خانہ۔ لائبریری
لکھنے یا پڑھنے کا گھر۔ اَهْلُ اَلْکِتَابِ یہود و نصاریٰ

اَقْرَانُ کِتَابٍ سو قافلوں کا کتب آپس میں خط و کتابت
کرنا۔ کِبْرًا کَاتِبِينَ فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے

ہیں۔ کِتَابٌ ج اَكْتَابٌ موندھا کندھا شانہ
کَاثُولِيكٌ کیتھولک۔ یونانی۔

كَتَمَ يَكْتُمُ كِتْمَانًا - چھپانا۔ كَاتِمٌ
پرائیویٹ سیکرٹری۔ مَكْتُومٌ چھپا ہوا۔

كَتْمَانٌ - اسی کا پورا

اَكْثَرٌ يَكْثُرُ كَثْرَةً بہت ہونا۔ اَكْثَرٌ زَيْدٌ
بے شمار۔ بہت اَكْثَرٌ بہت زیادہ۔ كَوْثَرٌ

بے شمار۔ خیر کثیر۔ بہشت کا ایک دریا
تَكَثَّرَ تَعَادُلٌ میں بہت ہونا۔

اَكْتَفَى يَكْتَفِي كِتْفًا - کتف ہونا
کَتِيفٌ کتف والا۔

كَحْلٌ يَكْحَلُ كَحْلًا وَكَحْلٌ وَرَأْسُ نَمْرٍ
اگانا۔ آنکھ میں سرمہ ڈالنا۔ كَحْلٌ سرمہ آنکھ

میں ڈالنے کی دوا۔ كَحِيلٌ آنکھ جس میں سرمہ ڈالا
ہوا ہو۔ كَحَالٌ سرمہ فروش اَلْاَكْحَلُ بازو کی ایک رگ

مِثْلَهُ سِرْمَوَانِي كَذَّبَ مَحْنَتَ كَوْشَشِ

كَذَّبَ يَكْذِبُ كَذُورَةً كَدَلَهُ هَوْنًا - مِيلًا هَوْنًا -

مُنْكَرٌ - پراگندہ طبع - كَوْدَانٌ - بیوقوف مخلوط نسل

كَذَّبَ يَكْذِبُ كَذْبًا جَهْوَةً بُولْنَا كِذْبًا

جَ آكَازِيْبٍ جَهْوَةً - كَاذِبٌ جَهْوَةٌ بُولْنَا وَاللَّ

كَذَابٌ بَهِتٌ جَهْوَةً - تَكْذِيْبٌ كَسِيٌّ كَوْجَهْلَانَا

اِنْكَارُ كَرْنَا - مَكْذِبٌ جَهْوَةً كَبْنَةُ وَاللَّ -

كَذَابٌ كَذَابِيْكَ وَهَكَذَا - اِسِي طَرِحَ - اِسِي

طَرِحَ سَعَى - اِسِي طَرِيْقَهُ سَعَى -

كَزَّيْتُ كَزًّا - وَتَكَرَّرَ عَلَيَّ لَوْطًا لَوْطًا

حَلَمَ كَرْنَا كَسِيٌّ پَرَالِطٌ پَرْنَا - دَوْبَارَهُ حَلَمَ كَرْنَا - كَزَّارٌ

بَارِبَارٍ حَلَمَ كَرْنَا وَاللَّ - تَكَرَّرَ اِدْبَارًا اِلْتَانًا - وَهَرَانَا

كُرَّةٌ وَكُرَّةٌ كَوْلٌ - كَرَاهِضٌ - كَلْبٌ - كَبِنْدٌ - مَكْرَدٌ

وَهَرَايَا هَوَا - دَوْبَارَهُ كَمَا هَوَا - لَوْطَايَا هَوَا - كُرَّةٌ جَ كُرَاتٌ

اِيْكَ بَارِبَارِي - نَوْبَتٌ - كَرِيْبٌ وَكُرِيْبَةٌ جَ كُرُوْبٌ

فَكْرٌ - رَجٌّ - مَشَقَّتٌ - كُرُوْبِيٌّ - مَقْرَبٌ - فَرَشْتَةٌ - عِبْرَانِي

لَفْظُهُ - كَرِيْبَاتٌ - كَهْدَرٌ - كَهْرُورٌ - اِكْبْرَا -

كُرُوْبِلَاؤٌ - عِرَاقٌ - عَرَبٌ - اِسِي وَهَجَلٌ - جِهَانٌ - پَرِ حَضْرَتِ

اِمَامِ حَسِيْبِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَهِيْدٌ هُوَسَى -

كُرُوْبِيٌّ - كَرَبْتَانِيٌّ - كُرُوْبَانَةٌ - كَارِفَانٌ - دَسْتَكَارِي

كِي دُوْكَانٌ - كُرُوْبِيٌّ - كُرُوْسْتَانٌ - كَابَا شَنْدَه -

كُرُوْبَانَةٌ - كَنْدَانَا كِرُوْبِيَّتٌ - جَنْزِيْرَةُ كِرِيْبٌ - كَانْدِيَا -

كُرُوْسْتَانَةٌ - كَابِي - پَمْفَلٌ - كُرُوْسِيٌّ جَ كُرُوْسِيٌّ تَحْتِ

كُرُوْسِيٌّ - كُرُوْسْتَانَةٌ جَ كُرُوْسَاتٌ - سَوَارِي كِي كَاؤِي

كُرُوْسِيَّتٌ - رِيوَارِي - اِيْكَ لُوْوَكَانَا مَجْمُوْعٌ كِي كَبِيْتٌ - اِسِي

هُوَ تَابَعٌ كَرُوْبِيٌّ

كَرْفَسٌ - جَنْكِي اِبْوَانٌ -

كُرُوْبِيٌّ جَ - كَلْنَكٌ - كَوْحٌ - سَارِسٌ - بَلَا - كُرُوْبَانٌ كَبِيْبٌ

كُرُوْبِيٌّ - زَعْفَرَانٌ - كَبِيْرٌ - كُرُوْبِيٌّ كَرْمٌ - سَاكٌ - كَرْمٌ - كَلَا -

كُوْبِيٌّ -

كُرُوْمٌ يَكْرُمُ كَرَمًا وَكَرَامَةً سَعِي هَوْنًا عَالِي

وَصَلَهُ هَوْنًا - بَرْزَكٌ وَشَرِيْفٌ هَوْنًا - كُرُوْمٌ شَرَاْفَتٌ

دَرْ كَرٌ - فَيَاضِيٌّ - اِكْرَامٌ تَعْظِيْمٌ كَرْنَا - عَزَّتٌ سَعَى

پِيْشِ اَنَا - كِرِيْمِيٌّ جَ كِرَامٌ - بَرْزَكٌ - شَرِيْفٌ مَوْجِدٌ

اِكْرَامٌ زِيَادَةٌ شَرِيْفٌ - تَكْرِيْمٌ عَزَّتٌ - تَوْقِيْرٌ -

مَكْرَمَةٌ جَ مَكَاْرِمٌ عَزَّتٌ كَا كَامٌ - مَكْرَمٌ مَسْرُوْمٌ

بَا عَزَّتٌ مَوْثٌ - مَكْرَمَةٌ كَرَامَةٌ خَارِقٌ عَمَلَاتٌ

اِمْرُوْا وِلْيَاءُ كِي طَفِيْلٌ ظَاهِرٌ هُوَ - كِرِيْمَةٌ شَرِيْفٌ عَوْرَتٌ

بِيْطِي كِرِيْمَتَانٌ - دَوْنُوْنٌ اِنْكَهِيْسُ كَرَامَةً

شَرَاْفَتٌ - حُبًّا وَكَرَامَةً - بَسْرُوْشِيْمٌ - بِيْجَانٌ وِدَلٌ

كِرِيَةٌ يَكْرَهُ كَرَاهَةً نَاپَسَنْدُ كَرْنَا -

اِكْرَاةٌ مَجْبُوْرٌ كَرْنَا - نَاپَسَنْدُ كَامٌ پَرِ اَمَادَه كَرْنَا -

كَرَاهَةً كَرَاهِيَّةٌ - نَفْرَتٌ - كَرَاهِتٌ - كَارِيَةٌ

كَرَاهِتٌ يَانْفَرَتُ كَرْنَا وَاللَّ - مَكْرُوْهَةٌ جَ

مَكْرُوْهَاتٌ نَاپَسَنْدِيْدَه كَامٌ - سَخْتِيٌّ - مَصِيْبَتٌ

اِسْتِكْرَاةٌ نَاپَسَنْدُ خِيَالٌ كَرْنَا يَا پَانَا - كِرِيَّةٌ

نَاپَسَنْدِيْدَه مَكَاْرِدَةٌ نَاپَسَنْدِيْدَه اِمُوْرٌ - مَصَابِيْ

نَفْرَتِيْنٌ - كِرَاءٌ كَرَايَهٌ پَرِ دِيْنَا - كَرَايَهٌ - مَزْدُوْرِيٌّ -

اِحْرَتٌ - مَحْصُوْلٌ (بِيْهَارَه) مَكَاْرِدُ كَرَايَهٌ پَرِ دِيْنِيْ وَ

كُرُوْبِيٌّ جَ كُرَاتٌ كَرَهٌ - كَبِنْدٌ - مَدُوْرٌ - كُھُوْسٌ -

كُرُوْبِيٌّ - مَدُوْرٌ - كُوْلٌ - كُرُوْبِيٌّ - كَشِيْنِيْزٌ - دَهْنٌ

كُسْبُوْرِيٌّ

کُزَاذٌ اِیکَ بَیَّارِیِّ جِسِّ مِیْنِ سَرْدِیِّ کِی وَجْهَ سَے گَرُون
کَے اَعصابِ اَکْڑ جَاتَے ہِیں۔ کُشِیُّ۔ شَرْمِ گَاہ۔ اِزَامَ تَہَانِی
کَسَبٌ یَکْسِبُ کَسْبًا وَ اِکْتَسَبَ کَمَا نَا۔ کَمَا نِی
کَرْنَا۔ حَاصِلِ کَرْنَا۔ کَاسِبٌ کَمَا نَے وَ اِلا۔ پِیشَہ اَخْتِیَارِ
کَرْنِے وَ اِلا۔ اِکْتَسَابٌ کَمَا نِی کَرْنَا۔ حَاصِلِ کَرْنَا۔ فَائِدَہ
نَفْع۔ اِکْتِسَابٌ حَاصِلِ کَیَا ہُوَا (عَلْمِ یَا وَ اَقْفِیَّتِ)
کَشْتَبَانٌ۔ اَنکَشْتَانِہ

کَوْ سَجٌ کھوسہ۔ کوسہ جس کی ٹھوڑی پر ڈاڑھی ہو
کُسَاخٌ۔ اِپاہِجِ پِن۔ مَاتِقَہ یَا پَاؤں کَا ٹِیڑھا ہُو جَانَا
کَسَدٌ یَکْسُدُ کَسَادًا اَسَامَانِ تِجَارَتِ کِی بَکْرِی
مندی یا مدھم پڑ جانا۔ کَسَادٌ۔ کَسَادٌ بَازَارِی۔ سَامَانِ
تِجَارَتِ کِی فَرَوختِ نہ ہونا۔ کَا سِدٌ نِجْمَانَال۔ بَے بَکْرِی
کَا (بَازَارِ)

کَسْرٌ یَکْسِرُ کَسْرًا۔ تَوْرَانَا۔ کَسْرٌ کَی جِ کَسْرٌ
زَیْرِ کِی حَرکتِ مَکْسُورٌ اِیسا حَرَفِ جِسِّ پَر زَیْرِ کِی حَرکتِ
آئے۔ اِنکِی سَادٌ تَوْرَانَا۔ تَوْبِیلِ وَ تِیَاہ ہونا۔ مُنکِی سِرٌ
فَرَوختِ اِختِیَارِ کَرْنِے وَ اِلا۔ کِشْمِ اِی جِ آ کَا سِرٌ
اِیْرَانِ کَے بَادِ تَہَا ہوں کَا لَقب۔ اِکْسِیْبُزُ وَ دَوَا سِ
سَے سَوْنَابِنِ جَانَا ہِے۔ کِی مِیَا۔ رَسَائِنِ جَمْعُ التَّکْسِیْبِ
جَمْعِ کِی وَ ہِے جِسِّ مِیْنِ وَ اِحدِ کِی تَرْتِیْبِ قَا لِمِ نہ رَہے جِیہ
جَلُّ کِی جَمْعِ دِجَالٌ

کَشَفَ یَکْشِفُ کَشْفًا۔ سَوْرَجِ یَا پَانَدِ کَوْرَہِنِ
کَٹَا۔ صَلْوَةُ الْکَشُوفِ سَوْرَجِ گَرہِنِ یَا پَانَدِ گَرہِنِ
اِزَامَ۔ مُنکِی سِفٌ گَہِنِ مِیْنِ اِیَا ہُوَا سَوْرَجِ یَا پَانَدِ
کَشِیْلٌ یَکْشِلُ کَشْلًا سُسْتِ ہونا۔ کَا ہِلِ ہونا۔
عَا فِلِ یَا لَپَرِ وَ اِہُوَا

تَکَا سَلٌ سُسْتِ۔ کَا ہِلِ عَفَلتِ یَا لَپَرِ وَ اِہُوَا۔
کَسَا یَکْسُو کَسُوًا لِبَاسِ پِشَانَا۔ کِشْوَفٌ۔ اِیَا سِ
کِشْتَبَانٌ۔ وَرِزِی کِی اَنکُوشِی۔ اَنکَشْتَانِہ۔ کَشُوفٌ
اِکَا سِ بِلِ۔ اَفْتِیْمُون۔ کَشْکُ آسِشِ ہُو۔
کَشْکُولٌ۔ کَشْکُولِ۔ گِ اِگَرِوں کَا بَرْتِن۔

کَشَفَ یَکْشِفُ کَشْفًا۔ کَھولْنَا۔ قَا ہِرِ کَرْنَا۔
وَ رِیَا فِتِ کَرْنَا۔ اِکْتِشَافٌ کَھُوجِ لَگَانَا اِیْجَادِ کَرْنَا۔
کَشْفٌ جِ کَشُوفٌ وَ مَکْشِفَةٌ کَشْفٌ۔ اِہَامِ
بِیْرَی کِی حَالَتِ مِیْنِ رَوِیَا جَوِ اِہَامِ سَے وَ سَرِ دَرَجِہ
پَر ہِے۔ جِسِّ مِیْنِ آئِنَدِہ کَے حَالَتِ یَا دَوْرِ کِی حَالَتِ
عَنُودِ کِی وَ رِ بُو دُگِی کَے دَوْرَانِ مِیْنِ دَکھَانِی جَاتِی ہِے۔

اِنکِشَافٌ نَدَا ہُو جَانَا۔ ظَاہِرِ ہونا۔ حَقِیْقَتِ کَا وَ اَضْرَحِ
ہُو جَانَا۔ مُنکِشِفٌ اِنکِشَافِ کَرْنِے وَ اِلا۔ مَکْشُوفٌ
جِ مَکْشُوفَاتٌ وَ اَضْرَحِ شَدِہ حَقِیْقَتِ۔ کَشَافٌ
بَہْتِ وَ رِیَا فِتِ کَرْنِے وَ اِلا۔ کِشْمِ شُرٌ۔ خَشْکِ اِنکُورِ
کَظِیْمِ غَصَہِ کُو پِی بِلَہِے وَ اِلا۔ غَصَہِ کُو دِبانے وَ اِلا۔
کَھَبَہٌ بَیْتِ اَشْرَفِ شَرِیْفِ۔ مَکْشِفٌ ہر جِیہ جِسِّ
کِی اَو سِجَانِی وَ چَوْرَانِی وَ لَمِیَانِی بَرَابَرِ ہُو۔ کَشِیْفٌ شَخْرَکِ
ہڈِی۔ ہَرِ بِلَہِے جِیہ

کَا حَکٌ کِی بَک۔ بَسْمَا۔ اِیْرَانِ کَا اِیْرَانِ
کَا نَدِہ پِیْرِہِ
کَشَفَ یَکْشِفُ کَشْفًا عِن۔ ہَتَا نَا۔ دَکھَانِ کَشْفِ
تَرَا زُو کَا پِلَا۔ کَشَفٌ ہَنْجِیْلِ کَا فِ سَبِ کَشِیْفِ
لَقَاتٌ اِسِ قَدِ رِ عَاشِ یَا رُو ذِی رُو کَدَا۔ مَکْشِفٌ
کَاتِی ہُو۔ کَشُوفٌ بَرَابَرِ کَا۔ کِ مَکْشِفٌ ہَرِ جِیہ جِسِّ
کَا

دَاعُ الْكُتَيْبِ ہلکاؤ کا مرض۔ کِلَا۔ کِلْتَا۔ دونوں
ہر دو۔ کَلْبِيْهِمَا۔ دونوں۔ کَلْبُوْمٌ۔ پر گوشت ٹانوں
والی عورت۔ کَلْبٌ۔ چونا۔ تَكْلِيْسٌ۔ چونہ بنانا۔ کسی
دھات کو گشتہ کرنے کا عمل۔ مَكْلَسٌ گشتہ کردہ۔
مَكْلَسٌ چونہ فروش۔

كَلْفٌ چہرہ کا داغ۔ دَضْبٌ۔ سرخی یا سیاہی بال داغ
كَلْفٌ۔ تَكْلِيْفٌ میں ڈالنا۔ مُكَلَّفٌ کرنا۔ كَلْفٌ بے آبی
مشقت۔ مَجْبُوْرٌ۔ تَكْلِيْفٌ ج تَكْلِيْفٌ۔ تَكْلِيْفٌ۔ رسم
موصول۔ اخراجات۔ تَكْلَفٌ جان بوجھ کر مشکلات میں
پڑنا۔ مَتَكَلَّفٌ منافق۔ مَكْلَفٌ۔ قِمْتٌ۔ ذمہ وار بنانا
ہوا۔ مامور یا باز پرس کے لائق۔

كَلِمٌ بِيْكُمْ كَلِمًا وَ كَلِمٌ تَكْلِيْمًا زخمی کرنا
كَلِمٌ تَكْلِيْمًا وَ كَلِمًا بَاتٍ کرنا۔ گفٹو کرنا
مخاطب ہونا۔ تَكَلَّمَ کوئی کلام یا زبان بولنا۔ مَتَكَلَّمٌ
کلام کرنے والا۔ كَلْبٌ دوسرے سے یا آپس میں بات
چیت کرنے والا۔ كَلِمَةٌ ج كَلِمَاتٌ بات۔ جملہ کلمہ
لفظ۔ كَلَامٌ گفٹو۔ کلام۔ مقولہ۔ جملہ۔ لغت۔ عِلْمٌ
الکلام۔ وہ علم جس میں مذہب کی باتیں بدلائل عقلیہ
ثابت کرتے ہیں۔ كَلْبِمُ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا لقب۔ كَلْبَةٌ ج كَلْبَاتٌ۔ گردہ۔

كَمٌ کس قدر۔ کتنا۔ کتنے۔ بہت۔ کئی۔ كَمِيَّتٌ مقدار
تعداد۔ كَمٌ جمع نذر حاضر کی شمیر (تم سب مرد) كَمًا
تم دونوں۔ كَمَا جیسے۔ جس طرح سے کہ۔ ایسے۔ اِسْرَ
طرح سے۔ كَمِيْبًا لَمْ۔ ہنڈی۔ قبیلہ۔ چک۔
كَمِيَّتٌ سیاہی بال سرخ (گھوڑا) كَمْرٌ كَمْرٌ چنگی خانہ

كَفَرٌ بِيْكُمْ وَ كُفْرًا۔ ڈھانکنا۔ چھپانا۔ انکار کرنا
ناشکری کرنا۔ کافر ہونا۔ كُفْرَانٌ۔ ناشکر گزاری۔
كَافِرٌ كُفْرًا خدا کا منکر۔ تَكْفِيْدٌ کسی کو کافر کہنا
مَكْفُوْدٌ کافر کہنے والا۔ كَافُوْدٌ ایک جرم گش سفید
رنگ کی دوا کا نام ہے۔ كُفْرَانَةٌ خیرات۔ روزہ۔
ایسی نیکی جو دوسری کے قائم مقام ہو۔

كَفَسٌ بِيْكُمْ كَفَالَةٌ وَ كَفَسٌ كَفَالَةٌ
ياضامن بنانا۔ كَفَالَةٌ ضمانت۔ ذمہ داری۔
كَفِيْلٌ۔ ضامن۔ مَتَكَفَّلٌ ذمہ داری لینے والا۔ یا
ضامن بننے والا۔ پُرُوْرٌ شہ کرنے والا۔ كَافِلٌ پُرُوْرٌ
کرنے والا۔

كَفَنٌ بِيْكُمْ كَفْنًا۔ مُرُوْدٌ کو کفننا یا ڈھانکنا
تَكْفِيْنٌ مُرُوْدٌ کو کفن میں پھیٹنا۔ كَفَنٌ ج الْكَفَانُ
مردے کو پھیننے کا کپڑا۔

كَفَى بِيْكُمْ كِفَايَةً۔ ضرورت کے مطابق ہونا
کافی ہونا۔ الْكِفَاؤُ بیا کسی چیز پر قانع ہونا۔
مُكَافَاةٌ۔ عوض۔ بدلہ۔ صلہ۔ جزا۔ معاوضہ۔

بِالْكَفَايَةِ۔ کافی طور پر۔ كَافٌ کافی۔ بقدر ضرورت
مَكْفِيْنٌ۔ کفایت کرنے والا۔ كَسٌ سب کا سب
بِالْكَيْفِيَّةِ۔ پورے طریقہ سے بالکل۔ كَلْبٌ مَسُوْبٌ کُلُّ
آل كَلْبِيَّةٌ۔ محرم شہوں۔ كَلْبِيَّاتٌ سب کی سب نظم
بہتر یا مجموعہ۔ كَلْبٌ ہرگز نہیں۔ ہاں ہاں۔ ضرور۔
سُجٌّ كَلْبًا جب کبھی۔ جو کچھ۔ یہاں پر ہوا مصدر کے
ساتھ کُلُّ کے کرایے کے لئے آتا ہے۔

اِسْتَرْشِيْكُمْ تَارٌ۔ مَسْكَلٌ تَارٌ پونہ یا ہوا۔ كَلْبٌ ج
كَلْبَاتٌ۔ کلاب

کُمْدَجِيْ مَحْصُوْلٌ لِيْنِ وَالْاَكْمَثْرَايِ - ہي۔ امرود
 نَاشِبَاتِيْ كِمِيْنٌ - گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ۔
 كِمَادٌ وَه كِبْرًا جَس سَعِيْ كُوْر كِيْ جَايْ - تَكْمِيْدٌ كُوْر كَرْنَا
 كَمَلٌ يَكْمَلُ كَمَالًا - صَبِيْبٌ هُوْنَا - پُوْرًا هُوْنَا -
 بے کم و کاست ہونا۔ تَكْمِيْلٌ پُوْرًا كَرْنَا - كَمَالٌ ج
 كَمَالَاتٌ سَرَانَجَامٌ كُوْ پَهِنَجَا - كَامِلٌ پُوْرًا - مُوْنَتٌ
 كَامِلَةٌ مَكْمَلٌ كَامِلٌ كِيَا هُوَا - تَكْمِيْلَةٌ وَه حَصَّةٌ
 جَس كے ساتھ كوئی مضمون پورا ہو جاوے۔ سِمْپِلِمَنْٹ
 اِكْمَالٌ كَامِلٌ كَرْنَا -

كَمُنٌ يَكْمُنُ كَمُوْنَا - اِنِي تِيْنِ چھپانا۔
 كِمِيْنٌ ج كَمِنَاءٌ - چھپا ہوا۔ گھات میں دجا ہوا
 كَمُوْنٌ زِيْرَةٌ - كَمُوْنِيٌّ زِيْرَةٌ وَالْاَكْمَةُ مَادِرْنَا
 اِنْدَهَا - كُنَّ - ضَمِيْرٌ جَمْعٌ مَوْنَتٌ حَاضِرَةٌ سَب عُوْرَتِيْنِ -
 كُنَّ يَكُنُّ كُنَّا چھپانا۔ مَكْمُوْنٌ چھپایا ہوا
 بِالْكَلِّ مَحْفُوْظٌ - كَانُوْنٌ بَهِيْ - پُوْلہا۔

اَلْكَانُوْنُ الْاَوَّلُ دَسْمِرٌ اَلْكَانُوْنُ الثَّانِيُ جَنُوْرِي
 كَنُوْدٌ نَاشِكْرًا - اِحْسَانٌ فَرَامُوْشٌ - كُنْدُوْدٌ - نُوْبَانٌ -
 اِيْكُ قَسْمٌ كَا كُوْنَدٌ - كُنَادٌ بِيْرٌ - بِيْرِيْ كَا وَرَحْتٌ - كُنْرٌ
 ج كَنُوْرٌ - خَزَانَةٌ - وَفَنٌ كِيَا هُوَا مَالٌ - كَنِيْسَةٌ
 كَنَائِسٌ - عِيَايُوْنٌ كَا كَرْبَايَا مَسْرٌ - يَهُودِيْ كِيْ عِبَادَتٌ
 مَكْنَسَةٌ جِمَارُوْ - جَارُوْبٌ - كَنَاسٌ - جَسْمَلٌ -

كَنَعَانٌ - سَامُ بِنُ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كے بیٹے کا نام
 اِيْكُ جَلَكٌ كَا نَامٌ جِيَا نَ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي
 مَعْرَتِيْ -

كَنَّةٌ - مَدٌ - اِنْهَآ كَنَّةٌ عَقِيْبَتٌ - نَابِيْتَانِ

كُنِيَّةٌ بَابٌ يَابِيْثَا كِيْ طَرَفٌ نَسَبَتٌ - وَه مَامٌ جَس كے
 پيے اَبٌ - اِبْنٌ يَابٌ - اُمٌّ آئِيْ - كِنَايَةٌ وَه بَاتٌ جُو
 اِيْسِيْ الْفَاظِيْنِ اَو اَبُوْ جَس كے حَقِيْقِيْ اَوْرَ مَجَازِيْ دُوْنُو
 مَعْنَى لِيْنِيْ جَائِيْ هُوْنِ - بُوْشَبِيْهَةٌ بَاتٌ - اِشَارَةٌ -

كَهْرُبَانٌ زَرُوْعٌ شَبِيْحٌ اِيْكُ قَسْمٌ كَا كُوْنَدٌ - اِيْكُ قَسْمٌ كَا زَرُو
 رَنَكٌ كَا سَحْتٌ چكدار كُوْنَدٌ هُوْتَا سَهْتٌ - جُوْ كَلَسٌ كُوْ كَهِيْنَج
 اِيْتَا سَهْتٌ كَهْرُبَانِيٌّ - بَعْلِيٌّ وَاقِيٌّ - جَا ذَبِيْتٌ وَاقِيٌّ -
 كَهْفٌ ج كَهْوْفٌ - غَارٌ - پَنَاهٌ - كَهْرٌ كِيْ شَكْلٌ پَر
 پِيَاڑِيْنِ كَهْوْدٌ كَرْبَايَا بُوَا مَكَانٌ - پِيَاڑِيْ غَارٌ

كَهْوْلَةٌ خَمْرٌ كَا اَدْهِيْرُوْنٌ - پَكِيْ عَمْرٌ
 كَاهِنٌ - غَيْبٌ كِيْ اَكْلٌ پُوْ خَبْرِيْنِ بِنَا نِيْ وَاقِيٌّ - يَهُودٌ
 كَا مَذْهَبِيْ رَاہُ نَا كِيْ هَآئِيْ غَيْبٌ كُوْنِيْ كَا مِيْتٌ -

كُوْتٌ ج اَكُوَاتٌ - كَلَسٌ - اِيْبٌ - پِيَالَةٌ -
 كُوْتَرٌ بِيْشَتٌ كَا اِيْكُ دَرِيَا يَابِيْشَتٌ - كُوْتٌ كَا ج
 شَامِيَا نَمَلٌ -

كَادٌ - يَكَادُ كُوْدٌ اَكْسِيْ كُوْمُوْ كَرْنِيْ كے قَرِيْبٌ
 هُوْنَا - كَادٌ يَفْعَلُ وَه كَرْمَةٌ وَاقِيٌّ شَدَا -

كُوْرٌ بَهِيْ - جُوْلِيَا كِيْ دَرِيَا كِيْ دُوْدٌ اَدَسَا سَل
 كَاسٌ ج كَسُوْسٌ پِيَاْرِيْ كُوْ اَدَسَا
 كُوْرٌ ج كِيْ سَرَاكُ كُوْ اَدَسَا سَل

كَازِيَا ذِيْلَتٌ اَلْكَازِيْ كَا بِيْلٌ
 كُوْفَةٌ اِيْكُ شَهْرٌ اِنْفِيْ عَرَبِيَا كَا كُوْفٌ كُوْفٌ كَا بِنَا
 كُوْكُتٌ ج كُوَايِبٌ سَتَارَةٌ كُوَايِبٌ جَمْعٌ

كَلُوْدِيٌّ اِيْتَا كُوْرٌ بِنَا
 كَانٌ يَلُوْنُ كُوْنَا هُوْنَا وَجُوْدٌ كَمَا وَاقِيٌّ

تکوین پیدا کرنا۔ وجود میں لانا۔ کون موجودگی
 فطرت۔ عالم وجود۔ مادہ۔ جوہر دنیا۔ کائنات
 کائنات۔ موجودہ دنیا۔ حادثہ۔ واقعہ۔ موجودات
 مکانات۔ ممکنہ۔ جگہ۔ مقام۔ مکانات
 مکانات۔ درجہ۔ درجہ۔ مکین۔ صاحبِ رتبہ۔
 مکان میں رہنے والا۔ تمکین۔ مرتبہ پانا۔ تمکین
 شان پانا۔ گیوان۔ ستارہ زحل۔ اسنگانہ۔ عابری
 کرنا۔ کچھ داغ دینا۔ گاوینہ۔ داغ دینے کا لوبہ۔
 کی و کی تاکہ کی تاکہ نہ۔ مبادا کہ۔
 کیت و کیت ایسا ایسا۔ اس اس طرح۔
 کید۔ کر و فریب کرنا۔ فریب دھوکہ۔ جیلہ۔ جنگ
 مکینہ۔ مکینہ۔ جیلہ۔ دھوکہ۔ داؤ۔
 کیا کتہ و انانی۔ ذہانت۔ کاریگری۔ کیستہ۔ ہوا
 تھیل۔ ہمیانی۔ کیف کس طرح۔ کیسے۔ کیفیتہ
 حالت۔ کیفیت۔ تکلیف۔ حالت اختیار کرنا۔
 کیموس۔ غذا جو معدہ میں آشوب کی طرح ہوتی ہے
 غذا کا اس یا عرق اس کے بعد کی حالت کیموس
 کسوتی ہے۔ کیمما (کی صا) اس غرض سے کہ تاکہ
 کیمنا۔ کونین۔ تشبہ الیکینا۔ کین کی چھان
 سنگونا کی چھان۔

بَابُ اللّٰمِ

یہ تین قسم کا ہوتا ہے جاز۔ جازم۔ غیر عام
 (۱) سیاہی۔ (۲) ظاہر اور باہر متکلم کے ساتھ لکسور
 اور کیمیر اور مستفاد کے ساتھ شروع ہن مستوح

ہوتا ہے جیسے لزید زید کے لئے۔ کت نیرے
 لئے۔ یا کت خدا یا مدو کر۔ یہ کئی معنوں میں آتا ہے
 (۱) انتصاف جیسے الجنة لیسو من بنت من
 کے لئے خاص ہے۔ (۲) استحقاق جیسے العزرة لله
 بڑائی کا حقدار اللہ ہے (۳) ملک جیسے بلدا فی
 السموات والارض خدا ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں
 اور زمین میں ہے۔ (۴) تبلیغ جیسے قلت لہ یمنے اس کو
 پہنچا دیا۔ (۵) تعریف جیسے ما اشد حب زید
 لعمر و زید کو عمر سے کتنی بڑی محبت ہے (۶) قسم جیسے
 بالله لا فعلت خدا کی قسم میں ضرور اس کو کرونگا۔
 (۷) ضرورت جیسے ولید اللسان لیحیو
 ابیدیتہ۔ انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا ہوا ہے
 (۸) یعنی علی والی و فی وعند و بعد بھی ہوتا
 ہے۔ جیسے یخردون للاذقان و وہ ٹھوڑیوں پر گتے
 ہیں۔ اوخی لہا۔ اس کی طرف وحی کی۔ لیومہ القیامہ
 قیامت کے دن میں گتہ لخت میں خلون بانج
 تاریخ کے گذرنے پر مینے لکھا۔ افسرہ الضلوة
 ینہ لولک الشمس۔ سورج ڈھلنے کے بورناز
 پڑھو اور کبھی زائد ہوتا ہے جیسے ضربت لزید
 مینے زید کو مارا۔ (۹) تعلیل کے لئے۔ جتک
 لتعلمہن میں تیرے پاس آیات تاکہ تم مجھے تعلیم
 (۱۰) ماگان زید لیکر ملک زید ہرگز تیری
 تعلیم کو نہ تھا یہاں فعل پر داخل ہو کر اس کے آخر کو
 زبردی ہے اور اس کو مصدری معنوں میں تبدیل
 کر دیا ہے (ب) جازم جیسے یخرد اللہ خدا فیصد

وَلَنَشْكُرَ اللَّهُ هَمَّ هَمَّ فَمَا شَكَرْنَا بِرَبِّهِ (ج)
 غیر عالم جو ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ (د) ابتدا کے لئے
 جیسے لَزِيدًا قَائِمًا زِيدَ كَهْرًا بِرَاتٍ زَيْدًا الْقَائِمُ
 زید ضرور کھڑا ہے۔ لام جواب بعد کو و لَوْلَا وقسم
 لَوْلَا عُدْتُمْ لَعُدْنَا اگر تم واپس ہوتے تو ہم بھی
 واپس ہوتے لَوْلَا زَيْدٌ لَهْلَكْنَا اگر زید نہ ہوتا تو
 ہم ہلاک ہو جاتے۔ وَاللَّهُ لَزَيْدٌ كَرِيمٌ بخدا زید
 قیاض ہے زائد جیسے اذَاكَ لَشَاتِيهِ میں تجھے
 اپنا کافی دینے والا خیال کرتا ہوں۔ ذَلِكَ۔ تِلْكَ یہ
 لَاتِن طَرَحٍ پر استعمال ہوتا ہے (۱) نافیہ جو چار
 طَرَحٍ استعمال ہوتا ہے بمعنی نفی جیسے لَا رَجُلٌ فِي
 الدَّارِ۔ گھر میں کوئی آدمی نہیں۔ (۲) بمعنی لَيْسَ
 جیسے لَا رَجُلٌ قَائِمًا آدَمِي كَهْرًا هَبِيں۔ (۳) لَانَا قِيَمِ
 برائے عطف جیسے جَاءَ زَيْدٌ لَاعَاهِدُو زَيْدًا آيا
 نہ عمرو۔ (۴) حرف جواب نَعَمْ کا نقیض جیسے اَقَامَ
 زَيْدٌ كَمَا زَيْدٌ كَهْرًا ہے کے جواب میں کہا جائے لَا
 هَبِيں (۵) لَانَهِي جیسے لَا تَفْعَلْ نہ کر۔ (۶) معنوں
 کی تقویت کے لئے زائد جیسے مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَقْرَأَ
 تجھے کھڑا ہونے سے کس نے روکا۔

لَا تَا۔ یہ حرف نفی لَيْسَ کے معنی دیتا ہے اور
 اس کا صرف ایک معمول ہی ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً
 اس کا اسم محذوف ہوتا ہے خبر مذکور ہوتی ہے جیسے
 نَدِمَ الْبَغَاةُ وَاللَّاتُ سَاعَةً مُنْتَمِمْ بَعِي لَاتُ
 السَّاعَةُ سَاعَةً مُنْتَمِمْ بَعِي بَانِي بَعِي وَقَتْنَا
 مَعَهُ۔ اَللَّاتُ۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے
 عربوں کی ایک دیوی کا نام

لَا ذُو دَا۔ جو ایک قسم کا معدنی قیمتی پتھر بزرگ نیلوان
 ہوتا ہے۔ لا جو رد

لَاكَ وَالْاَلَاكَ اِلَى كِسِي كے پاس بطور ایچی
 کے بھیجنا۔ مَلَأَكَ وَ مَلَأَكَ ج مَلَأَكَ وَ
 مَلَأَكَ فرشتہ سندیسہ یا پیغام لے جانے والا
 لَا اَلَا وَ تَلَا اَلَا چمکنا۔ روشن ہونا۔ تَلَا لَوْ
 چمکنا۔ روشنی دینا۔

لَوْ لَوْ ج لَأَلَى مَوْتِي۔ مروارید۔

اَلشَّامُ يَلْتَمِسُ اَلتِّيَامَا۔ زخم کا درست ہونا
 زخم کا مل جانا۔ مُلْتَمِسًا۔ اچھا ہو کر مل جانے والا زخم
 لَيْسَ بِمَج لَيْسَ مَكِينًا۔ پاجی۔ ذیل بخیل۔ لاپچی
 لُبَّ ج اَلْبَابُ مغز۔ گری۔ گودا۔ دل۔ دماغ۔
 عقل۔ سمجھ۔ لَبِيبٌ عقل مند۔ دانا۔ لَبِيبٌ
 میں حاضر ہوں۔ میں موجود ہوں۔ لَبِيبٌ وَ لَبِيبٌ
 (پنجابی بولی) لَبِيبٌ ج لَبِيبٌ اَلشَّامُ شِيرِي
 لَبِيبٌ مَرَسَ لِي قَبِيَا كَوْنٌ لَبِيبٌ ظَهْرٌ

لَبِيسَ يَلْبِيسُ لَبِيسًا وَ لَبِيسَ عَلَى اَلْمَاكِنِ
 پوشیدہ کرنا۔ مشتبہ کرنا۔ فَلَطَ لَبِيسًا كَرِيْمًا

تَلْبِيسُ شَكٌّ۔ حقیقت کا اظہار۔ تَلْبِيسٌ
 حقیقت کو چھپا دینا۔ تَلْبِيسٌ اَلْمَاكِنِ اَلْمَاكِنِ
 لِبَاسٌ ج اَلْبَسْتُ۔ لباس۔ متر عورت کی کپڑا
 مَلْبُوسٌ ج مَلْبُوسَاتٌ پینے کا کپڑا۔ لباس
 پاجامہ۔ ازار بند وغیرہ۔

اَلْمَلْبُوسُ شَكٌّ۔ ذومعنی۔ مخلوط کپڑا لَبِيبٌ
 عشق پیچہ کا پودہ۔ لَبِيبٌ ج اَلْبَابُ مَوْتِي۔

كَيْبٌ وَابْتِئَانٌ وَ كَيْبَةٌ ابْتِئَانٌ كَيْبَانٌ كَيْبَانٌ
 بٹنے والا۔ کببان۔ لوہان۔ گنڈر۔ صنوبر۔ کببانج
 ملک شام کا ایک پہاڑ۔ کببانی۔ لبنان کا رہنے والا
 کببی۔ تلبیبیہ۔ لتبیب کہنا۔ حاجی کاج کے اتنار
 میں تلبیبہ کرنا یعنی کببیک اللہم کببیک الخ کہنا۔
 الَّتِي (الَّذِي) كَامُونْتِ، اللَّتَانِ تَنْشِيهِ -
 السَّوَاتِي وَاللَّائِي وَاللَّائِي جَمْعُهُ جِزْوَهُ
 مونث جو

لِيَا جَعْتَهُ - اصرار کرنا۔ ضد سے جھگڑنا۔ کوشش کرنا
 ہٹ کرنا۔ لُجَّتُهُ گہرا سمندر۔ سَنَاجُجٌ یہ اصل میں نام
 سِنَّةٌ لُجَجٌ یعنی چمہ دریا یا چمہ دریاؤں والا ملک
 جو عرب فاتحین نے رکھا تھا جیسے پنجاب پنج آب
 مرکب ہے یعنی پانچ دریاؤں والا ملک۔ مسلمان فاتحین
 نے سندھ کو بھی پنجاب میں شامل کر لیا۔

نَجَا بِأَيْمَانٍ نَجَاءً وَالتَّنَجُّاتِ إِلَى بِنَاهُ لِينَا
 نَجَاءً بِنَاهُ بِنَاهُ لِينَا مَتَجَاءً بِنَاهُ لِينَا كِي جَدَّ -
 مَلَنِي بِنَاهُ بِنَاهُ لِينَا وَالاحْفَافَتِ فِي آتِي وَاللَّ
 رْتَجَا كَرْنِي وَاللَّ -

لِيَا جَعْتَهُ نَجْمٌ رَكْمٌ هَاكِ دُور
 نَجْمَةٌ كَبِيْطِي مَهَانَتِ - عِلْسُ تَوْرِي - رَوِي جَوْسِي
 مَعَامِدُ پَرغور کرنے اور اسے پسند یا ناپسند کرنے کے
 لیے اکٹھا ہونا۔ ج کجانات۔

آ لَمِي فِي السُّؤَالِ - كِسِي كَا كَوْنِي جِيْر مَانِي يَاللَّب
 كَرْنِي مَرَادُ كَرْنِي سَوَالِ كَرْنِي تَنَكُّ كَرْنِي جِيْجِيَا
 لِيَا لِيَا لِيَا سَمْتِ تَفَانَا - ضَمْرٌ مِهْمٌ - اِصْرَارُ

لَحْدٌ يَلْحَدُ لَحْدًا وَآ لَحْدٌ - قَبْرِي فِي اِيْكَ طَرَفِ نَعْلِي
 بِالْحَدِّ كَهَوْدُنَا - اَلْحَدُّ وَآ لَتَحْدَ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ
 سچے دین سے پھر کر گمراہی اختیار کرنا۔ صادق عقائد
 سے پھر جانا۔ اپنا مذہب چھوڑ دینا۔

لَحْدٌ جِ اَلْحَادِ - قَبْرِي كِي بَعْلِي يَا لَحْدِي فِي مَرْدِهِ كُو
 رِكْتِي هِي - قَبْرِي كُو - اَلْحَادُ - بِي وَبِي - بَدْعَتِ -
 لَانْدَهِيْتِ مَلْحَدٌ جِ مَلَا حِدَةً سَجِيْ ذَهَبِ
 كُو جِيْوُ دِيْنِي وَاللَّ - كَا فَرْمَرَاهُ - بَدْعِي - نَجْرِي - مَرْتِدُ -
 دہریہ -

لَحْظٌ يَلْحَظُ لَحْظًا - آنکھ کے بیرونی گوشے سے
 كِسِي پَر نَظْرُؤَالِنَا - كِسِي پَر تَوَجُّهُ كِي نَگَا هِي دِيْكِنَا - لِحَاظُ
 كَرْنَا - خِيَالُ رَكْنَا - نَظْرِي فِي رَكْنَا - آنكھ سے دِيْكِنِي رَهْنَا
 لِحَظٌ مَلَا حِظَةً وَ لِحَاظًا مَلَكِي بَانْدَهِي كَر
 دِيْكِنَا غُورِي دِيْكِنَا - كِسِي كَا خِيَالُ رَكْنَا - لَحْظُجِ
 لِحَاظُ آنكھ كَا باہری گوشہ۔ ملاحظہ ایک دوسرے
 كَا خِيَالُ رَكْنَا - رَعَايَتِ كَرْنَا - لَحْظَةُ لِحْمِ - آنكھ كِي
 بھپک۔ تزجی نظر۔ ملاحظہ کوئی پیش نظر چیز
 كُونِي بَاتِ جَوَانَسَانِ كِي مَگَا هِي يَادِصِيَانِ فِي هِي هُو -

لَحْفٌ يَلْحَفُ لَحْفًا وَآ لَحْفٌ - كِسَلٌ وَغِيْرُ
 فِي لِيْبِيْنَا - پُوشَاكِ پِهْنَا - كِيْرِي پِهْنَا - لِحَاوْفُ
 اُوپر اُوڑھنے كَا كِيْرَا - چَاوَرِي كِسَلِ - لِحَاوْفِ - كِهِيْسِ - وَكَلَانِي
 بُوِي - جُوْرُو - مَلْحُوْفٌ كِيْرِي فِي لِيْبِيْنَا هُوَا -

لِحَقٌّ يَلْحَقُ لِحْقًا وَآ لِحَقٌّ - پُهْنِي جَانَا - جَالِنَا
 جَالِنَا مَلَا دِيْنَا - اَلْحَقُّ مَلَا دِيْنَا - شَانِ كَرِيْنَا - پِيُوْتُو
 لَحْفٌ بَالِنِي وَآ لِحَقٌّ - شَانِ كِيَا هُوَا - مَلَا يَا هُوَا -

لَا حِنَّجٌ لَوْ أَحْقِيقِينَ يَلْنَةُ وَاللَّاحِ رَشْتَهُ دَارِ تَعْلُقِ
 رَكْنُهُ وَاللَّاحِ لَحْمٌ لَحْمٌ - گوشت - ماس - لَحِيمٌ
 موٹا تازہ - گوشت سے بھرا ہوا - بھاری بھر کم - پُر گوشت
 مَا حَمَمَةٌ جَ مَلَايِمَةٌ - لطافتی - جنگ - کارزار
 لَحْنٌ يَلْحَنُ لَحْنًا پڑھنے یا بولنے میں صرف و نحو
 کی غلطی کرنا کسی عربی لفظ پر اعراب غلط پڑھنا -
 لَحْنٌ جَ آلْحَانٌ آواز - راگ - خوش الحانی -
 تَلْحِينٌ خوش آوازی -

تَلَا حِي يَتَلَا حِي ایک دوسرے کو گالیاں دینا
 اَرُوּ مِي مَلَا حِيَا سَنَا - اسی سے گالیاں دینے
 کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے -

لَحِيَّةٌ جَ لُحِيٌّ - داڑھی - بيش - لِحْيَةٌ التَّيْسِ
 ایک بڑی بوٹی کا نام ہے لفظی ترجمہ بکرے کی داڑھی
 بڑیا برگد کی داڑھی کو بھی کہتے ہیں -

لَخْلَخَةٌ - خوشبودار دوائی جو بعض بیماریوں میں سونگی
 جاتی ہے - لَخَصٌ - اصل یا عمدہ حصہ چھاتنڈا -

تَلْحِيصٌ - انتخاب کرنا - خلاصہ کرنا - اصل یا عمدہ
 حصہ انتخاب کرنے کا فعل - تَخْلِصَةٌ - خلاصہ
 انتخاب - تَخْلِصٌ خلاصہ یا انتخاب کیا ہوا مختصر
 کیا ہوا - مختصر رپورٹ -

لَدُوْدٌ جَ لُدٌّ - بڑا جھگڑا نو - لڑاکا - بِيَادِبِ اللّٰهِ
 حدیث شریف کی بیگونی وہ مقام یہاں پر و قبال قتل ہوا
 یعنی جہاں پادریوں یا عیسائیوں کے فتد تشلیث ہوا
 استیصال کیا جانے کا - لُدَّةٌ - چھو یا سانپ کا
 ٹونک مارنا - نہریلے جانور کا کاٹنا -

لَدُنَّ وَ لَدُنَّ - پاس - کو - ساتھ - قریب - نزدیک
 لُدِّيُّ ايساد علم، جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا اور اس
 میں اکتساب یا تحصیل کا دخل نہ ہو - وہی علم و عرفان
 لُدِيٌّ - پاس - کو - ساتھ - یہ دونوں صیغے دوسرے
 لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں - لَدَيْكَ تَب
 پاس - تَدِيْلُذٌ - لَدَا ذَا ذَا - مزیدار اور خوش ذائقہ
 ہونا - لَدَا ذَا ذَا لَطَفٌ - مزہ - ذائقہ - حَق
 لذت - لَذِيْدٌ - مزیدار - پُر لطف - خوشگوار خوش
 ذائقہ - خوش مزہ - اَلْتَدَاذُ وَ اِسْتَلْدَاذُ لَطَفٌ
 اُطْحَانٌ - مزہ اڑانا - چٹخارے بھرنا - مُلْدٌ لَذت
 دینے والا - مُتَلْدٌ لَذت یا حَق اُطْحَانٌ والا -
 مُلْدٌ ذَا ذَا ايسی ادویات جو سقظ اور سرور کو زیادہ
 کریں - لَذِيْنَةٌ بيش - سوزش - آگ کا جلنا - جَلن
 لَذِيْحٌ سوزش یا جلن پیدا کرنے والا - لَذِيْحٌ كَانِي
 والا - كُوذِيْعِيٌّ خفمند - سمجھ دار - ہونے یا بار آفت کا
 پرکار - خوش بیان - فصیح اللسان - عالم و فاضل انسان
 اَلَّذِيْنَ مِنْ اَلَّذِيْنَ جَمْعُ اَلَّذِيْنَ يَتَا وَهُ شَخْصٌ - جو
 شخص - وہ جو - جس - جو کہ - وہ چیز جو چیز اسم و صول
 ہے - لا ذِيْنَ وَ لا ذِيْنَةٌ - لا ذِيْنَ وَ لا ذِيْنَةٌ
 كَرِيْحٌ يَلْرِيْحٌ - تازہ ہوا یا تازہ ہوا
 جانا - كَرِيْحٌ يَلْرِيْحٌ - تازہ ہوا یا تازہ ہوا
 لیس - پلپ - چیب
 كَرِيْمٌ يَلْرِيْمٌ كَرِيْمٌ يَلْرِيْمٌ كَرِيْمٌ يَلْرِيْمٌ
 سے بہتر جانا - واجب یا فرض ہونا - كَرِيْمٌ يَلْرِيْمٌ
 سے علیحدہ نہ ہونا کسی کے ساتھ لگا رہنا یا لگا رہنے کو
 ساتھ چمکنے رہنا

الْإِضْرَامُ - پابند ہونا۔ ضروری ہونا۔ لَازِمٌ ضروری
واجب۔ لازمی۔ لَازِمٌ ضروری اور لازمی ہونا۔
الْإِضْرَامُ ذَمٌّ لِّكَ وَبِنَا۔ ضروری یا لازمی قرار دینا کسی
پر کوئی بات تھوپ دینا۔ مُلْذَمٌ وہ شخص جس پر کوئی
بات عائد کی گئی ہو (اردو میں وہ شخص جس کے ذمہ کوئی
گناہ لگایا گیا ہو) مُجْرِمٌ۔ مُسْتَلْزِمٌ۔ لازم آنے والا۔
ضروری ٹھہرا یا جانے والا۔

لَسَعٌ يَلْسَعُ لَسَعًا دَسَنًا۔ ڈنک مارنا۔
لِسَانٌ جِ أَلْسِنَةٌ۔ زبان۔ گفتگو۔ لغات۔ بولی
لِسَانٌ أَعْصَالٍ۔ زبان حال۔ لِسَانٌ۔ زبان
دراز۔ باتوں کی آدمی۔ جس کی زبان بہت چلتی ہو۔
لِسَانِيٌّ زَبَانِيٌّ۔ زبان کے متعلق۔ لِيَصُّحَ لُحُومٌ
چور۔ ڈاکو۔ لِيُثْرَا۔ قزاق۔

لِيَصِقَ يَلِصِقُ۔ لَصِقًا وَالتَّصِقُ۔ کسی سے
چمٹنا۔ چپکنا۔ خوب ملا ہوا ہونا۔
الْتِصَاقٌ۔ اتحاد۔ میل جول۔

لَطْفٌ يَلَطِفُ لُطْفًا بِلِ كَسِيٍّ پُہرانی
کرنا۔ لَطَافَةٌ۔ نازک ہونا۔ باریک ہونا۔ لطیف و
سبک ہونا۔ کسی کے ساتھ عہدگی اور سلیقے سے برتاؤ
کرنا۔ سلیقہ مند ہونا۔ عمدہ ہونا۔ مَلَاظِفَةٌ پُہرانی
کا برتاؤ کرنا۔ شفقت سے پیش آنا۔ تَلَطَّفَتْ
خوش خلقی اور محبت و شفقت سے پیش آنا۔

لَطْفٌ جِ الْلَطَافِ۔ پُہرانی۔ عنایت۔ شفقت۔
پُہر۔ وہ سنی۔ خدا تعالیٰ کی حفاظت و فہم و کرم۔ لَطِيفٌ
عنایت کرنے والا۔ نازک۔ پیارا۔ نفیس۔ عمدہ۔ حسین۔ جمیل۔ شفیق۔
پُہر بان۔ عنایت کرنے والا۔

الْطَّيْفُ۔ باریک بین۔ خدا تعالیٰ کا وصفی نام ہے
لَطَمَ يَلْطِمُ۔ لَطْمًا وَ لَاطَمَ۔ تھپڑ مارنا۔ طمانجی
مارنا۔ وصول مارنا۔ کانوں یا گالوں پر تَلَاطَمٌ ایک
دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ بھونڈ
کی لہروں کا آپس میں ٹکرانا۔ لَطْمَةٌ جِ لَطْمَاتٌ کا
یا گال پر چیت رسید کرنا۔ لَطِيٌّ۔ آگ بشعلہ یا لپٹ
لَعِبٌ يَلْعَبُ لَعِبًا۔ کھلنا۔ کودنا۔ ہنسی و
دل لگی کرنا۔ مذاق کرنا۔ مَلَاعِبَةٌ ایک دوسرے کے
ساتھ کھلنا کودنا۔ میاں بیوی کا آپس میں چہل کرنا
لَعِبٌ کھیل کود۔ لَعِبَةٌ گڑیا۔ کھلونا۔ گٹ پستی۔ ہر
وہ چیز جس سے کوئی کھیلے۔ لُعَابٌ۔ رال۔ تھوک۔ لغا
دہن۔ لُعَابِيٌّ لیسدار۔ اَلْعُوبَةُ۔ کھیل۔ ہنسی۔
مُطْمًا۔ کھلونا۔ مَلْعَبٌ جِ مَلَاعِبٌ کھیلنے کا میدان
تاشا گاہ۔ تھیٹر۔ ناٹک۔ فیلڈ۔ لَعِبَةٌ تَزْبِيرِيٌّ
لچھنا لچھنی۔ لَفَّاحٌ۔ بِنْدُوبَعِ الصَّغْمِ یا بیلہ ڈونا۔
ایک مشہور جرطی بوٹی جس کی شکل مرد و عورت کی طرح
ہوتی ہے۔ اور ذکات جس کا ذب کو دفع کرتی ہے۔
لَعِقَ يَلْعَقُ لَعَقًا۔ چاٹنا۔ اُنْجَلِيٌّ سے چاٹنا۔
لَعْوَةٌ۔ چٹنی۔ ہر وہ دوا جو چاٹی جا سکے۔ مَلْعَقَةٌ
جِ مَلَاعِقِيٌّ چمچ۔ قاشق۔ لَعَلَّ۔ شاید۔ ہو سکتا ہے
جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی
واجب کے ہوتے ہیں۔ لَعَلَّ يَبْعَثُ لَعَلَّ یمكن ہے
امید ہے اکثر اس کے آخر میں ضمیر متصل لگا دینی جاتی
ہے جیسے لَعَلَّكَ۔

لَعْنٌ يَلْعَنُ لَعْنًا۔ پٹکار۔ بیجنا۔ دُور کرنا۔ رُحْنٌ
سے دور کرنا۔

مَلَاعَنَةً اِیْکَ دوسرے پر لعنت یا پھٹکا ڈالنا۔ کوسنا
لَعْنٌ وَ لَعْنَةٌ لِعَانٌ۔ لعنت۔ پھٹکار۔ بد دعا
رحمت سے محروم کرنا۔ دھتکارنا۔

لَعِیْنٌ وَ مَلْعُوْنٌ۔ لعنت کیا ہوا۔ دھتکارا ہونا
رحمت و قرب سے دُور کیا ہوا۔ مروود۔ مَلْعُوْنَةٌ
بد بخت۔ لعنتی۔ رحمت سے دُور کی ہوئی۔

لَعْبٌ وَ لَعُوْبٌ۔ تھکان۔ کمزوری۔ ضعیف۔
لَعْرٌ پھیلی۔ چھیستان۔ معتمہ۔ بھیید۔

لَعَا یَلْعُوْنَ لَعْوًا۔ بات چیت کرنا۔ بولنے میں غلطی
کرنا۔ فضول بکنا۔ لُعْنٌ لُعْنٌ وَ لُعَاتٌ۔ زبان
بولی۔ لفظ۔ فقرہ۔ محاورہ۔ جملہ۔ کلام۔ بیان۔ عِلْمٌ

اللُّغَةِ۔ کسی زبان کے مفرد الفاظ کا علم۔ لُعُوْبٌ
باجاوریہ زبان جاننے والا۔ اَهْلُ اللُّغَةِ لُعْتٌ
کے عالم۔ علم لغت کے ماہر لوگ۔ لَعُوٌّ وَ لَاغِیْبَةٌ

فضول بات۔ بے ہودہ کلام۔ بیج و پوچھ گفتگو بیہودگی
لَفٌّ یَلْفٌ لَفًّا وَ لَفْفٌ۔ پیٹنا۔ لفافے
میں بند کرنا۔ چھپانا۔ بِلَانًا۔ لَفَاقَةٌ پیٹنے کی چیز

مَلْفُوْفٌ پیٹا ہوا۔ بند کیا ہوا۔ لَفٌّ وَ کَشْرٌ
پیٹنا اور کھولنا۔ علم بدیع کی ایک صنعت کا نام۔
لَفِیْفٌ۔ وہ فعل جس کے حروف اصلی میں سے دو

حرف علت ہوں جیسے طَوِیٌّ وَ وَفِیٌّ۔ مُلْتَفٌّ
گھنا۔ گنجان۔ گتھا ہوا۔ اُلْبَھَا ہوا۔

لَفَّتٌ یَلْفُتُ لَفْتًا۔ ادھر ادھر پیٹنا۔
لَفَّتَتْ اِلَیْ۔ مُرْکَرٌ دیکھنا۔ اِنْتِفَاتٌ بھیجے

کر دیکھنا۔ توجہ۔ فکر۔ عنایت کرنا۔ پرواہ کرنا۔ خیال
کرنا

لُقَّاحٌ۔ یسروُوج الصَّخْمِ۔ بیلا ڈونا۔ یا پھینا پھینتی
لُعِبْتُ بربری ایک مخدر دوا کا نام جو دفع ذکاوت
حس کاذب و باطل کے لئے مفرد بطور سفوف یا سنگر
استعمال کی جاتی ہے اور مرتب کر کے بھی۔

لَفْظٌ یَلْفِظُ لَفْظًا۔ پھینکنا۔ مُنَّہ سے نکالنا۔
کسی لفظ کو ادا کرنا۔ لَفْظٌ اَلْفَظٌ مُنَّہ سے نکالا
ہوا کلمہ۔ کلام۔ لہجہ۔ لفظ۔ تَلَفَّظٌ کلام کرنا بولنا۔
زبان سے ادا کرنا۔ مَلْفُوْظَةٌ مَلْفُوْظَاتٌ
کسی کا کلام۔ بات۔ گفتگو۔ بیان۔

لَقَاطٌ بناوٹی یا حد سے زیادہ بولنے والا۔ لَفْظًا وَ
مَعْنٰی الفاظ اور معانی کے لحاظ سے

مَلْفُوْظٌ بولا ہوا۔ کہا ہوا۔ زبان سے ادا کیا ہوا
تَلَا فِی یَتَلَا فِی تَلَا فِیًّا۔ کسی معاملہ کو لے کر
اس کا انتظام کرنا۔ درست کرنا۔ کسی نقصان کا بدلہ
پورا کرنا۔ تدارک کرنا۔

لَقَّبْتُ بِ۔ خطاب دینا۔ اچھا لقب دینا یا بُرَا
نام رکھنا۔ تَلَقَّبْتُ خُطَابًا وَ اَلَا ہونا۔ لقب اختیار
کرنا۔ لَقَّبْتُ اَلْقَابَ۔ لقب۔ اَلْقَابُ
عزت یا خطاب یا حقارت کا نام۔

مُلَقَّبٌ لقب دینا۔ خطاب رکھنے والا۔
تَلَا قَبٌ اِیْکَ دوسرے کو بُرے القاب سے گالی
دینا۔ لِفْتُ تَلْفَمٌ لِفْتُ الشَّیْطَانِ یا لِفْتُ
الْحِیَّةِ۔ سب بولتی۔ سُورِ کَنْدَا۔ ہتھ میں۔ جو ایک
زہریل جڑی بوٹی ہے

لَفْظٌ یَلْقُطُ لَقْطًا۔ زمین سے چُن کر اٹھا لیا۔

لَقَطَطَ كَرِي هُوَ تِي پيز جس كا مالك معلوم نه هو۔
مَلْتَقَطَةً مَنْتَخِب كيا هُوَا۔ چينا هُوَا اِلْتِقَاطُ
چينا۔ انتخاب كرنا۔ اقتباس كرنا۔
لَقَلَقَ سارس۔ لَقَلَقَةً سارس كى آواز۔

حركت واضطراب والى آواز۔

لَقِمَ يَلْقِمُ لَقْمًا جلدى جلدى نكلنا يا
تيزى سے كھانا۔ لُقْمَةٌ نوالہ۔ لُقْمَةٌ لِقْمَةٌ لِقْمَةٌ
يا نوالہ بنا يينا نكلنا۔ خلق سے اُتارنا۔ لُقْمَانٌ ايك
ربانى حكيم ياروحانى فلاسفر كا نام جس كا ذكر قرآن پاك
میں ہے۔

لَقِنَ يَلْقِنُ لَقْنًا فَرًّا سَمِجَ جانا۔ تَلْقِينُ
سمجھانا۔ سكلھانا۔ بتانا۔ تلقين كرنا۔

لَقْوَةٌ مَنَّهُ طِيْرٌ هُوَ جَانِ كى بيمارى هوجانا۔

لَقِيَ يَلْقَى لِقَاءً آئِنِ سائِنِ هُونَا۔ لِقَانٌ مَنَّهُ
بھيڑ هوجانا۔ ملاقات كرنا۔ لَاقِي مَلَاقَةٌ كسى كو
يلنے كو جانا۔ ملاقات كرنا۔ دوچار هوجانا۔ تَلَاقِي
آپس میں ايك دوسرے سے ملنا۔ مَلَاقِي يَلْنِ والا

ملاقات كرنے والا۔ اِلْتِقَاءٌ وَاِلْتِقَاءٌ وَاِلْتِقَاءٌ
پھينك ديتا۔ اِسْتِلْقَاءٌ چت ييٹنا۔ تِلْقَاءُ
آئِنِ سائِنِ طرف۔ جانب۔ يَوْمُ التَّلَاقِ
قيامت كا دن۔ روز محشر۔ مَلْتَقِي جَنكش يَلْنِ كى
جگد يا مقام۔ لَكَّ لَاح۔ چيڑ لاکھ جو ايك درخت سے

حاصل هوتا ہے لَكَّ ج لَكُّوك۔ ايك لاکھ۔

ايك كروڑ۔ لَكَّ لَاح كے درخت كا رس يا گوند

لَكَدَ يَلْكَدُ لَكَدًا لاکھ سے مارنا يا دھكلنا
لَكَمَ يَلْكُمُ لَكْمًا مارنا۔ لَكَمَ يَلْكُمُ لَكْمًا
مَلَاكَمَةٌ گھونے بازى۔ مَلَاكَمَةٌ لَكْمَةٌ
اچھى طرح بول نه سكلنا۔ هكلانا۔ تكلانا۔ گنواروں كى
طرح بولنا۔ زبان كا گفتگو میں ركلنا اور اكلنا۔ اَلْكُنُّ
هكلنا۔ لَكْنَتٌ والا۔ لَوَكْنَدَةٌ۔ هُوَلٌ۔ سَرَّيْ۔
لَكِنٌ۔ وَ لَكِنٌ۔ لَآكِنٌ۔ ليكن۔ تاہم۔ پس پر
بھى۔ ہر حال۔

لَكْنٌ لَكَيْمًا۔ تاكہ۔ يَكَيْلًا مبادا كہ۔ لَمْ نَهِيْ
لَمَّا ابھى تك نهیں۔ صرف۔ بوجہ۔ ہونكہ۔ لَمَّا

اس كا استعمال دو طريقوں پر هوتا ہے۔ (۱) مضارع
كو ماضى منقضى كے معنے میں كر ديتا ہے جيسے لَمَّا

يَدْخُلُ ابھى تك نهیں داخل ہوا۔ (۲) ظرف كے
معنے ديتا ہے جيسے لَمَّا اَن جَاءَ الشَّيْبُوْهُ شَجَرًا

لانے والے كے آنے كے وقت میں۔

لِمَاذَا كيوں؟

لَمَحَّ يَلْمَحُ لَمَحًا الى كسى كى طرف چرائى
هوتى نظر سے دكلنا۔ نَظْرًا لَنَا۔ لَمَحَةٌ لَمَحَاتٌ

پوشيدہ نگاہ۔ ايك لمحہ۔ تَلْمِيْحٌ كسى چيز كا اشارہ
كنايہ۔ رمز۔ تعريض۔ خفيہ اشارہ۔

لَمَسَ يَلْمَسُ لَمَسًا چھونا۔ لَمَسًا يَلْمَسُ
اِلْتِمَاسٌ كسى چيز كے لئے عرض كرنا كسى سے كوئى

چيز مانگنا۔ لَمَسٌ۔ چھونا۔ احساس۔ قوتِ لامِسِ
چھونے يا احساس كرنے كى طاقت۔

لَا مَسَّةٌ لَمْ يَلْمَسْ كى چھونے۔ مَلَمَسٌ
چھونے كى جگہ۔

مُلْتَمِسُ التَّجَارِ یا التَّمَاثُلِ یا اور خواست کرنے والا۔
عرض یا استدعا کرنے والا۔ مانگنے والا۔

لَمَعَ يَلْمَعُ لَمَعَانًا۔ چمکنا۔ دکنا۔ روشن ہونا۔
جھلملانا۔ لَامِعٌ چمکنے والا۔ اَلْمَعِيُّ تیز عقل والا۔
سمجھدار۔ ہوشیار۔ مُلْمَعٌ چمکتے دھتوں والا۔ (اردو
میں ایسا زیور یا اوزار جس پر سونے وغیرہ کا پانی چڑھایا
ہوا ہو) گلٹ کیا ہوا۔ يَلْمَعِيُّ ذہین۔ تیز مزاج
لَنْ فَعْل مَضَارِعٌ کو نصب دینے کا حرف اور نفی
استقبال کا کام دیتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں
کبھی نہیں۔

لَهَبٌ يَلْهَبُ لَهَبَانًا۔ بھڑکنا۔ شعلہ مارنا
زور سے مشتعل ہونا۔ اِلْتِهَابٌ سوزش۔ جلن
آگ لگ جانا۔ مُلْتَهَبٌ بھڑکنے والا۔ جلنے والا۔
شعلہ زن۔ اَبْوَالِهَبٌ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک چچا جو آپ کا سخت مخالف تھا۔

الْاَهْوَاتُ اَلْوَهِيَّتُ۔ صفت ذات الہی۔
الْاِهْيَتُ۔ خدائی۔ عِلْمُ الْاَهْوَاتِ۔ علم عقائد۔ دینیات
لَا هُوَتِيٌّ عِلْمُ ذَاتِ الْاِهْيَتِ كَالْعَالَمِ۔ دینیات و عقائد کے
علم کا عالم۔ تھیا لوجسٹ۔

كَلْهَجَةٌ۔ زبان کی نوک۔ زبان۔ آواز۔ لہجہ۔ طرزِ ادا
بولی۔ اَلْهَمَّ اَلْهَامًا۔ اِلْتِهَابٌ۔ دل میں ڈالنا۔
اِلْتِهَامٌ رَجِ اِلْتِهَامَاتٌ۔ دل میں ڈالی ہوئی بات
الہام۔ وحی۔ مُلْتَهَمٌ۔ الہام یا وحی کرنے والا۔ مُلْتَهَمٌ
جس کی طرف الہام کیا جائے۔ اَلْهَوُّ۔ کھیل۔ بہلاوا
شغل۔ غافل کرنے کی چیز۔ مشغله۔ مُلْتَهَمٌ رَجِ مَلَاہِی
تفریح۔ کھیل کو دکاسا مان

اَلَا تِ الْمَلَاهِي۔ باجگانے بجانے کے آلات۔
مزامیر۔

كُوْ حَرْفٌ شَرْطٌ ہے۔ اگر۔ کاش۔ یہ چھ طرح استعمال
ہوتا ہے۔ (۱) زمانہ ماضی پر شرط کے معنی دیتا ہے جیسے
لَوْ جَاءَ فِي لَأَكْرَمُنَّةً۔ اگر وہ میرے پاس آتا تو
میں اسکی عزت کرتا۔ (۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے
معنی دیتا ہے۔ (۳) مصدریہ یعنی آن۔ لیکن یہ نصب
نہیں دیتا (۴) تمنا کے لئے (۵) عرض کے لئے (۶)
تعلیل کے لئے و لَوْ۔ باوجودیکہ۔ گو کہ۔ اگرچہ۔ كُوْ لَوْ
بغیر اس کے۔ اگر نہیں۔ اَلَا تِ یہ موقع نہیں یہ وقت
نہیں۔ كُوْتُ كَيْفٌ لَقَطْرًا۔ مَلُوْتُ لَقَطْرًا ہوا۔ كُوْتُ
گناہ ناپاکی۔

لَا حَ يَلْوُحُ لَوْحًا۔ ٹھٹھا۔ چمکنا۔ دکنا۔ جھلملانا
جگمگانا۔ لَوْحٌ جِ اَلْوَاخِ۔ تختی۔ تختہ۔ پتھر ہر
ایک چوڑی چیز چوڑی۔ چھٹی ہڈی۔ نَلْوِيْحَاتٌ
کتاب کے نوآشی یا نوٹ۔ لَامِحَةٌ جِ لَوَاخِجٌ چمک
دک۔ ظہور۔ فہرست۔ جِسْرٌ جِسْمٌ۔ لَامِحَةٌ الْعَلَلِ۔ پرولگا
لَاذٌ يَلْوُذُ لَوَاذًا۔ پناہ لینا۔ گھبرا لینا۔
مَلَاذٌ پناہ لینے کی جگہ۔ قَلْعٌ۔ قلعہ۔ قلعہ دار۔ بادام کا
درخت اور بھیل۔

لَا طَ يَلْوُطُ لَوَاطَةً اِغْلَامًا۔ لَوَاطَتٌ کرنا
سچہ بازی کرنا۔ لَوَاطِيٌّ وَ لَوَاطٌ بونڈے بازی یا
لَوَاطَتٌ کرنے والا۔ لَوَاطَةٌ اِغْلَامٌ۔ بونڈے بازی
لَوَاطٌ ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام۔ جو حضرت برہم
علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔ لَوَاطِيٌّ۔ مداری۔

بَابُ الْمِيمِ

ما۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حرفیہ جو مندرجہ ذیل طرز پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مَا هَذَا بَشَرًا یہ آدمی نہیں۔ (۲) زائد جیسے قِيمًا رَحْمَةً مَقِينًا لِئْتَ لَهُمْ بِسَخِرَاكِ رَحْمَةً مِّنْ تَعْمَلُ لِيَوْمَ كَذَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ جیسے گانہ جیسے گانمًا يَسْأَلُونَ اِيَّيَّكَ الْمَوْتِ كَمَا كَانُوا يَسْأَلُونَكَ الْمَوْتِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ جیسے ضاقت عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ باوجود فراخ ہونے کے ان پر زمین تنگ ہو گئی (۵) مصدریہ نظر فیہ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اُس نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا (۶) اسمیہ استفہامیہ جیسے مَا عِنْدَكَ تِيرَةٌ يَسِيْرَةٌ جیسا کہ (۷) مجبور ہونے کی حالت میں اس کے الف کو گرا کر میم پر فتحہ پڑھنے میں جیسے هَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (۸) موصولہ بمعنی جو کہ یا جو کچھ کہ جیسے مَا عِنْدَكَ يَنْفَدُ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ (۹) جزائیہ جیسے مَا يَفْعَلُ اَفْعَلٌ جو کچھ وہ کرے گا میں کرونگا (۱۰) تعجب کے لئے جیسے مَا اَحْسَنَ زَيْدًا زَيْدٌ کیسا خوبصورت ہے (۱۱) فعل کے ساتھ مصدر کی تحویل کے لئے جیسے بَلَّغْنِي مَا صَنَعْتَ مجھے تیرا فعل پہنچ گیا ہے۔

مَاذَا۔ لِمَاذَا۔ کیا۔ کیا۔ چیز۔ کیوں؟ بَيْتَمَا جِدَّ۔ حَالَمَا۔ يَوْمًا۔ حَيْثُ مَا۔ جہاں کہیں۔

لَوْعَةً جِلْنِ سَوْزَش تِيش۔ لَوْفٌ ایک قسم کا پودا جو جنگلی پیاز کی طرح ہوتا ہے اسے سُوْرگَنڈَا بھی کہتے ہیں اور لَفْتُ الْحَبِيَّةِ بھی اسی کا نام ہے۔
لَوْلَا۔ لَوْ مَا۔ اگر یوں نہ ہوتا تو۔ اگر ایسا نہ ہوتا لَمْ يَلُومْ لَوْ مَا۔ ملامت کرنا۔ سرزنش کرنا۔ لعنت کرنا۔ مَلَامَةٌ ملامت۔ سرزنش۔ لَائِمٌ ملامت کرنے والا۔ لَوْنٌ جمع ألْوَانٌ۔ رنگ۔ قسم شکل۔ مُتَلَوْنٌ۔ رنگ لانے والا۔ تَلَوْنٌ رنگ بدلنا مختلف رنگ اور حالت بدلنا۔ لَوْنًا۔ لونڈا۔ لونڈا ایک قسم کا انگریزی عطر۔

لَوَاعِجُ الْوَيْتَةِ۔ جھنڈا۔ بیرق۔ عَلَمٌ الْوَيْتَةُ پچھلے ڈالنا۔ ملتوی کرنا۔ موڑنا۔ چھوڑ دینا لَوِيٌّ ج لَوِيٌّ۔ لادوی پس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا آدمی۔

لَيْتٌ۔ حرفِ تمنا کسی چیز کی تمنا کے اظہار کے لئے اکثر نامکن چیز کی آرزو کے لئے آتا ہے بمعنی۔ کاش لے کاش۔ لَيْتَسَ نہیں۔ اس فعل کا مضارع نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں لَيْسَ ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے لَاقٌ يَلِيْقُ لِيَاقَةً۔ لائق ہونا۔ مطابق ہونا اہل ہونا۔ مناسب ہونا۔ لَاقٌ وَ لَيْقٌ۔ مناسب ٹھیک۔ لَيْلٌ ج لَيَالٍ وَ لَيْلَةٌ وَ لَيْلَاتٌ رَاتٍ لَانَ يَلِيْتٌ لَيْتَةٌ۔ نرم ہونا۔ ملائم ہونا۔ نازک ہونا۔ لَيْتٌ تَلِيْتًا نرم کرنا۔ ملائم کرنا عَلِيْبٌ نرم و ملائم کرنیوالا۔ لَيْتَةٌ نرمی۔ کمزوری۔ ملامت۔ ڈھیلا پن

جِبْتًا۔ جب کبھی طالمًا بسا اوقات۔ جب تک
عِنْدَمَا۔ جب۔ مَا هَيْتَةُ اَصْلِيَّتِ۔ یا حقیقت
تَخَوَّاهُ۔ مَائِدَةٌ مِثْلُ اَيْكٍ تَوَّاهُ۔
مِثْرُوحٌ اَمْتَادٌ مِيطْرٌ۔ تین بالشت۔
مَتَمَّعَ يَمْتَعُ مَتَعًا وَ مَتَعَةً بِ لے جانا۔
تَمَتَّعَ وَ اِسْتَمْتَعَ بِ وَ مِنْ كِسِي چيز سے عر
وراز تک فائدہ اٹھانا۔

مُتَعَةً جِ مَتَمَّعٌ لُطْفٌ۔ فائدہ۔ نفع۔
نِكَاحُ الْمُتَعَةِ۔ مقررہ مدت کے لئے عقد نکاح
جو ابتدائے اسلام میں جائز تھا اور اب قیامت
تک ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔

مَتَاعٌ جِ اَمْتِعَةٌ۔ اسباب۔ سامان۔ آوزار۔
فائدہ۔ ہر سو و مندی نفع دینے والی چیز۔ مَمْتُوَعَةٌ
وہ عورت جس سے متعہ کیا جاوے۔

مَتْنٌ يَمْتِنُ مَتَانَةٌ مَضُوطٌ ہونا ٹھوس
ہونا۔ موٹا تازہ ہونا۔

مَتْنٌ جِ مَتْنُونٌ پیمہ۔ کمر کا ایک کنارہ یا اس
کا نیچے کا حصہ۔ کمر۔ کسی کتاب یا تحریر کی اصلی عبارت
جس میں سخت۔ پائدار۔ مَتَانَةٌ مَضُوطٌ۔

ٹھوس پن۔ پائیداری۔ اَلْمَتِينُ۔ قادر مطلق خدا
تمنی۔ کب کس وقت ؟ جب

مَتْنِي۔ ما۔ جب یا جس وقت کہ

مِثْلٌ يَمِثِلُ مِثْلًا وَ مِثَالٌ مِثَابٌ ہونا
مثابہت رکھنا۔ تَمَثَّيْتُ كِسِي سے مثابہ کرنا یا
مثال دینا۔ تَمَثَّلُ مِثَابٌ ہونا۔ نقل اتارنا۔

اِمْتِثَالٌ اَلْاَصْوَحُّ حُكْمٌ مَانَا۔ مِثْلٌ جِ اَمْتَالٌ
مشابہ۔ مانند۔ مشابہت۔ شباہت۔ کسی کی تصویر
مِثْلٌ وَ كَمِثْلٍ مانند کسی سے مشابہ مِثْلٌ جِ
اَمْتَالٌ۔ دلیل۔ جملہ۔ مقولہ۔ کہاوت۔ کہانی۔ ہتھکڑ
قصہ۔ ضرب المثل۔ مِثَالٌ جِ اَمْتَالَةٌ۔ نمونہ۔ مثال
کسی چیز کی مقدار یا صفت۔ لفظ کی شکل۔ وہ فعل
جس کا پہلا حرف و۔ ای ہو۔ مِثْبِلٌ۔ مشابہ
کسی کی مانند کسی جیسا۔

تَمَثَّلُ جِ تَمَاتِيْلٌ مجسمہ۔ ایچو۔ پتلا بت
تَمَثِّيْلٌ مشابہت مماثلت۔ حکایت۔ بطریق
تمثیل۔ مِثْلَةٌ نَاكٌ كَانٌ كَاثٌ دِيَا۔ اَمْتَالٌ

جِ اَمَاتِيْلٌ ممتاز۔ بہتر بن فضل۔ تَمَاتِيْلٌ۔ باہم مشابہت
ضَرْبُ الْمَثَلِ۔ کہاوت بیان کرنا۔ مِثَالٌ
مِثَابَةٌ بھگنا۔ وہ تھیل جیسا عضو جس میں
پیشاب جمع ہوتا ہے۔ رِجْمٌ یا بچہ دانی۔ مِثَابَةٌ۔

مَا جُوجٌ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے
ایک شخص جو انگریز و امریکنوں کا مورث اعلیٰ ہوا
ہے جس طرح یا جوج روس وغیرہ کا مورث اعلیٰ
ہے۔ ان دونوں کے بُت گلاز بالائی۔

ہوئے ہیں۔ پُرانے نو سائزرز میں یا جوج اور
مَا جُوج سے روس۔ انگریز اور اہل امریکہ مزد
ہیں۔ اور تیسری جنگ عظیم ان ہردو (یا جوج اور ما جوج)
کے درمیان برپا ہونے کی پیشگوئیاں بڑی شد و مد
سے پلانے نوشتوں اور قرآن کریم اور حدیث شریف
اور اہامات حضرت مسیح محمدی علیہ السلام میں موجود ہیں

کہ یہ دونوں قومیں (یا جوچ یا جوچ) سب دنیا پر تسلط
جما کر اور غلبہ حاصل کر کے آخر کار آپس میں لڑائی اور
ایک ہو لیا کہ جنگ کے ذریعہ ان دونوں کا خاتمہ ہو
جائے گا۔ اور اس آخری جنگ میں
اور روس شکست کھا کر بلحاظ
ہو جائے گا۔ اور جماعت الہیہ کے ذریعہ اسلام پر
روقی و بہار کے دن لوٹیں گے۔ اور اسلام دنیا میں
پھیل جائے گا۔ اور حکومت الہیہ حضرت مسیح محمدی
علیہ السلام کی جماعت کے ذریعہ قیامت تک قائم
ہوگی۔ اور حضرت مسیح محمدی علیہ السلام کا ایک بیٹا
بھی تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوگا اور بخارا اور
روس کی سلطنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
جماعت کے ہاتھ آجائے گی۔ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ
وَمَنْ لَّمْ يَسْتَأْذِنْ يَكُنْ ۙ ۱۴ رمضان ۱۳۵۸
ہجری بمجدد مجیداً۔ بڑا ہونا۔ نامی گرامی
ہونا۔ ہجرت آجائے شرافت۔ درجہ شان و
شوکت۔ قیامت۔ عزت۔ زمین کا بلند حصہ۔
تمجید تعریف۔ عزت۔ بزرگی۔ شرافت والا
ہونا۔ مَا جِدُّ مَث مَا جِدُّ بزرگی والا۔
آجید آجید۔ زیادہ شریف زیادہ بزرگ
زیادہ باعزت۔ مجید معزز۔ آلمجید بزرگ
و برتر خداوند کریم۔ ہجیدی سلطان عبدالمجید شاہ
کے عہد حکومت کا ایک چاندی کا سکہ جس کی قیمت
اڑھائی روپیہ تھی۔

ہجرت آسٹریا یا ہنگری کا باشندہ

ہجرت مجوسی لوگ۔ آتش پرست۔

ہجرت سبب۔ آتش پرستوں کا مذہب۔

تمجس آتش پرست یا مجوسی بن جانا۔

ہجرت مجموعہ قوانین کتاب یا ماہواری رسالہ۔

ہجرت وہ تحفہ جو مفت دیا جاوے۔

ہجرت مفت میں۔ بلا داموں کے۔

ہجرت بمحض حصص صاف اور

خالص کرنا۔ کھرا بنانا۔ تمجرت حصص خالص کرنا۔ پاک

اور صاف کرنا۔

ہجرت خالص جس میں آمیزش نہ ہو۔ صرف

اصلی۔ محقق۔ فنا۔ بربادی۔ تباہی۔

ہجرت قمری ہجرت کی آخری تاریخیں جن میں چاند

چھپ جاتا ہے۔ سلخ ماہ۔ چاندنی کی کمی۔

محال نامکن۔ لامحالہ۔ لا بد بے شک ضروری

محصن حصص ہجرت۔ جانچ کرنا۔ آزمائش

کرنا۔ امتحان۔ جانچنا۔ آزمانا۔ جانچ۔ پڑتال

تجربہ۔ آزمائش۔ محض حصص حصص مشتت

آزمائش مصیبت۔ بد قسمتی۔ ممتحن امتحان

لینے والا۔

ہجرت ہمحو حوا۔ مٹانا۔ ناپ کرنا۔

ہجرت مہجرت مہجرت۔ بھیجا۔ گودا۔ مفر۔ مہجرت

چھاپہ۔ کٹی۔ مٹھا۔ مخاطب۔ رینٹ۔ ناک کی بلغم نزلہ

ہجرت بلغم والی (جھلی وغیرہ)

ہجرت مہجرت۔ پھیلانا۔ لمبا کرنا۔ چوڑا کرنا

ہجرت پھیلانا۔ لمبا ہونا۔ دراز ہونا۔

اشتمداداً - مدد مانگنا - امداد مانگنا - مَدُّ الْبَحْرِ
 سمندر کے پانی کا خشکی کی بڑھنا - مَدٌّ وَ مَدَّةٌ ہر
 (د) کے کھینچنے یا دراز کرنے کی علامت - مَدِّد (س)
 مَدُّ خشک چیزوں کے ناپنے کا پیمانہ جو تین پاؤ
 کے قریب ہوتا ہے - مَدَّةٌ - وقفہ - عرصہ - مدت
 مَدَّةٌ - پیپ - مواد - مَدَّةٌ وَ اِمْدَادٌ - مدد
 رعایت - نصرت - امداد - دستگیری - مَدَادٌ
 سیاہی - روشنائی - مَادَّةٌ ج مَوَادٌّ - بیوی
 غلط مادہ - چیز - اصل شو - مَادِیٌّ جو مادہ سے
 بنی ہو یا جو روحانی نہ ہو - مَدِيدٌ لمبا - دراز -
 علم عروض کا ایک بحر - مَدْدٌ پھیلاؤ - درازی
 وسعت - مُمْتَدٌّ کھینچ کر بڑھایا ہوا - پوڑا - وسیع
 پھیلایا ہوا - علم عروض کا ایک بحر مُمَدٌّ مددینے
 والا - مَمْدُودٌ - انگریزی - مَوَادُّ اللُّغَةِ لغت
 کے الفاظ - مَوَادُّ الْعِلْمِ علم کی بحثیں -
 مَدْحٌ يَمْدَحُ مَدْحًا - تعریف کرنا - کسی
 کی خوبی بیان کرنا - مَدْحَةٌ قابل تعریف کام -
 مَا دَحَّ مدح یا ستائش کرنے والا - مَمْدُوحٌ
 مٹ مَمْدُوحَةٌ جس کی تعریف کی جائے -
 مَدَّاحٌ بہت ہی تعریف کرنے والا - ثنا نواں
 مَدِيحٌ مَدَارِحٌ - ثنا - تعریف - ستائش
 اهل المدین - شہری لوگ - مَدَنٌ شہر بنانا
 تَمَدَّنٌ شہر بسا کر رہنا - شائستہ ہونا - تہذیب
 یافتہ ہونا - شائستگی - تہذیب - شہریت -
 مَدِينَةٌ مَدَنٌ وَ مَدَائِنٌ - شہر - قصبہ -

الْقَدِيئَةُ - مدینہ منورہ - مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 مَدَنِيٌّ - مدینہ شریف کا رہنے والا - مَدَنِيَّةٌ
 شہریت - مَدَنِيٌّ الطَّبِيحُ بل جل کر سنجہ والا -
 مَدَائِنٌ - مزاج - مَدٌّ کسی خاص وقت سے
 مَرَّ يَمُرُّ مَرُّوْرًا - پاس سے ہو کر گذرنا -
 اِسْتَمْرَادٌ جاری رہنا - ایک ہی حالت میں ہونے
 رہنا - قائم رہنا - مستقل رہنا - مَرُّ كَرْوَانٍ
 مَرٌّ ایک دو یا جو تک شریف کے آس پاس پیدا ہوتی
 ہے اور مرگی کہلاتی ہے - مَرَادَةٌ کڑوا پن - تلخی
 کڑواہٹ - ایک عضو کا نام جسے پتہ کہتے ہیں - مَرٌّ
 سخت کڑوا -

مَرَّةٌ ج مَرَاتٌ - ایک بار - ایک مرتبہ
 مَرَّةٌ پتہ - صفراء - طاقت - مَرٌّ وَ مَرُّوْرًا
 یا وقت کا گذرنا - مَمْرٌ راستہ - مَرٌّ گذرنے کی جگہ
 مَسْتَمِرٌّ دیر پا - جاری - ہمیشہ رہنے والا -
 مَرَّةٌ وَ اِمْرَاةٌ مَرَاةٌ وَ اِمْرَاةٌ
 ج نِسَاءٌ وَ نِسْوَانٌ - عورت - مَرُوْرَةٌ جو امرؤی
 آدمیت ہمت - بہادری - مَرُوْرٌ مَرُوْرَةٌ
 غذا کی نالی - مَرَاةٌ مَرَاةٌ مَرَاةٌ
 مَادُوْتٌ ایک نام یا ایک اور شخصہ
 نصلت آدمی جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے دوسرے
 کا نام ہادوث تھا -
 مَرَّحٌ تکلیف - گڑبڑ - بے ترتیبی - مَرَّحَانٌ
 مونگا - سرخ رنگ کا سمندری موتی -
 مَرَّحٌ يَمْرُحُ مَرَّحًا وَ مَرَّحٌ نَمْلٌ سے ملنا

تعلیم القرآن مجید

مَزِيحٌ - منگل۔ سیارہ۔ مرتخ یا جلاؤ فلک۔ لمبا تیر
 یا بھالا۔ اس ستیارہ میں موجودہ زمانہ کے ہیبت اولیٰ
 نے آبادی کا حال معلوم کیا ہے۔
 مَزْدَنْجُوشٌ - مَزْدَنْجُوشٌ - آذان الفار
 پوہے کتی بوٹی۔ دونو مروا
 مَزْدَیْمَرْدٌ مَزْدَا - سرکش ہونا۔
 تَمَزْدٌ سرکشی۔ نافرمانی کرنا۔ آ مَزْدُ بے پیش
 و بروت جوان لڑکا۔ مَتَمَزْدٌ سرکشی کرنا۔ نافرمان
 مَزْدَا کُش - شریب۔
 مَادَسٌ یَمَارِسٌ مَمَادَسَةٌ مشتق کرنا۔ ہمت
 پیدا کرنا۔ مَادِشْتَانٌ - شفاخانہ۔ ہسپتال۔
 مَرَضٌ یَمْرَضُ مَرَضًا بیمار ہونا۔
 مَرَضٌ جَ امْرَاضٌ - بیماری۔ علالت۔ روحانی
 مرض۔ نفاق۔ مَرِیضٌ جَ مَرَضٌ - بیمار۔ علیل
 تَمَارِضٌ بناوٹی بیمار بننا۔
 مَزْمَرٌ - سنگ مرمر۔ ماربل سٹون
 مَزْمِیْسٌ - گینڈا۔ کرکن۔ مَزْمَنٌ عَلٰی خُوگر ہونا
 عادی ہونا۔ تَمَزِیْنٌ مشتق کرنا۔ ہمارت کرنا۔
 تَمَزِنٌ مشتق کرنا۔
 مَزْمَرٌ جَ مَرَاهِمٌ - مرہم۔ لیب۔
 مَزْوَدَةٌ ایک پہاڑی کا نام جو بیت اللہ کے
 قریب ہے۔ مَزَاؤٌ - لڑائی۔ جھگڑا۔ اِمْتِزَاؤٌ
 شک کرنا۔ شبہ میں پڑنا۔ مَزِیَّةٌ شک۔ لڑائی
 جھگڑا۔ مَزْوُودَةٌ چقماق کا پتھر۔ ناز یویا
 ٹنسی کا بُوْدَا۔ مَزْدَبَانٌ - سروار۔ چودھری

مَزْوِیٌّ - مرو (خراسان) کا بسنے والا۔ مَزَاؤٌ جمع مَزَاؤٌ
 مَزِیْمٌ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا
 نام۔ مَادِیَّةٌ - ایک عورت کا نام۔
 مَادِیَّةٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرم
 پاک کا نام۔ مَزِجٌ - یَمَزِجٌ - مَزْجَا - ملانا۔ گڈ گڈ کرنا
 اِمْتِزَاجٌ بکسی کے ساتھ ملنا۔ مَزِجٌ - مَزْجٌ - مَزْجٌ
 مَمَزُوْحٌ ملا ہوا۔ مَزَاجٌ جَ امْرِجَتٌ مزاج
 ساخت۔ آمیزش۔ ملاوٹ۔
 مَزَاحٌ یَمَزَاحُ مَزَاحًا - مذاق یا محول کرنا۔
 مَزَاحٌ - مذاق۔ ہنسی۔ دل لگی۔ چہل۔
 تَمَازُحٌ - آپس میں ایک دوسرے سے محول کرنا۔
 مَزَقٌ یَمَزِقُ مَزَقًا - پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے
 کرنا۔ چیرنا۔ تَمَزِقٌ وَ تَمَزِیْقٌ منتشر کر دینا
 ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
 مَزِیْبَةٌ جَ مَزَايَا - خوبی۔ عمدگی۔ بڑھیا ہونا۔
 مَسٌ یَمَسُّ مَسًّا چھونا۔ ٹولنا۔ مَسَّاسٌ
 وَ مَمَّاسَةٌ - چھونا۔ ہاتھ لگانا۔ مس کرنا۔
 تَمَّاسٌ - باہم ایک دوسرے کو چھونا۔ تَطَّقُ
 مَسٌّ - تانبا۔
 مَسَمٌ یَمَسَمُ مَسَمًا - زمین ماپنا۔
 مَسَاحَةٌ زمین کی پیمائش کرنا۔ مَسَمٌ بِالْعَاقِبِ
 پانی سے تر کرنا۔ مَسْحَةٌ گیلے ہاتھ کا نشان کرنا
 عِلْمُ الْمَسَاحَةِ - جو میٹری۔

یہ پہلے سال کا آخری رسالہ ہے۔ نئے سال کی
 خریداری کے لئے پانچ روپیہ بھیجیں۔ منبج۔

حکیم عبداللطیف پرنٹر پبلشر نے استقلال پریس لاہور میردن لوہاری کیٹ چھپوا کر شائع کیا۔

جلد ۱

اکتوبر ۱۹۶۹ء

تخصیص العربیہ یا خلاصہ المنجد اردو

اس رسالہ میں ۲۲۶ صفحہ پر یہ لغات ختم ہو رہی ہے۔ آئندہ سلسلہ اسباق القرآن شائع کیا جائیگا۔ اور اس کے خاتمہ پر عربی بول چل شائع ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مَسْكًا بِمَسْكٍ مَسْكًا ب مَسْكًا مَسْكًا
پکڑنا۔ تَمَسَّكَ وَاسْتَمْسَكَ مضبوط پکڑنا۔
اَمْسَكَ رُكْنَا مَسْكًا نَجَل۔ روکنے والا۔

مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا
مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا
مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا
مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا مَسْكًا

مَسَاؤُ۔ شام۔ مغرب کا وقت۔ آمَسُوں کل جو گذر گیا۔
مَشَطٌ کنگھی کرنا۔ مَشَطَةٌ کنگھی کرنا۔ مَشَطٌ
مَشَطٌ کنگھی۔ مَشَقٌ نیری سے کام کرنا۔ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ
مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ مَشَقٌ

مَسِيحٌ بہت سیاحت کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس لئے مسیح کہلاتے ہیں کہ وہ سیاحت کرنے والے تھے
اور واقعہ صلیب کے بعد انھوں نے بحکم الہی نبی اسرائیل
کے ان دس قبیلوں کو تبلیغ کرنے اور پیغام حق پہنچانے
کے لئے افغانستان اور کشمیر کے پہاڑوں کی طرف
لمبی سیاحت اور سفر کیا۔ اور اپنی باقی ستائیس سال کی
عمر ان دس قبیلوں میں گذاری جن کو بخت نصر بادشاہ
نے فلسطین سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اور حدیث شریف میں
بیان شدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق
ایک سو بیس برس کی عمر پر فوت ہوئے اور کشمیر کے
دارالسلطنت سری نگر کے محلہ خانیا میں آپ کی قبر مبارک
اب تک موجود ہے جسے کشمیری یوز آسف نبی کا روضہ
کہتے ہیں۔ مَسِيحٌ مَسِيحٌ مَسِيحٌ مَسِيحٌ
عیسائی۔ مَسِيحِيَّةٌ عیسائیت مَسُوْحٌ جسے برکت
دی گئی ہو۔ اَلْمَسِيحُ التَّجَالُ پادریوں کا گروہ
یوساری دنیا میں تبلیغ عیسائیت یا تثلیث کی غرض سے
پھر جائے۔ مَسَاْحٌ پٹواری۔ زمین کی پیمائش کرنا۔
تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ

مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ

مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ
مَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ تَمَسَاْحٌ

مَضَى يَمْضِي مُضِيًّا كَازِرْجَانَا - مَا ضَى كَازِرْجَانَا
 كَازِرْجَانَا - مَضَى مَا مَضَى - جَو كَازِرْجَانَا كَازِرْجَانَا
 جَو مَضَى مَضَى جَو كَازِرْجَانَا - اِمْتَضَا - اِجْرَا - جَارِي كَرْنَا - پَوْرَا كَرْنَا -
 مَطْرُوحَ اَمَطَارًا بَارَشَ - مِئْبَه - مِطْرَانًا - لَاط پَادِرِي
 مَطْلُ مَمَاطَلَةً - قَرْضِ دِينَ فِي مَالٍ مَطُولٍ كَرْنَا - اِدَائِي
 فِي دِيرِ كَرْنَا - مَطِيئَةً جَو مَطَايَا - سَوَارِي كَا جَانُورِ
 مَعَ مَعَ - سَا مَعَ كِسِي كَسَا مَعَ كِسِي كَسَا مَعَ - مَعَ سَا مَعَ
 سَا مَعَ - اِيك دَم سَ - فَوْرًا - مَعِيئَةً سَا مَعَ - مَوْجُودِي
 مَرَاهِي - مِشْدَةً - اَو جَهْرِي مَعْدَه - سَامَك -
 اِمْعَانُ النَّظَرِ بَهْت غُورِ سَ دِكْجِنَا - مَا عَوْنُ كَهْرِي
 ضَرْوِيَات - بَرْتَن وَغِيْرَه - مَعِيئَتُنْ - بَهْتَن وَالا پَانِي -
 مَعِي جَو اَمْعَاءُ - اَنْت - رُوْدَه - مِعْوِي اَنْتُونْ -
 تَعْلُق رَكْنَه وَالا - مَعْصُ - اَنْتُونْ فِي مَرُوْرٍ پِيْدَا هُونَا -
 بِيْط كَا دَرْد - كَا لَك - بَاوَسُوْل - فَوْلَج كَا دَرُوْجِ حَيْشِي
 مَمْعُوْص - حَيْشِي كِي مَرَضِ وَالا - مَعْنِيْطِيْسُ مِقْنَابِيْسُ
 مَثَقُ - نَفْرَت - كَرَاهِيَت - مَقْلَةً - اَنْكُه كَا وَهِيْلَا -
 مَكَّة - شَهْرُ مَكَّة شَرِيْف - مَكِّي - مَكَّة شَرِيْف كَا بَاشْنَدَه -
 مَكْرِيْمَكْر - مَكْرًا - بَرِي تَدْبِيْر كَرْنَا - دَهْوَكه دِيْنَا -
 فَرِيْب دِيْنَا - مَا كَرْد تَدْبِيْر كَرْنَه وَالا - مَكَاْرُ فَرِيْبِي بَهْت
 دَهْوَكه دِيْنَه وَالا - مَكْ - دَغَا بَار -
 مَكْن يَمْكُنْ مَكَانَةً - قَدْرَت رَكْنَا - طَاقُوْر - هُونَا -
 قُوِي هُونَا - تَمْكِيْنُ - مَضْبُوْط هُونَا - قَدْرَت پَانَا -
 مَكْنَةٌ قَدْرَت - بِيَاقْت - مَكَانُ جَو اَمِكْنَةٌ وَ
 اَمَاكِيْنُ - جَكه مَقَام - مَرْتَبَه - دَرَجَه - عَهْدَه - مَكَانَةٌ
 - بُوْطِي - مَاكِنُ - مَكِيْنُ - مَضْبُوْط - مَكُوْس - دِيرِ پَا -

اِمْكَانُ جَو اِمْكَانَاتُ - اِمْكَان - قَدْرَت - مَكْن هُونَا -
 مُمْكِنُ جَو مُمْكِنَاتُ - مَكْن - وَه جِس كَا هُونَا مَكْن هُونَا
 اَوْر مَحَال نَه هُون - مُمْكِنُ طَاقْت پَايَا هُونَا - قَدْرَت بِيَاقْت
 مَلَّ يَمَلُّ مَلَالًا وَ مَلَالَةٌ مِّنْ كِسِي سَ اَكْتَا
 جَانَا - تَهْك جَانَا - مَلُوْلُ تَهْكُنْ وَالا اَكْتَايَا هُونَا - مِلْتَهُ جَو
 مِلْتُ نَدْبَه - دِيْن - مَلَالٌ وَ مَلَالَةٌ - تَهْكُنْ - اُدَا سِي
 اَكْتَا جَانَا - مَلَا - بَرَا قَاضِي يَا جَو -
 مَلَاءُ يَمْلَأُ مَلَأً - بَهْرِنَا - پُر كَرْنَا - مَمْلُوْعٌ بَهْرَا
 هُونَا - لِبَال - مَلَاءٌ - وَه مَقْدَار جِس سَ كُوْنِي چِيْرِي هُونَا
 جَاوَس - مَلَاءٌ اَعْمَلِي مَشِيْرُوْن كِي جَاعَت - اِمْتِلَاءُ
 پُرِي - غَلْبَنُوْن - مَمْتَلِي - پُر - بَهْرَا هُونَا - مَلَاءُ اَعْمَلِي اَعْمَلِي
 اِرْوَا ج - مَلَاكِي كِي جَاعَت - مِلْحُ جَو اَمْلَا حُ - مَك -
 كَهَارِي پَانِي - مَلَا حَتَّ نُوْبُصُوْرَتِي - مَلِيْحُ نُوْبُصُوْرَت
 مَلَا حُ - جَهَارَان - نَا خَدَا - مَلُوْحَتُّ - نَكِيْبِي كَهَارِي پَانِي
 تَمَلَّقُ - خُوْشَاد - چَا پِلُوْسِي - دَم دِلَا سَا -
 مَاك يَمْلِكُ مَلِكًا - قَابِيْض هُونَا - مَالِك هُونَا -
 تَمَلَّكَ خُوْد مَخْتَار هُونَا - مَلِكٌ قَبِيْضَه - مَلِكِيْت - تَصْرَف
 مَلِكُ جَو اَمْلَاكُ - جَانْدَاو - قَبِيْضَه - سَامَان يَلِكِيْت
 مَلِكُ جَو مَمَالِكُ - مَلِك - زِيْن - حَكُوْمَت - مَلِكُ جَو
 مَلَايِكَةٌ - فَرِشْتَه - مَلِكُ جَو مَلُوْكُ بَادِشَاه
 مَلِكَةٌ مَلِكَه - مَلِكَةٌ جَو مَلَكَاتُ - عَادَت - جَهَارَن
 مَلِكَه - مَشَقْ خِصْلَت - مَلِكُوْتُ - بَادِشَاهِيْت - حَكُوْمَت
 مَلِكِيٌّ وَ مَلُوْكِيٌّ - بَادِشَاهَانَه - حَاكِمَانَه - تَمَلِيْكَه
 مَالِك بِنَا يَا مَالِك هُونَا - مَمْلِكَةٌ جَو مَمَالِكُ
 بَادِشَاهِي - حَكُوْمَت - سَلْطَنَت - مَمْلُوْكُ غَلَام - نُوْ

صَنِىٌّ مَنِ - نطفہ۔ اِشْتِمَاءٌ مَاتَهُ يَكْسِي دَوْسَرَ طَرِيقَةً
مَنِ نَكَالَنَا - جلق کی عادت بد میں مبتلا ہونا۔

مُهَجَّةٌ جَانٌ - رُوح - زندگی - خون۔

مَهْدٌ يَمُهْدُ مَهْدًا - بچانا۔ پھیلانا۔ مَهْدَجٌ
مُهْوَدٌ - بچونا۔ بچہ کا پنکڑا۔

تَمَهِيْدَةٌ - تَمَهِيْدَاتٌ - ترتیب دینا۔ آراستہ کرنا
کسی کتاب کا دیباچہ لکھنا۔

مَهْرٌ يَمَهِّرُ مَهَادَةً - چالاک ہونا۔ تجربہ کار ہونا۔
مَاهِرٌ - ہوشیار۔ تجربہ کار۔ چالاک۔ مَهْرَجٌ مَهْوَدٌ - عورت
کا حق مہر۔ مَهَادَةٌ - مشاقی۔ قابلیت۔

مَهْرَجَاتٌ - ہرگان۔ پارسیوں کا ایک تہوار جو ۲۱ مارچ
کو ہوتا ہے۔ مَهْلَةٌ - نیاری کے لئے وقفہ۔ ہمت۔

رَاهَالٌ مَهْلَةٌ دِينَا - رخصت دینا۔ مَهَالًا امر کے واسطے
آتا ہے معنی یہ کہ آہستہ چلو۔ جلدی نہ کرو۔ آرام سے چلو۔

تَمَهَّلٌ - آہستگی۔ ویر۔ مَهْمًا جو کچھ۔ جب کبھی۔

مَهِيْدٌ - ذلیل و خوار و حقیر۔

مَاتَ يَمُوْتُ مَوْتًا - مرنا۔ فوت ہونا۔ مرجانا۔

مَوْتٌ جَ امْوَاتٌ - مرگ۔ فنا۔ کال۔ موت۔ اموات
موت دینا۔ مار دینا۔ مَبِيْتُ جَ امْبِيَاتٌ -

مَوْتِي مَرُوے - مَمَادٌ جَ امْمَادٌ - مَبِيْتُ مَارِنُوے والا۔
مَوَاتٌ - بے جان پیر۔

مَا جَ يَمْوُجٌ مَوْجًا - سمندر کا جوش میں آنا۔

مَوْجٌ جَ امْوَاجٌ لَهْرٌ - موج۔ چھلکار۔ تَمْوُجٌ کھلبلی
پہل۔ گڑبڑ۔ مَوْزٌ كَيْلًا - طَلْحَةٌ - مَوْسِي - اُسترہ

مَا سَ يَمْوُسٌ مَوْسًا - مَوْنًا - مَوْسِي حضرت موسیٰ
علیہ السلام۔

مَا لِكُ قَابِضٌ - مَلِيْكُ بادشاہ۔ مَا لَتْخُوْلِيَا - مایخولیا۔

جنون۔ سودا۔ اِضْلَاعٌ کچھ بول کر لکھوانا۔ تخریر کروانا۔

مَلِيُوْنٌ - بلین۔ دس لاکھ۔ مَوْنٌ - کون۔ جو کوئی۔ بطور۔ یہ

كَلِمَةٌ اِسْتِنْفَاهٌ - بمعنی کون شخص ؟ اور اسم موصول
بمعنی وہ شخص کہ۔ جو شخص کہ۔ وہ کہ۔ جو کہ۔ (دنگر و مونث) بولا جانا

ہے۔ مَن حرفِ جاڑ بمعنی سے۔ کا۔ کے۔ واسطے۔ بعوض۔

بجائے۔ نسبت۔ بولا جاتا ہے۔

مَنْ يَمُنُّ مَنًّا - کسی پر ہریان ہونا۔ کسی پر احسان کرنا

مَنْ - احسان۔ ایک آسمانی غذا جو بنی اسرائیل کے لئے ہتیا

کی گئی۔ مَنْ اَبْ طَبِيٌّ وزن جو و و ط ل کے برابر ہوتا ہے یعنی

قریباً اتنی تولہ یا ایک سیر۔ مَنَّةٌ جَ مَنَنٌ - احسان بزرگ

مَنَانٌ احسان کرنے والا۔ اَلْمَنَانُ بڑا احسان کرنا والا

خداوند کریم۔ مَمْنُوْنٌ - زیر بار احسان۔ منقطع۔

مَمْنُوْنِيَّةٌ - احسان مندی۔ احسان کی زیرباری۔

اِمْتِنَانٌ - احسان جتلا نا۔

مُنْدٌ و مُنْدٌ (کسی خاص وقت) سے

مَنْعَ يَمْنَعُ مَنَعًا عَنْ وَ مَنِ كُوسِي كُوسِي بَاتِ سے

روکنا۔ باز رکھنا۔ مَانِعٌ روکنے والا۔ مَمْنُوْعٌ منع کیا ہوا

ناجائز مَمْتِنِعٌ نامکن۔ مَنِيعٌ دشوار۔ ناقابل رسائی۔

مَمْنُوْعَةٌ ناجائز۔ جس سے روکا گیا ہو۔ اِمْتِنَاعٌ نامکن

ہونا۔ کسی بات سے باز رہنا۔ تَمَنِّيٌّ - چاہنا۔ خواہش کرنا

کسی چیز کے لئے آرزو مند ہونا۔ مَتَمَنِّيٌّ آرزو یا خواہش

کرنے والا۔ مَنِىٌّ بزرگ شریف کے پاس ایک مقام جہاں پر حاجی

لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مَنِيَّةٌ جَ مَنِىٌّ - خواہش آرزو

اُمْنِيَّةٌ جَ اَمَانِيٌّ - تمنا۔ آرزو۔ باطل خواہش۔ فضول آرزو

مِئْنَا - بند گاہ، مِئْرَابٌ - پرناہ

بَابُ التُّونِ

تَا - ہم - ہم کو - ہمارا - تَادِجِيْلٌ - ناریل

اُتْبُوْبٌ جِ اَنْبِیْبٌ نَلِیْ بِاِیْیٰبِ اَنْبِیْبِ

الرِّئْسَةِ - پھیپڑے ہوا کے خارج

تَبَّاءٌ وَّ اَشْبَاءٌ تَنْبِیْءٌ بِ خَبْرٍ دِیْنَا - آگاہ کرنا

اطلاع دینا

تَنْبِیْءٌ یَتَنْبِیْءُ تَنْبِیْءٌ - نبی ہونے کا دعویٰ کرنا

پیشگوئی کرنا - نبوت کا مدعی بننا - غیب کی بات بتانا - آنے

والے حالات کی اطلاع دینا - اِسْتِنْبِیْءٌ خَبْرٍ وِیَافَتِ

کرنا - نِبَیْءٌ جِ اَشْبَاءٌ خَبْرٍ اِطْلَاعٍ - آگاہی - نَبِیْءٌ جِ

اَنْبِیْءٌ نَبِیٌّ - رسول - پیغمبر - نَبِیْءٌ نَبِیٌّ ہونا پیشگوئی

خَبْرٍ خَبِیْبٍ - خبر دینا - نَبِیْءٌ نَبِیٌّ تَنْبِیْءٌ کے متعلق -

مُتَنْبِیْءٌ جھوٹا نبی بننے والا - نبوت کا ذبح کا دعویٰ کرنے

والا - مدعی نبوت باطلہ -

نَبِیَّتٌ یَنْبِیْتُ نَبَاتًا وَّ اَنْبِیْتُ - اُکْثَرُ بَرِّضَانَا

اُکْثَرُ پودے کا - نَبِیْتُ - پودا - جڑی بوٹی - روئیدگی

نباتات - نَبَاتٌ جِ نَبَاتَاتٌ - پودا - روئیدگی -

نَبَاتِیٌّ نَبَاتَاتٌ کے متعلق - مَنَبِیْتُ جِ مَنَابِیْتُ

کسی پودے یا درخت کے اُگنے کا مقام - عَالَمُ النَّبَاتِ

نباتات کی دُنیا -

تَبَدُّءٌ پھینکنا - تَوْرُنَا - (عہد وغیرہ) نُبْدَةٌ اَیْکَ حَقْدِ

کلام کا - قِطْعَةٌ - تَبِیْدٌ شَرَابٌ کُھجوروں یا انگوروں کا رس

شربت - مَنَبِرٌ جِ مَنَابِرٌ مَنَبِرٌ لِبَیْتِ فَاْرَمِ - اسٹیج -

اونچا چوڑا

مَوْسِیْقٰی - علم موسیقی - رَاکٌ رَاکِبٌ کَاْفِنٌ - مَاشٌ اُرُو -

ماش - معمولی فریجر - مَالٌ جِ اَمْوَالٌ - مال و دولت - نَدُو

جواہر - تَمَوَّلٌ دَوْلَتٌ ہونا - مالدار ہونا - مَتَمَوَّلٌ مالدار

آدمی - کَالِیٌّ مَالِیٌّ - روپے پیسہ کے متعلق

مَالِیَّةٌ - قیمت - دولت شاہی خزانہ - حِیْثِیْتُ

یَبِیْتُ المَالِ - مسلمانوں کا قومی خزانہ - اَلْمَالِیَّةُ حُکْمٌ

مال - مال کی وزارت - مَوْصِیَا - ایک قسم کی رال - مَوْصِیَّةٌ

مصر کی مٹی دواؤں سے محفوظ رکھی ہوئی لاش -

مَاءٌ جِ مِیْبَاةٌ پَانِیٌّ - مَاطِیٌّ پَانِیٌّ وَاَلَا - آبی - پانی کی

طرح پتلا اور ذیق - اِسْتِمَاْحَةٌ - درخواست -

مَاشِدَةٌ جِ مَوَاشِدٌ - خوان - دسترخوان - کھانا کھانے کی میز

مِیْبَدَانٌ جِ مِیْبَادِیْنٌ لِرَاثِیٌّ کَاْمِیْدَانٌ - اکھاڑہ - گھوڑوں

کا مقام - مِیْرٌ - امیر - حاکم شاہزادہ - مِیْرِیٌّ - ٹیکس

لگانہ - اَمَّا ذَمِیْنٌ - جُدا کرنا - مَمْنَازٌ کرنا -

تَمِیْیْدٌ - علیحدگی - اَمْتِیَارٌ - تفاوت - فِرْقٌ - جُدائی -

اِبْتِهَامٌ اِطْهَانَةٌ وَاَلَا لِفِظٍ (صَفٌ وَخَوٌ) سِیْتٌ التَّمِیْیْدُ

شعور کی عمر اچھا بڑا - سمجھنے کی عمر - اِسْتِیْبَاذٌ - خصوصیت - نَزِجٌ

استیبار مُمْتَاذٌ - خاص کیا ہوا - جُدا کیا ہوا - مُمْتَمِزٌ وَاَخْصُو

فوقیت دیا ہوا - مُمِیْدٌ - فرق ظاہر کرنے والا - مَعِیْنٌ کرنا والا

اِبْهَامٌ اِطْهَانَةٌ وَاَلَا - مَاطِیٌّ بِنِیْنٌ وَاَلَا - بَکْطَلٌ ہوا - سِیَالٌ - رقیق -

پتلا پن کی حالت میں -

مَالٌ یَصِیْلٌ مِیْبَلَانًا اِلٰی رَاغِبٌ ہونا - اِمَالَةٌ مَالٌ

کرنا کسی مادہ کو - یا اعراب کو لمبا کر کے پڑھنا - اِسْتِمَالَةٌ

ایک طرف جھکنا - مائل ہونا - مِیْلٌ - جھکاؤ - مِیْلَانٌ - مَائِلٌ جھکنے

والا - رَاغِبٌ - مَائِلٌ بہت زیادہ مائل مِیْلٌ جِ اَمِیَالٌ مِیْلٌ

سلائی

اَنْبَاؤُ سٹور۔ غلہ کی کوٹھڑی۔

نَبْرَاسٌ ج نَبَارِيسُ چراغ۔ لیمپ۔

نَبَاشٌ مُردہ اکھیرنے والا۔ قبر کھودنے والا۔

نَبَضٌ ج اَنْبَاضٌ۔ دل سے تعلق رکھنے والی رگوں کا حرکت کرنا۔ اُچھلنا۔ تھر تھرانا۔ دھڑکنا۔ نَبَاضٌ نَبَضٌ دیکھ کر بیماری کا پتہ لگانے والا۔

اِسْتِنْبَاطٌ۔ ایجاد کرنا۔ پہلے پہل معلوم کرنا۔ ایجاد۔ دریافت۔ تحقیق۔ اخذ کرنا۔ قیاس کرنا۔ بات سے بات نکالنا۔

مُسْتَنْبِطٌ کسی قول سے کوئی اخذ کیا ہوا مسئلہ۔

نَبِطٌ ج اَنْبَاطٌ۔ عوام الناس۔ نبطی لوگ۔

نَبَعٌ۔ اُچھلنا۔ اُبلنا۔ پانی کا باہر بہ نکلتا۔ مَنْبَعٌ ج

مَنَابِعٌ۔ چشمہ۔ وہ جگہ جہاں کوئی دریا یا چشمہ بہ نکلے۔ تَخْرُجُ۔

مَبْدَاً۔ اصل۔ جڑ۔ يَنْبُوعٌ ج يَنْابِيعٌ۔ پانی کا چشمہ۔ قَوَا

نَابِغَةٌ۔ بڑی شان والا۔ خوش بیان۔

اَنْبِيقٌ عرق کھینچنے کا بھیکا۔ نَبِيلٌ تیر۔ نُبَيْلَةٌ اِنْعَامٌ

بدیہ۔ عطیہ۔ نَبِيلٌ وہ شخص جو ہمہ صفت موصوف ہو۔ شریف

و فَبَاضٌ اَدْمِيٌّ۔ تَنْبِيلٌ۔ کابل الوجود۔ سست۔ بیوقوف

نَبِيَةٌ يَنْبِيَةٌ۔ نَبْهَالٌ۔ دھیان دینا۔ توجہ کرنا۔

تَنْبِيْهُهُ کسی کو آگاہ کرنا۔ کسی چیز کی طرف دھیان دلانا

اِنْتِبَاكٌ۔ خبرداری۔ ہوشیاری۔ توجہ دلانا۔ مُتَنْبِيْهُهُ

جاگا ہوا۔ بیدار کیا ہوا۔ چوکنا۔ خبردار۔ متوجہ۔ تَنْبِيْهُهُ

آگاہ کرنا۔ اطلاع۔ فہمائش۔ جتلانا۔ کان کھول دینا۔

نَبَاهَةٌ۔ شرافت۔ شہرت۔ سمجھ

نَتَجٌ يَنْتَجُ نَتَجًا مِّنْ بَچہ جنمنا۔ پیدا ہونا۔ کسی بات

سے نتیجہ کے طور پر برآمد ہونا۔

تَنْتِجَةٌ ج تَنْتِجٌ جانور کا بچہ۔ حاصل۔ پیداوار۔ انجام۔

کسی منطقی خیال کا نتیجہ۔ مُنتَجٌ نتیجہ یا انجام تک جا پہنچنا۔

نتیجہ نکل پٹنا۔

نَثْرٌ يَنْثُرُ نَثْرًا وَ نَثَاثًا وَ نَثْرٌ بِكَيْفَرٍ جَاوِدٌ

نَثْرٌ ضِدُّ نَظْمٍ نَثْرٌ نَثْرٌ نَثْرٌ لِكَيْفَرٍ وَ نَثْرٌ لِكَيْفَرٍ جَاوِدٌ

نَثْرٌ رُوِيَهُ يَأْجُلُ وَ غَيْرُهُ جُوْدٌ عَوِيَتْ شَادِيٌّ بِكَيْفَرٍ جَاوِدٌ

نَجْبٌ يَنْجُبُ نَجَابَةٌ۔ شریف خاندان ہونا۔

نَجَابَةٌ قَوْمِيٌّ شَرِيفٌ يَأْجُلُ مِلْنِ كِي عَمْدِيٌّ۔

نَجِيْبٌ ج نَجَبَاءٌ۔ شریف۔ اصیل۔ نَجِيْبٌ مَطْرَفِيٌّ

جو ماں باپ کی طرف سے شریف اور خاندانی ہو۔

نَجَحٌ يَنْجَحُ نَجَاحًا۔ کامیاب ہونا۔ نَجِيْحٌ مَبْرُوٌّ

نَجْدٌ يَنْجُدُ نَجْدًا وَ اَنْجَدٌ غَالِبٌ اَنَا۔ مدد دینا

نَجْدٌ لَاتُقِ رَاهِنًا۔ ملک متحد۔ سطح مرتفع۔ نَجْدَةٌ۔ دلیری

طاقت۔ اَلْمَنْجِدُ لغت عربی کی ایک مشہور کتاب۔ یہ لغات اُمّی

منجد کا اردو زبان میں خلاصہ ہے۔ جو اردو زبان میں پہلی کوشش

تَا جِدُّ ج نَوَاجِدٌ۔ عقل ڈاڑھ

نَجْرٌ يَنْجُرُ نَجْرًا رَنْدَةٌ كَرْنَا۔ نَجَادَةٌ۔ بڑھی بن

نَجَادٌ۔ بڑھی۔ لکڑی کو چھیلنے اور درست کرنے والا۔

نَجْرٌ يَنْجُرُ نَجْرًا وَ نَجْرًا

نَجْسٌ يَنْجَسُ نَجَسًا نَجَسًا نَجَسًا نَجَسًا نَجَسًا نَجَسًا

ہونا۔ نجس ہونا۔ ناپاک ہونا۔ گندہ ہونا۔ نَجَاسَةٌ پلیدی

نَجَسٌ ناپاک۔ گندہ۔ میلا۔

اَلنَّجَاشِيُّ عَشْرٌ كِي بَادِشَاهِيٌّ كَالْقَبِ۔ نَجْفٌ مَبْدٌ

بند۔ وادی کی جگہ جس پر پانی نہ چڑھے۔ اونچی زمین۔

سَيِّحٌ نَجْفِيٌّ۔ شیطان کا لقب ہے۔

نَجَفٌ عِراق عرب کا ایک مقام جہاں پر حضرت علی کریم اللہ کا روضہ مبارک ہے۔

نَجَلٌ جِ اَنْجَالٌ آل۔ اولاد نسل۔

رَانِجِيْلٌ جِ اَنَا جِيْلٌ۔ انجیل وہ کتاب جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی و الہامات درج ہیں۔ اور اب محرف و مبدل ہو چکی ہے۔ رَانِجِيْلِيٌّ انجیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔

مِنْجَلٌ جِ مَنَاجِلٌ وِ رَانِيٌّ۔

نَجْمٌ يَنْجُمٌ نَجْوَمًا ستارہ کا طلوع ہونا۔ نکلنا یا ظاہر ہونا۔ نَجْمَرَجٌ نَجْوَمٌ ستارہ۔ تَنْجِيْمٌ ستاروں کی حرکات اور اُنکوں سے آئندہ ہونے والے واقعات کے متعلق پیشگوئی کرنا۔ مَنَّجِمٌ ستاروں کے علم سے پیشگوئی کرنے والا۔ ستاروں کا علم رکھنے والا۔ نجومی۔

نَجِيٌّ يَنْجُو نَجَاةً مِّنْ خَلَاصِيٍّ پانا۔ نجات پانا۔

مَنَاجِيَةٌ۔ کانا پھوسی کرنا۔ بلیغہ ہو کر دُعا کرنا۔ اِسْتِنَجَاءٌ پانخانہ کے بعد صفائی کرنا۔ نَجْوِيٌّ۔ بھید۔ راز دار۔ ہم راز۔ رَجَاةٌ۔ سطح مرتفع۔ خلاصی پانا۔ چھٹکارا کرنا۔

نَجِيٌّ رَاذُوَارِيٌّ کی باتیں کرنے والا۔ نَاجِيٌّ۔ مناجات کرنیوالا۔

اَنْجِيٌّ يَنْجِيٌّ اِنْجَاءً مِّنْ نَّجَاتٍ وِيْدٍ رَاكِرْنَا۔

بچانا۔ مَنَّجِيٌّ۔ نجات دینے والا۔ مَنَّجِيٌّ۔ نجات دلانے والا۔

تَخْرُجُ نَحْوَرٌ سِيْنٌ۔ نَحْرِيٌّ نَحَارِيٌّ۔ ہوشیار

ماہر۔ تخریب کار۔ عقلمند۔ دانا۔ يَوْمُ التَّخْرِجِ عربی ہیبند کی دنوں تاریخ جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن۔

نَحْسٌ يَنْحَسُ نَحْسًا وَ نَحْوَسَةٌ۔ بدقسمت ہونا

نامبارک ہونا۔ بدشگون ہونا۔

مَنْحُوْسٌ بدقسمت۔ بدبخت۔ بے نصیب۔ بدشگون

نَحَّاسٌ۔ تانا۔ نَحَّاسٌ كَهْطِيْرٌ۔

نَحِيْفٌ يَنْحِفُ نَحَافَةً۔ دُبْلَا پتلا ہونا۔ کمزور و ضعیف

ہونا۔ نَحِيْفٌ۔ دُبْلَا۔ پتلا۔ لاغر جسم والا۔ کمزور و ضعیف۔

نَحْلٌ شَهْدٌ کی کہی۔ نَحْلَةٌ حَقٌّ مَّهْرٌ۔ تحفہ۔ ہبہ۔ عطیہ۔

اِسْتِنْحَالٌ علمی سرفہ کرنا۔ نَحْنٌ متکلم مع الغیر کی بمعنی ہم

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق مالکیّت کے

انداز میں اُسے استعمال کرتا ہے۔

تَنْخَنُ كَهَانَسَا۔ حلق سے آواز نکالنا۔

نَحْوٌ طَرِيْقَةٌ۔ ایک علم کا نام جس میں کلمات کے آخر کے متعلق

بحث اور قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔ نَحْوِيٌّ علم نحو کا عالم۔

نَاحِيَةٌ نَوَاحٍ وَ نَاحِيَاتٌ۔ طرف۔ جانب۔ کنارہ سمت

نَخَبٌ يَنْخَبُ نَخْبًا مَّجْنَنًا۔ اِسْتِنْحَابٌ کھینچ کر نکالنا۔

پسند کرنا۔ مَنَّخَبٌ۔ چنا ہوا۔ اِسْتِنْحَابٌ کیا ہوا۔

نُخْبَةٌ ہر ایک چیز کا عمدہ حصہ۔ چنا ہوا۔ خلاصہ۔

مَنَّخَبٌ۔ اِسْتِنْحَابٌ کرنے والا۔ نَاخِذَةٌ۔ جہاز کا پتلا

مِنْخَرٌ مَّخْرٌ۔ ناک۔ نھنا۔ نِخَاسَةٌ موشی کی تجارت

نَخَّاسٌ۔ موشی یا غلاموں کا تاجر۔

نَخْلٌ وَ نَخِيْلٌ کھجور کا درخت۔ نَخَالَةٌ۔ بھوسی چوگر

غلہ پر کا چھلکا۔ مَنَّخَلٌ جِ مَنَاخِلٌ چھلنی۔

نُخَامَةٌ۔ رینٹ۔ کھنگار۔ بلغم۔ نَحْوَانٌ۔ غرور۔ تکبر۔

گھمنڈ۔ خودداری۔

نَدَّجٌ اَنْدَادٌ۔ دمقابل۔ نظیر۔ ہمتا۔ ہمسر۔ مشابہ۔ برابر

نَدَبٌ وَ اِنْتَدَبَ اِلَى وِلْيَةٍ کسی کام پر مقرر کرنا۔

بھیجنا۔ مَنَّذُوْبٌ ایچی۔ تصدیق شدہ قاصد۔

اِنْتِدَابٌ بِلَا وَا۔ پکار۔ نُدْبَةٌ۔ ماتم۔ نو۔

بَابُ الْمُنْدَبِ - آبنائے باب المندب۔

نَدَرَ يَنْدُرُ نَدْرًا - انوکھا ہونا۔ عجیب و غریب ہونا

کیا ہونا۔ نَادِرٌ كَيْبَابٌ - انوکھا۔ نَوَادِرٌ

نَوَادِرَاتٌ - نرالی اشیاء عجیب و غریب چیزیں۔

النَّادِرُ وَالنَّادِرُ - انوکھا ہونے والا۔

مَنْدَدَةٌ مَنَادِدٌ - ہال۔ بڑا کمرہ۔

نَدَفٌ يَنْدِفُ نَدْفًا - روئی یا اون دھنا۔

نَدَّافٌ اُون يَارُوِي دُهْنِكُنِي وَالَا - ہافندہ قوس

النَّدَافِ بِنَجْنٍ - مَنَدَفٌ اَلنَّدَافِ -

مَتَدِيْلٌ مَنَادِيْلٌ - توپا۔ رومال۔ اَنْدَلُسٌ ہسپانیہ

نَدِمٌ يَنْدِمُ نَدَامَةً وَ تَنْدَمٌ - پچھتانا۔ نام ہونا

افسوس کرنا۔ نَادِمٌ - پشیمان ہونے والا۔ تَدِيْمٌ نَدَمًا

فِيْقٌ - دوست مصاحب۔

نَادِيٌ يُنَادِيٌ مَنَادَاةً وَ نِدَاءً - بلانا۔ پکارنا

مُنَادِيٌّ - بلانے والا۔ آواز دینے والا۔ پکارنے والا۔ مَنَادٌ

مَبْلَغٌ بَشْرٌ - مَنَادِيٌّ جِسْمٌ پکارا جائے۔ نَدْوَةٌ - مجلس۔ عت

يَوْمُ النَّوَادِ - روز قیامت۔ حَرْفُ النَّوَادِ حَرْفٌ

پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے یا۔ آئی۔

نَدَرَ يَنْدُرُ نَدْرًا لِلّٰهِ - اللہ کے نام پر منت ماننا۔ نذر

دینا۔ بھینٹ چڑھانا۔ نیاز کرنا۔

نَدَرَ يَنْدُرُ نَدْرًا - کسی چیز سے آگاہ ہونا۔

اَنْدَرَ يَنْدُرُ اَنْدَارًا - آگاہ کرنا۔ ڈرانا۔ منتنبہ کرنا۔

نَدْرٌ نَدْرٌ - نیاز۔ نذر۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے

لئے مافی جائے یا خدا کے حضور بھینٹ چڑھائی جائے۔

اَنْدَارٌ - ڈرانا۔ آگاہ کرنا۔ تنبیہ کرنا۔ نَدِيْرٌ نَدْرٌ

عذاب سے ڈرانے والا۔

مُنْدَرٌ ڈرانے والا۔ اَلْمُنْدَرُ - عرب بادشاہوں میں سے

ایک کا نام۔ نَرْجِسٌ - زگس۔ ایک خوشبودار پودا۔

نَادِرٌ جِيْلٌ - ناریل۔ نَادِرٌ جِيْلَةٌ ناریل کا حُقّہ جو ایران میں

استعمال ہوتا ہے جسے مصر میں شَيْثَةٌ یا جَوْذَةٌ کہتے ہیں

نَزْدٌ - سنجہ نزد۔ چوسر کی ایک کھیل کا نام شطرنج کی طرح

نَادِرٌ سِنٌّ بِالْحِطْرِ - سنبل الطیب ایک خوشبودار جڑی بوٹی

جو مفرح ادویات میں استعمال کی جاتی ہے

نَادِرٌ نَجْرٌ - نرج۔ کٹھا۔ لیموں۔

نَزَعٌ يَنْزِعُ نَزْعًا وَ نَزْعٌ وَ اِنْتَزَاعٌ مِنْ

بکال لینا۔ کھینچ لینا۔ اکھڑنا۔ برطرف یا معزول کر دینا۔

نَزْعٌ مَوْتٌ كَقَرِيْبٍ هَوْنًا - نَزَاعٌ جَهَكْرًا -

مَنَازَعَةٌ لِرَاطِيٍّ جَهَكْرًا كَرَنًا - بحت و مباحثہ کرنا۔ نَزَاعٌ

آپس میں اختلاف کرنا۔ باہم لڑنا۔ اِنْتِزَاعٌ - اپنی جگہ سے اُگھڑ

کرنا۔ مَنَازَعَةٌ اِسِيْ بَاتٌ جِسْمٌ پَر اِسِيْ

لِرَاطِيٍّ جَهَكْرًا هُو -

نَزَفٌ يَنْزِفُ نَزْفًا - نون کا پھنا۔

نَزْفٌ الدَّمِ - نون پھنے کی مرض۔

نَزَلَ يَنْزِلُ نَزْلًا - نیچے اترنا۔ اَنْزَالٌ

فِي كَسِي جَهَكْرًا قِيَامٌ كَرَنًا - نَزْلَةٌ - اَنْزَالٌ

اَنْزَالٌ - اُتارنا۔ نَزْلٌ - اَنْزَالٌ

اپنے حقوق چھوڑ دینا۔ نَزْلٌ نَوَارِلٌ - حادثہ۔

مصیبت۔ بلا۔ نَزْوٌ - پڑاؤ۔ نَزِيْلٌ - مسافر منزل

ج مَنَازِلٌ - قیام گاہ۔ سرے۔ گھر۔ ہوٹل۔ اَنْزَالٌ وَ

تَنْزِيْلٌ كَسِي رَسُوْلٌ پَر وِي اُتَارنا۔ مَنَزِلٌ - مرتبہ۔ درجہ

مَنْزَلٌ اُتَارا هُو - نَزِلٌ - اترنے والا۔

تَدْبِيرُ الْمَنْزِلِ - خانہ داری۔ گھر کا انتظام کرنا۔
 نَزْوَةٌ يَنْزُوَةٌ نَزَاهَةٌ - ناپسند باتوں سے بچنا۔
 نَزْوَةٌ - خوشی۔ پاکیزگی۔ تَنْزُؤَةٌ - سیر کرنا تفریح کرنا۔
 مَنَزَلَةٌ - ہر عیب اور نقص سے پاک۔ تَنْزِيَةٌ - اللہ تعالیٰ
 کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا۔ اور سمجھنا۔

كُشْبِيَةٌ - ادھار۔ قرضہ۔ جو نقد نہ ہو۔

نَسَبٌ يَنْسِبُ نَسَبًا وَنَسَبَةٌ إِلَى كَيْسٍ كَيْسِيٌّ
 لُكَاؤًا - منسوب کرنا۔ مخصوص کرنا۔ تَنَاسُبٌ - مطابق ہونا۔
 اِنْتِسَابٌ - کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔

نَسَبٌ وَجْهُ اَنْتَسَابٌ - رشتہ داری۔ قرابت۔ سلسلہ خاندان
 نَسَبَةٌ - قرابت۔ رشتہ داری۔ کسی ام کے آخر میں جانے
 نسبت لگا کر اسم منسوب بنانا۔ مَنَّاسِبَةٌ وَتَنَاسُبٌ
 مطابقت۔ مناسبت۔ مَنَّاسِبٌ کسی چیز کے مطابق

ٹھیک۔ درست۔ مَنَّاسِبٌ - خاص نسبت رکھنے والا۔
 آپس میں تناسب رکھنے والا۔ مَنَّاسِبٌ جو کسی کی طرف
 نسبت دیا گیا ہو۔ اَنْتَسِبُ مناسبت زیادہ بہتر۔
 نَسَابٌ شجرہ نسب یاد رکھنے والا۔ مَنَّاسِبَةٌ وہ عورت
 جس کی نسبت ہو چکی ہو۔ مَنَّاسِبَةٌ اس کے مقابل۔

نَا سَوْتُكَ - انسائیت۔ انسانی فطرت۔

نَسَجَ يَنْسِجُ نَسْجًا - بنانا۔ منسوجہ بنانا ہوا۔
 نَسَاجٌ - بننے والا۔ جولانہ۔

نَسَخَ يَنْسِخُ نَسْخًا - مٹانا۔ ضوع کرنا۔ نقل کرنا۔
 صورت کا بدل جانا۔ تَنَاسُخٌ - بعد دیگرے آنا۔ باری
 باری آنا۔ آواگون۔ نَسَخٌ کسی قانون کو بدلنا۔ کسی عبارت
 کو نقل کرنا۔ عربی رسم الخط۔ نَسْخَةٌ - نقل۔ کاپی۔ قلمی کتاب

وہ کتاب جس سے نقل کی جائے۔ طلب کا نسخہ۔ کتاب کی ایک
 کاپی۔ نَاسِخٌ - قانون بدلنے والا۔ وہ حرف جو اسم کے اعراب
 بدل دے۔ مَنَّسُوخٌ - بدلا ہوا مثالی ہوا۔ تَنَسِيخٌ -
 نکاح وغیرہ کو رد کر دینا بدلنے کی درخواست کرنا۔
 اَلنَّاسِخُ وَالْمَنَّسُوخُ - غلطی کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا
 کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی بعض آیات میں نازل شدہ احکام
 کسی دوسری آیت کے بدل دیئے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ
 کی کلام پاک قرآن کریم کا ایک شوشہ ایک حرف ایک زیر
 زیر یا پیش بھی نہیں بدل سکتا۔

نَسْرٌ - گدھ۔ عَقَابٌ - نَاسُورٌ - نَاسِيبٌ - نَاسِيبٌ
 وہ زخم جو چالیس دن سے زیادہ کا ہو جائے اور پتہ ہے
 جس سے پیپ وغیرہ خارج ہوتی رہے۔

نَسْرٌ نَسْرٌ - ایک قسم کا نوشبودار سفید گلاب۔ نَسْرٌ
 نَسْطُورٌ - عیسائیوں کا ایک فرقہ جو انجیل میں ردو
 بدل مانتے ہیں۔

نَسَقٌ يَنْسِقُ نَسَقًا - ترتیب رکھنا۔

تَنَسِيقٌ - تنظیم دینا۔ ترتیب دینا۔ انتظام کرنا۔
 نَسَقٌ - ترتیب۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ حَوْوْفُ النَسَقِ
 حروف عاطفہ۔ نَسَكٌ وَنَسَكٌ - خدا تعالیٰ کا منفر کردہ
 فرض۔ نَسِيكَةٌ - قربانی۔ نَاسِكٌ - نَسَاكٌ - سنیاہی
 عابد۔ زاہد۔ جوگی۔ تارک الدنیا۔ درویش۔ مَنَّسِكٌ -
 مَنَّاسِكٌ - کے ارکان یا وہ مقامات جہاں وہ اولاد
 جاتے ہیں۔ نَسْلٌ - نَسَالٌ - نَسْلٌ - اولاد۔ بال بچے
 تَنَاسُلٌ - پیدائش سے اولاد میں بڑھنا۔

نَسْمَةٌ - نَسْمٌ - رُوحٌ - سانس۔ جاندار۔ انسان۔

تَنَسَّمَ - سانس لینا۔ سانس کھینچنا۔ تَسْتَأْس - ایک خیالی انسانی شکل کا جانور۔ بن ماس۔ بنگور۔ بونا۔
 نَسَاجُ النَّسَاءِ - ایک رگ جو ان سے ٹخنہ تک ہوتی ہے
 عِرْقُ النَّسَاءِ - کولہ رہ جانے کی مرض۔ لنگڑی کا درد۔
 نِسْوَةٌ وَنِسَاءٌ وَنِسْوَانٌ عورتیں۔
 نَسِيَ يَنْسِي نَسِيًّا وَنَسِيَانًا - بھول جانا۔ چھوڑ دینا
 لاپرواہی کرنا۔ نَسِيَانٌ - بھول۔ فراموشی۔ ناسی و ناسی
 بھولنے والا۔

نَشَأَ يَنْشَأُ - نشاۃ۔ بڑھنا۔ بلند ہونا۔ نشوونما پانا۔
 اِنْشَاءٌ تَرْبِيَةٌ كَرَامَةٌ - پیدا کرنا۔ پرورش کرنا۔ مَنَشَأٌ
 نبع پیدا ہونے کی جگہ۔ مرضی۔ ارادہ وغیرہ۔
 نَاشِيٌّ - پیدا ہونے والا۔ مَنَشِيٌّ - بیوٹر۔ کسی تحریر کا لکھنے
 والا۔ اِنْشَاءٌ عبارت کافن۔ طرز عبارت۔ کسی تحریر کا لکھنا
 نَشْوَةٌ - نشوونما۔ اِنْشَاءٌ - اٹھان۔ زیادتی۔ کثرت۔ ترقی۔ نشوونما
 تَنْشِيْدٌ - شعر پڑھنا۔ نَشِيْدٌ - اِلَّا نَشَادٌ - غزل الغزلت
 بھجنوں کی کتاب۔ نَشَادٌ - نَشَادٌ - نو شادریک
 سفید رنگ کی چرپری دوائی جو امراض معدہ و طحال و جگر
 استعمال ہوتی ہے۔

نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرًا وَنَشْرًا - بکھیرنا۔ پھیلانا۔
 نَاشِرٌ - پھیلانے والا۔ مَنَشُوْرٌ - شاہی فرمان بیکر پر پکٹس
 اِنْشَادٌ - تتر بتر ہونا۔ پھیلنا۔ بکھرنا۔ پراگندگی۔
 مَنَشَرٌ - پھیلنے والا۔ نَشْرٌ - ہونے والا۔ نَشْرٌ - ہوا
 سالہ۔ پمٹ۔ نَشْرٌ - اشاعت۔ شہرت۔ يَوْمُ النُّشُوْرِ
 قیامت کا دن۔ نَشَادَةٌ - برادہ۔ مَنَشَادَةٌ - آ رہ۔
 نَشُوْرٌ - میان بیوی کی ان بن۔ آیس کی ریش نَشُوْرٌ
 نافرمان بیوی

نَشَاطٌ - خوشی و بہجت۔ بشارت۔ سرور۔
 مَذْنِبٌ - نشاط اور خوشی اور سرور پیدا کرنے والا۔
 نَاشِطٌ كَشِيْفٌ - تیز۔ پھرنیلا۔ خوش خوش۔
 كَشَفَ يَكْشِفُ كَشْفًا - سوکھ جانا۔ جذب کر لینا۔
 نَشَافٌ - خشک کرنے والا۔ بلا خشک پیر۔ مَنَشِيفٌ
 رطوبت کو جذب کرنے والا۔ مَنَشِيفَةٌ - تو لیاج مَنَشِيفَةٌ
 نَشُوْقٌ - سوار۔ سوکنے کی دوا۔ وہ تمام دوائیں جو ناک کے
 ذریعہ استنماں کی جائیں۔ نَشَامِئِيٌّ - نشا والی دوا کا اثر۔
 مَنَشِيٌّ - مستی۔ پیدا کرنے والا۔

نَشْوَانٌ - نشہ میں پور۔ مخمور۔
 نَمَسٌ يَنْمَسُ نَمَسًا - صاف کرنا۔ ظاہر کرنا۔ نَمَسٌ
 نَسُوْحٌ - منقن۔ اصل عبارت کسی کتاب کی۔ صاف
 واضح بیان۔ ہر چیز کی انتہا و نہایت۔ مد کا درجہ۔
 نَمَسَةٌ - وہیں کا کلمہ۔ مَنَشَقٌ - چرپریکٹ۔ وہ ادب کی
 اپوکی میں پردہ لہن کو جٹھانا۔

نَمَسَةٌ - صاف۔ صاف۔ صاف۔ صاف۔ صاف۔ صاف۔
 نَمَسَةٌ - واضح کیا ہوا۔ بتلایا ہوا۔ اشارہ کیا ہوا۔
 نَصَبٌ يَنْصِبُ نَصْبًا وَنَصَبًا - گالانہ
 کسی برف پر زیر لگانا۔ نَصَبٌ - نَصَبٌ - نَصَبٌ
 ہوا حرف۔ نَصَابٌ - نَصَابٌ - نَصَابٌ - نَصَابٌ
 فرض ہو جاتی ہے۔ اور دس۔ کسی جماعت یا مدرسہ کی کلاس
 کی ایصال کا کورس۔ نَاصِبٌ - نَصَبٌ - نَصَبٌ
 حصہ۔ قسمت۔ ٹکڑا۔ تقدیر۔ بھاگ۔

مَنْصِبٌ مَنَاصِبٌ - درجہ۔ رتبہ۔ فرض منصبی۔ دیونی
 عمدہ۔ کھڑا ہونے کی جگہ۔ مَنَصُوْبَةٌ - میل۔ تہبیر۔

نَصَبٌ - تھکان، محنت، آتش، آگ، پتھر جو جاہلیت میں کعبہ کے ارد گرد گھڑے کے ہونے لگے۔ اور ان کے اوپر جانور رکھ کے جاتے تھے۔

نَصَبٌ يَنْصُرُ نَصْرًا وَنَيْبًا لِي - سچی دوستی ظاہر کرنا
نَصِبٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، مشورہ، صلاح، تاراج، وہ شخص جو بے غرضانہ اور غلامانہ رائے سے نصوحت دے۔

نَصِبٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، مشورہ دینے والا۔
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - مدد کرنا، مدد دینا، اعانت کرنا ہاتھ بٹانا، نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - اعانت، تاجر، مدد کرنے والا
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، مدد دینا، نصرت، عیسائی
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت

نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت

نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت

نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت
نَصْرٌ يَنْصُرُ نَصْرًا نَصْرًا نَصْرًا - نصرت، عیسائیت

لونا ہوا۔ ٹھیک ٹھیک معنی۔ درست مطلب۔ صحیح مفہوم۔
حَيَوَانٌ نَاطِقٌ - انسان۔ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ - انسانی
روح۔ جان۔ مَنْطِقٌ كُفْتُو - گویائی، علم منطق۔ مَنْطِقٌ عِلْمٌ
منطق کا علم۔ مَنْطِقَةُ مَتَاطِقٌ - خطہ۔ منطقہ، دائرہ
مِنْطَقَةُ الْبُرُوجِ - وہ فرضی خطہ یا دائرہ جو آسمان کے
بارہ ٹہروں پر حاوی ہے۔

نِطَاقٌ - پٹی، کربند۔

تَطْوِيلٌ تَرْبُطٌ - دو ایسوں کا نیم گرم پانی جو عضو او ف پڑا
جاتا ہے۔ جوشاندہ۔

نَظَرٌ يَنْظُرُ نَظْرًا إِلَى - دیکھنا، گھورنا۔

نَاطِرٌ نَظْرٌ وَنَاطِرِيْنٌ - دیکھنے والا، منظور
منبول۔ مَنَاطِرَةٌ - علمی بحث کرنا، مَنَاطِرٌ مَنَاطِرٌ
دیکھنے کی جگہ۔ نَظَارَةٌ - تھپیڑ، شکل۔ نَاطِرَةٌ - آنکھ۔

إِنظَارٌ وَجَبِلٌ دِينًا - ٹالنا، اِنظَارٌ - راستہ دیکھنا، انتظا
کرنا۔ نَظْرٌ نَظْرٌ نَظْرٌ - نگاہ، نَظْرِيٌّ - خیالی، علمی، فہمی
دماغی۔ نَظْرِيَّةٌ نَظْرِيَّاتٌ - علمی مسئلہ، جوشائیت کیا
جار ہا ہو، تھیوری۔ نَاطِرُ النِّظَارِ - وزیر اعظم، تَظْيِيرٌ
مشیل۔ مانند۔ مَنَاطِرٌ بحث کرنے والا۔ نَظَارَةٌ تَمَازُ
نِظَارَتٌ - وزارت، حکمہ انتظامیہ۔ تَظْيِيرٌ نَظَارَةٌ
برابر کا۔ مساوی۔ مانند، مشابہ۔ مَنَاطِرَةٌ - رصد گاہ، جنت

نَظَافَةٌ صَفَايٌ - ستھرائی، پاکیزگی، خوبصورتی۔
نَظِيْفٌ - صاف، پاک، ستھرا، خالص۔

نَظْمٌ يَنْظُمُ نَظْمًا إِلَى - جوڑنا، ایک چیز کو دوسرے
سے ملانا۔ نِظَامٌ وَتَنْظِيْمٌ ترتیب دینا، باقاعدہ
جانا، موتیوں کو پرونا، اشعار نظم کرنا۔

إِنْتِظَامٌ - مقرر کرنا۔ سلسلہ وار ہونا۔ نَظْمٌ - ترتیب
 ضبط۔ شعر کا طرز۔ ڈھنگ۔ تَنَظُّمٌ - ترتیب دینے والا۔
 تنظیم کرنے والا۔ شاعر۔ مَنظُومٌ - ترتیب دیا ہوا۔
 مُنَظَّمٌ - اچھی طرح ترتیب دیا ہوا۔ مُنْتِظِمٌ - انتظام
 کرنے والا۔ مرتب کرنے والا۔

نَعْتٌ - صفت۔ وصف۔ جوہر۔ ہنر۔ تعریف۔
 نَعْتِيَّةٌ - کلام جس میں نعت درج ہو۔ نَعْرَةٌ - خراشا۔
 بلند آواز۔ نَعْتَاخٌ - پودینہ۔

نَعَشٌ - يَنْعَشُ - نَعَشًا - اُبھارنا۔ اُبھارنا۔ حرکت
 دینا۔ نَعَشٌ - مردہ کی چار پائی۔ مَنعَشٌ - اُبھارنے والا
 رَانِعَاثٌ - اُبھرتا۔ بِنَاتُ النَّعَشِ - ساتھیوں
 کا جھمکا۔ قطب کی طرف کے ساتھی۔

نَخْلٌ - نَخَالٌ - جوتی۔

نَعْمٌ - يَنْعَمُ - نَعْمَةٌ - ناز و نعم میں رہنا۔ بیش عمر
 سے زندگی بسر کرنا۔ نَعْمَةٌ - نِعْمَةٌ - نِعْمَةٌ - نعمت
 برکت۔ عنایت۔ فضل۔ نَعِيمٌ - نعمت۔ خوشی۔ برکت۔

تَنْعَمٌ - پُر لطف زندگی گزارنا۔ مَنعَمٌ - عین پر
 انعام کیا گیا ہو۔ نَاعِمٌ - بلا کم۔ رَانِعَاثٌ - اُنعامات
 نیکی۔ بھلائی۔ فضلِ کرم۔ مَنعَمٌ - انعام کرنے والا۔

نَعْمٌ - یاقینی۔ بلا شک و شبہ۔ نَعْمَانٌ - حیرہ کے
 بادشاہوں کا لقب۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
 کا ذاتی نام۔ شَقَائِقُ النَّعْمَانِ - کُل لالہ۔ مَنعَمٌ -
 آسودہ زندگی والا۔ اِسْعُ النَّعْمَةِ - دولت مند۔ خوش حال
 نَعْرٌ - بچہ کا لُد گدانا۔ عجیب بات کہتا۔ نَعْيٌ - موت کی خبر
 دینا۔ نَاعِيٌّ - موت کی اطلاع دینے والا۔ نَاعِيٌّ

نَعْمٌ - يَنْعَمُ - نَعْمًا - گنہیں سہرا کرنا۔
 نَعْمَةٌ - نَعْمَاتٌ - رگ۔ گیت۔ نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ
 پھونک مارنا۔ نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ
 ڈالنا۔ اُبھار کرنا۔ نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ
 نَعْمٌ - پھونکا۔ رَانِعٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ
 نَاعِيٌّ - سر کی پوتی۔ نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 دکھانا یا نڈنا۔ نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 ہونا۔ عمل میں آنا۔ نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 مَنعَمٌ - مَنعَمٌ - مَنعَمٌ - مَنعَمٌ
 نَعْمٌ - جاری کرنا۔ نَعْمٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 لفظوں کا ارتقاع۔ نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَعْمٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ
 کرنے والا۔ نَعْمٌ - نَعْمٌ - نَعْمٌ

نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ - نَعْمَةٌ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ
 نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ - نَاعِيٌّ

تَفِيقٌ يَتَفَقَّحُ - تَفَقَّحًا - ہو چکنا - خرچ ہو جانا -
 اِتِّفَاقٌ - خرچ کرنا - تَفَاقَتْ فِي الدِّينِ - مذہب میں
 دور خاہونا - تَفَاقَتْ وَرَبَّتْ فَتَمَّتْ - ظاہر اور باطن ایک
 نہ ہوا - تَفَاقَتْ - دور خاہ آدمی میں کا ظاہر کچھ ہو اور باطن
 کچھ اور - دُفَا بَارِزٌ فَرِيحٌ - تَفَقُّتٌ - جمع تَفَقَاتٌ - خرچ صرف
 روپیہ - پیسہ - تَفَقُّتٌ - تَمَرَكٌ - تَفَلُّتٌ - تَفَاقَتْ فِي تَوَاقُفِ
 وَا حِيَاتٍ وَفَرَقَتْ كَيْ عِلَاوَهُ تَبِكٌ كَامٌ - تَفَاقَتْ - پوتا -
 تَفَلُّتٌ فِي آتِفَالٍ - ہال غنیمت -

تَفَى يَتَفَى كَفَوًا كَالِ بَاهِرٍ كَرْنَا - تَفَى - جلا وطنی
 ولسن کالہ - اِلَاحٌ - عَلِيمِدِي - حُرُوفٌ التَّفَى - حرف نفی
 وہ حرف جو انکار یا سلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے -
 مَتَفَى - انکار کیا ہوا - رُو كِيَا هُوَا - تَفَاهِيَةٌ نفی کرنے والی
 مُتَفَاتَةٌ - دو چیزوں کا باہم مخالف ہونا -

تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -

تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -
 تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ - تَفَاتٌ -

تَفَرُّقٌ يَتَفَرَّقُ تَفَرُّقًا - تَفَرَّقَ بَارِنَا بِرِنْدَه كَا -
 تَفَادَةٌ - دُفُولٌ - مِجْهُو طَابِنُورَه - مِتْقَادٌ - پرنده کی چوڑی
 تَفَادَةٌ - چاندی کی ڈلی - تَفَاوُسٌ ح تَوَا قِيْسٌ كَهْنِي -
 تَفَرُّقٌ - مِجْهُو طٌ جُوْرُوْن كَا دُرُو - كَاوُطٌ -

تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو

تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو

تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو

تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو
 تَفَشٌ - يَتَفَشُ تَفَشًا وَتَفَشٌ - مَخْتَلِفٌ رُحُو

نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلًا وَ تَقَلَّ - ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ عَنِ کسی سے کوئی بات نقل کرنا۔ کسی کے حوالے بیان کرنا۔ اِنْتَقَالَ - ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

نَقْلٌ جَ نَقْوُلٌ - کتاب کی نقل۔ بیان۔ حوالہ۔

نُقْسٌ - مٹھائی کھانا کھانے کے بعد یا بطور تفریح جو چیز کھائی جائے

نَاقِلٌ - نقل کرنے والا۔ مَنقُولٌ - نقل کیا ہوا۔ مَنقُولَةٌ -

ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہوئی چیز۔ نَقِيٌّ - جو

اصلی نہ ہو۔ نَقَّالٌ - کسی کی نقل کرنے والا۔ مَنقُولَةٌ جَ

مَنقُولَاتٌ - وہ امور جو تحریر سے تعلق رکھیں۔ مُنْتَقِلٌ -

ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔ قابل انتقال جاہلاد۔

نَقَمَ يَنْقِمُ نَقْمًا وَ اِنْتَقَمَ مِنْ کسی سے

بدلہ لینا۔ اِنْتَقَمَ - بدلہ۔ مَنْتَقِمٌ - بدلہ لینے والا۔

نَقْمَةٌ - سزا۔ سیاست۔ بدلہ۔ انتقام۔

نَقِيٌّ يَنْقِي نَقَاةً - خالص ہونا۔ بے عیب

ہونا۔ پاک ہونا۔ تَنْقِيَةٌ - پاک و صاف کرنا۔ مَنقِيٌّ -

پاک و صاف کرنے والا۔ مَنقِيٌّ - پاک و صاف کیا ہوا۔

نَقِيٌّ - خالص۔ پاک۔ صاف۔ بے عیب۔

نَكَبَةٌ - بد نصیبی۔ آفت۔ بلا۔ مصیبت۔ وبال۔ عذاب

نَكْتَةٌ جَ نِكَاةٌ - کسی مضمون کی کوئی باریک بات۔

نَكَّتْ - يَنْكُتُ نَكْتًا - عہد توڑنا۔ تَنَاكُتٌ آپس میں

قول و قرار یا وعدہ توڑ دینا۔

نَكَحَ يَنْكِحُ نِكَاحًا - بیاہ کرنا۔ عقد کرنا۔ نَكَحٌ - نکاح

کرنے والا۔ مَنكُوحَةٌ - شادی شدہ عورت۔ نِكَاحٌ -

شادی۔ بیاہ۔ نکاح۔ نَكَحٌ - يَنْكِحُ نِكَاحًا - ناواقف

ہونا۔ انجان ہونا۔ تَنْكِيٌّ - نکرہ بنانا۔ اِنْكِيٌّ - نہ ماننا۔

مُشْكِرٌ جَ مُشْكِرِينَ - شکر گزار۔ شکر کرنے والا

شِكْرَةٌ - اسم نکرہ۔ وہ اسم جس پر ال (الف) نام تعریف

کانہ ہو۔ مُشْكِرٌ وَ مُشْكِرَةٌ - دو فرشتوں کا نام جو مردہ

قبر میں دفن کرنے کے بعد سوال و جواب کرتے ہیں۔ اِنْشَكَرَ

خدا کی مرضی کے خلاف۔ ناپسندیدہ۔ ناجائز کام۔ دستور کے

خلاف بات جَ مُشْكِرَاتٌ - شکر کرنے کی بددعا۔ خوشبو

النَّامُوسُ جَ نَمَاسٌ - جبریل۔ تَمَشُّشٌ - داغ

دھاری۔ نَمَطٌ - طریقہ۔ نَمَطٌ - قسم۔ نوع

نَمَقٌ يَنْمُقُ نَمَقًا - کتاب کھنا۔ تَمِيذَةٌ -

خط چھٹی

نَمَسٌ جَ نَمَسَاتٌ - ایک بیوی اور ایک بھائی

آناہل۔ نَمَسٌ - نَمَسَةٌ - نَمَسَةٌ - نَمَسَةٌ - مثال۔

نَمَا يَنْمُو نَمًا - بڑھنا۔ تَرْقِيٌّ - ترقی کرنا۔ زیادہ

ہونا۔ نشوونما پانا۔ تَمَوُّوا - امتحان۔ بڑھوتری۔ زیادتی

نَامِيَةٌ - بڑھنے کی طاقت۔ قُوَّةٌ مَوِيَّةٌ

اِنْتَمَاةٌ - کسی کی طرف مائل ہونا۔

نَهَبٌ يَنْهَبُ نَهْبًا - لوٹ مار کرنا۔ لوٹ مار کرنا۔

نَهَبٌ - مَنهَبٌ - لوٹ مار

نَهَجٌ يَنْهَجُ نَهَجًا - نہج کرنا۔ نہج کرنا۔

مِنْهَا جَ مَنَاهِجٌ - نہج کرنا۔ نہج کرنا۔

نَكَّرَ يَنْكِرُ نَكْرًا - نکرہ بنانا۔ نکرہ بنانا۔

نَكَرٌ - نکرہ بنانا۔ نکرہ بنانا۔

نَكَرٌ يَنْكِرُ نَكْرًا - نکرہ بنانا۔ نکرہ بنانا۔

نَكَرٌ - نکرہ بنانا۔ نکرہ بنانا۔

نَكَرٌ - نکرہ بنانا۔ نکرہ بنانا۔

مَشْهُلٌ جَ مَشَاهِلٌ - پانی پینے کی جگہ۔
 تَهَيُّ يَتَهَيُّ - تہیبا عین - روکنا - منع کرنا - باز رکھنا
 اِنْتَهَى بِفُلَانٍ اِلَى - کسی کو کہیں لے جانا - لانا یا پہنچانا۔
 تَهَيُّ مَهْلِكٌ - روکنا - تمام - کٹھنی عِنْدَ - ممنوع۔
 مَشْتَهَى - مدد - غایت - انجام - آخر - اِنْتِهَاءً - آخر - انجام
 کھنارہ - سرحد - تَعْدِيرٌ مَشَاهِلٌ - بے انتہا - بے حد - ناپیدا
 کھنارہ - قَاتِبٌ يَنْتَوِبُ رِيَابَةً عَنِ فُلَانٍ کسی کا قائم
 مقام ہونا - ٹائمنڈ ہونا - کسی کے بجائے کام کرنا۔
 اَتَابَ يَنْتَابُ اِنَابَةً اِلَى - کسی کی طرف بار بار لوٹنا
 نَوْبَةٌ جَ نَوَابٌ - باری - وقت - زمانہ کا چکر - نِيَابَةٌ
 قائم مقامی - نَائِبٌ جَ نَوَائِبٌ - قائم مقام - خلیفہ - نَائِبُهُ
 سفیر - نَائِبَةٌ جَ نَوَائِبٌ - مصیبت - بلا - آفت
 اِنَابَةٌ - کسی کی طرف جھکنا - مَنِيبٌ - اللہ کی طرف رجوع
 کرنے والا - نَائِبٌ المَفَاعِلِ - فصل مچھول کا مسند الیہ مفعول
 مَالِ مَيْسَرَةٍ قَاعِلُهُ - مجلس التَّوَابِ - پارلیمنٹ
 دارالعوام - مجلس المندوبین -
 نَاحٌ - يَنْوَحُ - نِيَا حَةً - ماتم کرنا - بین - نوہ کرنا۔
 نَوْحَةٌ - چیخ و پکار - واویلہ - مرہ پر بین کرنا - ماتم - نُوْحٌ
 حضرت نوح علیہ السلام جن کا لقب آدم ثانی ہے کیونکہ طوفان
 نوح کے بعد آپ ہی کی نسل دُنیا میں پھیلی۔
 نَادٍ يَنْوُدُ نَوْرًا وَ نَوْدًا وَ نَوْدًا وَ تَنْوُدُ وَ
 اِنْدَ تَنَادٌ - چکنا - روشن ہونا - بھڑکنا - تَنْوِيرٌ - روشن
 کرنا - مَنُوْدٌ - روشن کرنے والا - مَنِيْرٌ - روشنی بخشنے والا۔
 نَوْرٌ جَ اَنْوَارٌ - روشنی - نور - ضیا - چمک - مَنَادَةٌ
 روشنی کا مقام - لائٹ ہاؤس - اَنْوَارٌ - زیادہ روشن

نَادٌ جَ نِيْرَانٌ - آگ - نَوْدٌ جَ اَنْوَارٌ - سفید پھول
 نِيْرٌ - نِيْرَةٌ - چمکنا - روشن - نَوْرِيٌّ - نور والا۔
 مَشْتَمِيْرٌ - روشن ہونے والا - روشنی حاصل کرنے والا۔
 نَائِرَةٌ - تھوڑی آگ۔
 نَوْدٌ وَ نَوْدٌ وَ نِيْرٌ وَ نَوْدٌ - ابراہیموں کے شمسی سال کا
 پیدا دن - خوشی کا دن - نَوْدٌ جَ نَوْدٌ - نَوْدٌ جَ نَوْدٌ - (چلچلیاں)
 نَوْدٌ جَ نَوْدٌ - تپ - تَنَادٌ وَ تَنَادٌ - لڑائی - جھگڑا۔
 نَاسٌ - لوگ - آدی - اِنْسَانٌ - نَاسُوْتٌ - عالمِ اِنْسَانِ
 مَنَاطٌ - دار و مدار - وجہ یا سبب۔
 نَوْحٌ جَ اَنْوَاعٌ - قسم - نوع - جنس - صفت - ڈھنگ
 طور - طریق - تَنَوُّعٌ - مختلف قسموں والا ہونا - رنگ -
 رنگ ہونا - متفرق طرزوں والا ہونا - مَنَوُّوعٌ - رنگ
 رنگ - رنگ - رنگ - قسم قسم کا - کئی انواع کا۔
 مَنَائِبٌ - عرب کے ایک بت کا نام - مَنِيبٌ - بت۔
 اَوْبَاحٌ - عالی مرتبہ - نِيْلُوْفَرٌ - نیلوفر - کنول۔
 مَاقِدٌ جَ نِيَابٌ - اونٹنی۔
 نَيْسٌ - وہ چیز جو حاصل کی جائے - اصول - تحصیل - حاصل
 کرنا - تَنَادٌ - کسی چیز کو لینے یا دینے کا فعل۔
 مَنَوَالٌ - ڈھنگ - طریقہ۔
 نَامٌ يَنْامٌ نَوْمًا وَ نِيَامًا - سونا - اونگھنا - نَائِمٌ
 سونے والا - مَنَوْمٌ خواب اور (دوا) نُونٌ - ویل مچھلی۔
 دوات - ذُو النُّونِ - حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے
 جو تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے - اور زندہ باہر نکلے۔
 تَنْوِيْنٌ - وہ حرفِ نون کی آواز جو الفاظ کے آخر میں دو
 زبردوزیر یا دو پیش لگانے سے پیدا ہوتی ہے۔

مَهِيلٌ رَحِمٌ كِنَالِي - اذام نہانی - هَبَاءٌ - گرد - باریکہ عبا
در سے جو عوام میں اڑنے پھرتے ہیں۔

هَبَسَقٌ - احمق - بے وقوف - هَاقَتْ عَيْبٌ آواز دہری
هَتَكَ يَهْتِكُ هَتَاكَ بے عزتی کرنا پرو چالنا

هَجَدَ يَهْجُدُ هَجْوَةً اَوْ تَهَجَّدَ جَائِزٌ رَهْنًا
تَهَجَّدٌ - آدھی رات کے بعد کی نماز - جو تین رکعت کی بارہ

رکعت تک ہوتی ہے بد تیرہ بھی - رمضان شریف کے مہینہ
یہی نماز جب جماعت کے ساتھ قرآن کریم سننے کی غرض سے ادا

کی جاتی ہے - تو نماز تراویح کہلاتی ہے کیونکہ راحت لے کر
ادا کی جاتی ہے - وتر اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی

آخری رکعت طاق ہوتی ہے -
هَجَرَ يَهْجُرُ هَجْرًا وَهَجْرَانًا - ساتھ چھوڑ

دینا - هَجْرٌ - جدائی - هَجْرَةٌ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ترک وطن کر کے جاننا سال

طہری ثمری حضور علیہ السلام کی ہی ہجرت سے شروع ہوا جو
آج ۲۵ رمضان مبارک منسلک ہے - اور ہجری شمسی ۲۴

۳۲۸ ہے - هَاهَا يَهْرُ - ہجرت کرنیوالا - ج - مہاجریت
وَمُهَاجِرُونَ - مہاجر - چھوڑا ہوا ترک کیا ہوا -

هَاجِرَةٌ - حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام
الْمُهَاجِرُونَ - وہ لوگ جو ان کے ہمراہ تھے

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے مکہ سے مدینہ آگئے تھے -
هَجَمَ يَهْجِمُ هَجْمًا مَآءٌ عَالِيٌّ كَسَى بِرِيكَمٍ لُوثٌ

پڑنا - دھاوا کرنا - هَجْوَةٌ - ناگہانی حملہ - اُردو میں
بکثرت افراد کا ایک جگہ داخل ہونا مراد لیا جاتا ہے -
هَجَا - يَهْجُو هَجْوًا - جو ٹھکانا یا کرنا - ہنسنے کرنا -

مَسْوُونٌ - ایسا حرف جسیہ تنوین پڑھی جائے -

نَبِيَّةٌ حَزْبِيَّةٌ - ارادہ - خواہش - نشاء
ذَانِ يَتَانٌ نَيْلًا - پالینا - حاصل کرنا -

نَيْلٌ - دریائے نیل - نیل کا پودا - نَيْلٌ - بابل
کے قریب ایک شہر کا نام -

نَائِيٌّ بَانَسْرِيٌّ - نَيْسَانٌ - ماہ اپریل -

يَابُ الْهَاءِ

۵ - تین طرح استعمال ہوتی ہے (۱) ضمیر جیسے قَالَ لَكَ
صَاحِبَةٌ وَهُوَ يُحَادِرُكَ - اس کو اس کے دوست نے

کہا جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا - (۲) حرفِ عَيْبَتٍ
جیسے اِيَّاهُ - اس کو (۳) سکتہ کی ہا جیسے هَاهُنَا يَهْ

مَا يَبِيءُ - وہ کیا ہے - وَ اَزِيدَاةً لَمْ يَزِدْ
هَاهُ بِمَعْنَى لَمْ يَزِدْ هَا اِنْ كِتَابٍ - کتاب لے لو - هَا ضَمِيرٌ

مَوْثٌ جِئْتُ ضَرَبْتُهَا - اُس نے اس عورت کو مارا -
كِتَابُهَا - اس عورت کی کتاب -

۱۴ - اتم اشارہ کے پہلے تشبیہ کے لئے جیسے هَذَا هَذَا اَكْ
(یہ) هَا اَنْتُمْ - فرور تم - يَا اَيْتُهَا التَّوَجُّنُ لَمْ اَدْرِ

هَا اَللّٰهُ - خدا کی قسم هَاؤُمْ مَرَوْهَا وَتَقَ (واحد) نم پکڑو
توپکڑے -

هَبْوَةٌ - ہوا کا چلنا - هَبِيئَةٌ - ڈر - خوف - اُزَعْبُ
مُهَيْبٌ - ہیبت ناک -

هَبِطَ يَهْبِطُ هَبْطًا - تھے اُتْرنا (پہاڑے)
مَهْبِطٌ - اُتْر کی جگہ - مَبِطٌ - عرب کے ایک بت کا نام -

هَابِيئٌ - هَبِيلٌ - حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام

ہا ضوہ۔ غذا کو پچانے والی دوا۔ ہگذا۔ اسی طرح۔ ایسا
 هل۔ کیا۔ حرف سوال ہے۔ هلا۔ کیوں نہیں۔ هلالج
 اہلنہ۔ چاند۔ تہیلین۔ لا ایلہ الا اللہ کہنا۔
 هلالج۔ چاند جیسا۔ اشتہلال۔ کسی تقریر یا بیان
 یا کتاب کا ویسا چہ یا ابتدائی حصہ جس سے یہ معلوم ہو جائے
 کہ اس میں کیا بیان کیا جائے گا۔

حیٰ هل و حیٰ هلا علی الصلاۃ۔ آدنماز کے
 لئے جلدی سے آؤ۔ تہلل۔ خوشی کے نعرے لگانا۔
 اہلیلج۔ ہلباہ۔ ہز۔ اہلیندجی۔ ہڑکی شمشاد کا یعنی
 بیناوی۔

هناک یتہنک ہلاک۔ تباہ ہونا۔ ہری طرح مرنے۔
 ہلاکت۔ موت۔ بر بادی۔ تباہی۔ ہالیک مرنے والا۔
 مہیک۔ ہلاک کرنے والا۔ مہینکتہ۔ ہلاک کر نیوالی
 مرض مہلیکات۔ مہلیکتہ۔ مہالیک ہلاکت
 کی جگہ۔ ہلکم ہلیم۔ مٹ گئے۔ ہلکوا۔
 یہاں آؤ۔ آؤ۔ لاؤ۔ دو۔ ہلک جہ۔ اسی طرح آگے۔
 اسی طرح سے وغیرہ وغیرہ۔

ہم۔ وہ تمام لوگ ضمیر جمع مذکر غائب۔
 ہم یتہمہمما و آہم۔ فکر میں ڈالنا۔
 اہتمام۔ کسی بات کے متعلق متفکر ہونا۔ دوڑ دھوپ کے تا
 مہتمم بالشان۔ بہت ضروری معاملہ یا کام۔ آہم
 بہت ضروری۔ بہت قابل توجہ۔ ہمتن ہمتن فکر تیز
 مہد۔ ضروری بات۔ ضروری معاملہ۔

ہمتہج ہمت۔ ہمت۔ طاقت۔ قوت۔
 ہامہج ہوام۔ کھڑا کھڑا۔ آہمیتن۔ ضروری معاملہ
 کا اہم ہونا۔

ہمتات۔ ضروری امور۔ ہمتوہ۔ متفکر
 اہتمام۔ کسی معاملہ کا بندوبست کرنا۔ ہمتہ
 انتظام یا فکر کرنے والا۔ ہمتوہ۔ ہمزہ زء) ہمتوہ
 ح ہما مینز ہمیز۔ آنکس۔ ہمتوہ۔ وہ لفظ ہے
 ہمزہ بطور علامت لگا یا جاوے۔ وہ فعل جس کے سرون اسی
 میں ہمزہ ہو۔ ہمزے والا صیغہ۔ ہمتوہ ح ہمتوات
 وسوسہ۔ ہمتوہ۔ بدگو۔ اہتمام۔ بے توجہ کرنا۔ لاپرواہی
 سے کام لینا۔ ہمتل غیر متصل۔ بے معنی یا بھل لفظ۔
 وہ حرف تیسرے نقطے یا اعراب نہ ہوں۔

ہامان۔ خون کے وزیر کا نام۔ ہمیان۔ روپیہ وغیرہ
 کی ٹیلی۔ ہوا۔ ہما ہون و ہما ہونی۔ بادشاہی
 ہن۔ وہ سب عورتیں۔ ہمز جمع مؤنث غائب۔

ہنخ۔ خوش ذائقہ۔ لذیذ۔ مزیدار۔ ہنیا۔ مریض
 رچتا پچتا۔ خوشگوار۔ تہنیہ۔ مبارک باد۔
 ہند۔ عورت کا نام۔ آلہند۔ ہندوستان۔
 جوز الہند۔ ناریں۔ ہندی ج۔ ہندو ہندی
 ہندو۔ ہند۔ ہندوستان کے فولاد کی تلوار

ہند ستہ ہیمائش۔ تمیر۔ اچھیری۔ ہند الہند
 جیومیٹری۔ اقلیدس۔ اچھیری۔ ہندوستان کے
 اقلیدس دان۔ اچھیری۔ علم ہندوستان کے
 یا جیومیٹری کے متعلق

ہن و ہننا۔ یہاں ذائقہ
 ہنات و ہنات۔ ہاں۔ ہاں۔ ہن و ہن
 مذکر غائب جاندار اور بے جان کے لئے آتی ہوگی وہ ہن
 ہن و ہن۔ ایک پیغمبر علی السلام کا نام

هُودٌ وَيَهُودٌ يَتَّبِعُونَ - یہودی

هُودٌ بَحْرٌ - اونٹن کا پروردگار ہودہ - کجاوہ - هُوَذَا - دیکھو
لے لو - یہ وہ ہے - تَهُودٌ بے باکی - نڈر پن بے دھڑکن
بہادری - مُتَهَوِّدٌ - جو آدمی بے دھڑکے کسی اہم کام میں کود
پڑے - هَوْلٌ - خوف - ڈر - اندیشہ - دہشت -

أَبُو الْهَوَالِ - مصر کے ایک عظیم الشان بُت کا نام جو دنیا کے
عجائبات میں شمار ہوتا ہے -

هَائِلٌ - خوفناک - ڈراؤنا - مہیب - دہشتناک -

رَاهَاتٌ - ذلت - حقارت - بے عزتی - تَهَاوُنٌ - سستی
مہین - ذلیل کرنے والا - هَيِّئْ - آسان - آهْوُنٌ -

بہت سہل و آسان - هَوَى رَجَ آهْوَا - نفسانی خواہش عشق
مجت - هَوَاءٌ رَجَ آهْوِيَّةٌ - ہوا - فضاء -

هَوَاتِيٌّ - ہوا سے تعلق رکھنے والا - هَاوِيَّةٌ - دوزخ -
ہی رَجَ هُنَّ - ضمیر مؤنث غائب - جاندار و بے جان کے لئے

استعمال ہوتی ہے - هَيَّاءٌ - تہیئۃ - تیار کرنا - آمادہ کرنا
تَهَيَّاءٌ - تیار شدہ - درست کیا ہوا -

تَهَيَّئْ - تیار - تہیہ - آمادگی - هَيَّئْ رَجَ هَيَّئَاتٌ
شکل - صورت - عِلْمُ الْهَيَّئَةِ - اجرام سماوی کے حالات کا علم -

هَابٌ يَهَابٌ هَيَّيَّةٌ وَمَهَابَةٌ - ڈرنا - خوف کرنا -
عزت و تعظیم کرنا - هَيَّيَّةٌ - رعب - خوف - ڈر - تعظیم -

مَهِيْبٌ - خوفناک - رعب و اب والا - مَهَابَةٌ - خوف - ڈر - عزت
عظمت - هَيَّجَانٌ - جوش - جذبہ - ولولہ - امنگ -

هَيَّضَةٌ - کالا - اسہال و قے کی مرض -
هَيَّئْ رَجَ هَيَّائِكُنْ - مندر - ڈھانچہ - کافروں کی عبادت گاہ

هَيَّئْ رَجَ كُنْزٌ - ہیبڈلی - بلائیں و صورت کا مادہ -

هَائِمٌ - سرگردان - عاشق - الْمُهَيِّمُ - نگران - محافظ
(خدا) هَيَّهَاتٌ - اسم فعل بمعنی وہ دور ہوا - بیکس قدر
دور ہے - ناممکن ہے - مشکل ہے - کیسے ہو سکتا ہے -

بَابُ الْوَاوِ

وَآوُ كَيْ مَعْنَى هِيَ - حرف عطف بمعنی اور - اور بھی - نیز
جیسے جَاءَ ذَيْدٌ وَعَمْرُوٌ - زید اور عمر آئے -

(۲) وَآوَالِيهِ جِيءَ ذَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِحَةٌ
زید سورج چڑھے آیا بمعنی جبکہ - وَاخَالِيكَ -

(۳) حرف قسم جیسے وَاللَّهِ اَللَّهُ كِي قَم - (۴) مَصَابِحٌ
جیسے مَا لَكَ وَذَيْدًا - تمہیں زید سے کیا کام یا کیا مطلب ہے؟

(۵) حرف سوال کے بعد معنی تو کیا؟ جیسے أَوَعَجِبْتُمْ - تو
کیا تم کو تعجب ہے؟

(۶) دَيْتٌ کے معنوں میں - وَكَيْلٌ كَمَوْجِ الْبَحْرِ - اکثر
راتیں سمندر کی لہر کی طرح -

(۷) زائد بعد لآ جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَهْ طَمَعٌ
أَوْ حَسَدٌ - نہیں کوئی گرا اس کے لئے طمع یا حسد ہے -

وَآ - حرف تاشف بمعنی آہ - آف - لائے - جیسے وَآ
أَسْفَا عَلَى يَوْسُفَ - وَانْحَبَّاهُ - کسی عجیب چیز ہے؟

وَآءٌ - وایا متعدی بیماری - وَبَائِيٌّ - وبلے سے تعلق رکھنے والی
تَوْبِيخٌ - ملامت کرنا - جھڑکنا - وَانْتَابَ - مؤنذ پر ہمت

مخوس کا - وَبَرَّجَ آوْبَارًا - اوان - شیم -
أَهْلُ الْوَيْرِ - خانہ بدوش - آوْبَاشٌ - آوارہ لوگ -

وَبَالٌ - بُرَّانجام - شدت و سختی - مَسِيْبَةٌ -
وَتَدَجٌ آوْتَادٌ - کھڑکی کی میخ یا کھونٹی - علم - عروض میں تین
حرفوں کا مجموعہ -

وَلِيَّ اللَّهِ - قطب - غوث - ابدال - وِثْرٌ - اکیلا - طاق - وِثْرٌ غار
تَوَاتَرٌ - لگانا - مُتَوَاتِرٌ - لگانا آنے والا - مسلسل -
وِثْرٌ وَ وِثْرٌ - وہ خط ہواڑے کے محیط کے ایک نقطے
کو دوسرے نقطے سے ملائے کمان کی تانت -

وَتَبَيَّرَةٌ - طریقہ - ڈھنگ - طرز -

كَبِيلُ الْوَيْثِينَ - دل کی ایک رگ - شاہ رگ -

وَتَقَّ يَثِقُ وَتُقَابٍ كَسِيٍّ بِرَبِّهِ سَهَابٌ أَوْ غَمَامٌ لَرْنَا
ثِقَةٌ ثِقَاتٌ - معتبر - قابل اعتماد - وَثِيقَةٌ - عہدہ

بیمان - پروانہ راہداری - اسٹامپ - وَثِيقٌ - پختہ مضبوط

مِيثَاقٌ مَوَاطِنٌ - عہدہ پیمان - قول و قرار -

مَوْثِقٌ - پختہ کیا ہوا - مضبوط - تَوْثِيقٌ - پختہ کرنا -

وِثَاقٌ - بندش - بیڑی - وَثِيقٌ آوَتَانٌ - بت صنم

مورتی - وَثِنِيٌّ - بت پرست -

وَجَبٌ يَجِبُ وَجُوبًا - ضروری ہونا - لازم ہونا

وَاجِبٌ وَاجِبَاتٌ - فرض - لازمی - ضروری -

مُسْتَوْجِبٌ - ضروری خیال کیا ہوا - لائق جانا ہوا -

وَاجِبُ الْوُجُودِ - جو خود بخود موجود ہو - جو ہمیشہ سے ہو -

اور ہمیشہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ -

رَاجِبٌ - اثبات تسلیم ثبوت - مُوسِبٌ - وجہ -

سبب - علت - باعث - بِمَوْجِبٍ - مطابق موافق

بحسب - مُوجِبَةٌ مُوجِبَاتٌ - کوئی بڑا فعل یا ن

جس سے جنت یا دوزخ واجب ہو جائے -

وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا وَوَجْدَانٌ - پانا - کھویا

ہوا پانا - کسی خاص حالت میں پانا - رَاجِبٌ - پیدا کرنا -

وجود میں لانا - بنانا - پہلے پہل کوئی چیز بنانا - ایجاد کرنا -

وَجِدٌ - خوشی - رقص - یا غم کا جذبہ - وَجْدَانٌ - اندرنی
احساس - ادراک - اِلْقَا - فراست - وَجْدٌ انبیا میں
وہ چیزیں جو دل کی آنکھ سے دیکھی جائیں - وہ باتیں جن کا
احساس صرف دل کرے -

وَجُودٌ - ہستی - موجودگی - وجود - مَوْجُودٌ - وجود

رکھنے والا - پایا ہوا - بلا ہوا - اَلْمَوْجُودَاتُ - وجود رکھنے

والی چیزیں - مخلوقات - رَاجِبَاتٌ - نئی دریافت شدہ

چیزیں - ریڈیو - بجلی وغیرہ -

وَجُودٌ - دوائی جو منہ میں ڈالی جائے - جُودٌ - جُودٌ

وَجَزِيحَةٌ رَاجِبَةٌ - گفتگو فخر کرنا -

رَاجِبَةٌ - مختصر کلام - اختصار مختصر ہونا - بِالرَّاجِبِ

خلاصہ کے طور پر - مَوْجِبٌ - مختصر کلام اور جہزی میں سمجھا

جانے والا -

وَجَعٌ يَجْعُ وَجَعًا - درو محسوس کرنا - وَجَعٌ

أَوْ جَاعٌ - درو دکھ - بیماری - مَوْجِعٌ - دردناک - دردت کھانا

وَجْهٌ يُوْجَهُ وَجَاهَةٌ - رعب و اب والا ہونا معزز ہونا -

وجہ ہونا - وَجْهٌ وَجُوهٌ - منہ - چہرہ - بشرہ -

تَوَجَّهٌ - کسی طرف منہ کرنا - مَوَاجِهَةٌ - ایک دوسرے

کی طرف منہ کرنا - دُوبٌ وَوَبٌ - تَوَجَّهٌ - تَوَجَّهٌ

جِهَةٌ جِهَاتٌ - مثلاً اکبر - بائیں طرف -

وَبَاهَةٌ - رعب و اب و قار - وَجِيهَةٌ - مہرز - باوقار -

مَتَوَجِّهٌ - کسی طرف رخ کرنا والا - مَوْجِبٌ - تمیز ایساں

اَوْجَانٌ - پوہا -

وَحْدٌ - يَحْدُ وَحْدَةً - اکیلا ہونا تنہا ہونا بچنا ہونا

الک فتلک ہونا وَحْدٌ - کلامی - پہنچانی -

وَدَقُّ نَجْدًا وَادَانِيٌّ - پتہ کتاب کا ورق۔ کاغذ کا ورقہ۔
وَدَانِيٌّ - کاغذ ساز۔ وَرِكَةٌ - چوڑا۔ کونہا۔ سرین۔ وَدَلٌّ - نسا
وَدِيمٌ بَرِيمٌ وَدَمًا وَتَوَدَّمٌ - سوچنا۔ پھولنا۔ وَدَمْرَجٌ
أَوْدَامٌ - آماس۔ گلٹی۔ پھوڑا۔ ورم۔ سوچن۔ تَوَدَّمٌ سُوْحٌ جَانَا
مَتَوَدَّمٌ سُوْحًا هُوَا۔

رِيَّةٌ - پھیپڑا۔ شَشٌ - ذَاتُ الرِّئِيَّةِ - نوبیا
تَوَدِيَّةٌ - اخفا۔ پوشیدگی۔ ایسا لفظ بولنا جس کے معنی
مفہوم ہوں۔ تَوَدَاتٌ - تودیت شریف۔

مَتَوَادِيٌّ - چھپ جانے والا۔ وَرَاءُ الْوَرْدِ آءٌ - جواز مخفی
اور چھپا ہوا ہو۔ سَبِيْدُ الْوَرْدِي - مخلوق کا سردار۔

وَدٌّ - مرغابی۔ جَنْجَلِيٌّ بَطْحٌ - جل مرغی۔ مِيْزَابٌ - پرنا۔

وَدْرٌ كَيْزٌ وَدْرًا - بوجھ لے جانے والا۔ دِرْدِرٌ
أَوْدَارٌ - ہتھیار۔ آلہ۔ گناہ۔ فسور۔ بوجھ۔ وَدِيْرٌ
وَدْرًا آءٌ - بوجھ اٹھانے والا۔ وَدَارَةٌ - وزیر کا عہدہ۔

وَدْنٌ بِيْرٌ وَدْنًا - تولنا۔ وزن کرنا۔ مِيْزَانٌ - ترازو
کانٹا۔ شعر کا وزن۔ مَوْدُوْنٌ - تولنا ہوا۔ وزن کیا ہوا۔

مَوْدُوْنٌ - مَوْدَانَةٌ - برابری مساوات۔ مقابلہ۔

وَدْنٌ آوْدَانٌ - پورا تول۔ ناپ۔ مَتَوَادِيٌّ - برابر۔ مجاز
یا کیر۔ وَسَخٌ آوْسَاخٌ - میل کچیل۔ گندگی۔ مبدین

وَسَارَةٌ - تکیہ۔ گدسی۔ مند۔ وَسَطٌ آوْسَاطٌ - درمیان
معتدل۔ بچ کا۔ مَتَوَسِّطٌ - درمیانی۔ بچ۔ وَاسِطَةٌ - بچ

وَسَائِعٌ - ذریعہ۔ وسیلہ۔ سبب۔ وَسَاطَةٌ - داخلہ۔

درمیان میں پڑنا۔ وسیلہ بننا۔ تَوَسَّطٌ - ثالث بننا۔ بچ
میں پڑنا۔ بَخْرٌ الْمَتَوَسِّطُ - بحر روم

وَسِيْعٌ يَسِيْعٌ سَعَةً - سامینا۔ گنجائش رکھنا۔

سَعَةٌ وَشَعْرَةٌ - فراخی۔ وسعت۔ پھیلاؤ۔ گنجائش
اِتِّسَاعٌ - کشادگی۔ درازی۔

اَلْوَاْسِعُ - وہ ذات جس کا رحم سب کو گھیرے ہوئے ہو
جسکی عنایت سب کے شامل حال ہے یعنی خدا تعالیٰ و نبارک
تَوَسِيْعٌ - وسعت دینا۔ اِذَا السَّعَةِ - وسعت والا
محلہ۔ مَوَسِيْعٌ - دولت مند۔

وَسَلٌ يَسِيْلٌ وَسِيْلَةٌ - تَوَسَّلُ اِلَى اللّٰهِ - کسی
نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب چاہنا۔ وَسِيْلَةٌ - وسائل
قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تَوَسَّلٌ - وسیلہ۔ درخواست
النماس۔

وَسِيْمٌ يَسِيْمٌ وَشِمَا - نشاندار کرنا۔ وَسِيْدٌ
حسین۔ جمیل۔ خوبصورت۔ سجدہ۔ وَشَمَةٌ - نیل کے پتے
مَوَسُوْمٌ - نشان لگایا ہوا۔ اَوَسَّحٌ - چہرہ دیکھ کر بھائی
معلوم کر لینا۔ مَوَسِيْرٌ - مَوَاْسِيْرٌ - حج کا زمانہ۔
جشن۔ تہوار۔ عام مجمع۔

وَسَاوَسٌ يُوَسُوْسٌ وَشَوَسَةٌ - وَشَوَاْسًا
لِ وَاِلَى كَسِيٍّ كُوْرَعْلَانَا كَسِيٍّ كُوْبُرِيٍّ رَايَةً وَاِلَى شَوَاْسَةٍ

وَسْرَاْسٌ وَسَاوِسٌ - شیرخان کے دروازے پر
خیالات۔ فاسد خیال۔ اَلْوَسْرَاْسُ - شیرخان

وَشَوَسَةٌ - سودا۔ مَوَسِيْرٌ - مَوَسِيْرٌ وَشَوَسَةٌ - سزا
مَوَسِيْرٌ - حالت موی علیہ السلام جن پر تواریت شریف

نازل ہوئی تھی۔ مَوَسِيْرٌ - مَوَسِيْرٌ - مَوَسِيْرٌ
کھنے والا۔ یہودی۔ تَوَاْسَاتٌ - اسلی دینا۔ وَاِسَاخٌ - مار

تَوَشِيَاخٌ - مار پھینانا۔ اسطلاح میں ناس شہم کے اشعار کہنا
وَصَفٌ يَصِيْفٌ وَصْفًا - وَسِيْفَةٌ - بیان کرنا۔ حال
بتلانا۔ مَدْحٌ - بیان کرنا۔

بتلانا۔ مَدْحٌ - بیان کرنا۔

مَتَّوِّظَفٌ - عمدہ دار۔ آفیسر۔ وظائِفُ الْأَعْضَاءِ
اعضار کے اعمال۔ علم الاعضا۔ فزیالوجی۔

وَعَيْبٌ يَعِيبُ - وَعَيْبًا وَاشْتَوَعِبَ - کوئی چیز کل کی
کل لے لینا۔ یا لاشتیعاب۔ مکمل طور پر۔ کامل طور پر۔ پورا
کا پورا۔

وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا وَعِدَةً وَمَوْعِدًا - کسی سے قول
واقرار کرنا۔ بچن کرنا۔ آوَعَدَ إِيعَادًا - ڈرانا۔ دھمکانا۔
تہدید کرنا۔ عِدَّةٌ وَعِدَّةٌ - قول۔ بچن۔ وَعَيْدٌ - دھکی۔
تخویف۔ عذاب کا وعدہ۔ مِيعَادٌ مَوْاعِيدٌ - وعدہ کو پورا
کرنے کا وقت یا مقام۔ مَوْعُودٌ وہ شخص یا چیز جس کا وعدہ
دیاجائے۔ مَوْعُودَةٌ - وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

وَعَظٌ يَعِظُ وَعِظًا وَعِظَةٌ - نصیحت کرنا۔ نیکی کی ترغیب
دینا۔ بھلائی کرنے کو کہنا۔ وَعِظٌ وَعِظَةٌ - مَوْعِظَةٌ
مَوْاعِظٌ - پند۔ نصیحت۔ نیکی کی ترغیب۔ وَاعِظُجُ وَاعِظَةٌ
وَاعِظُونَ وَاعِظِينَ - لوگوں کو بھلائی کی تحریک کرنے والا
وَعِظًا - مذہبی پچرا۔

وَعَاءٌ جِ آوَعِيَةٌ - برتن ظرف۔ باسن۔ تَوَعَّلٌ - علم میں
گہرا جانا۔ علم میں تبحر حاصل کرنا۔

وَقَدَّ يَفِدُّ وَقَدًّا وَوَقُودًا إِلَى سَفِيرًا نَائِبًا بِنِ كَر
کسی بادشاہ کے دربار میں جانا۔ وَقُدُّجٌ وَوُقُودٌ - نمائندوں کا
گروہ۔ سفارت۔ ایچی۔ سفیر۔ وَافِرٌ - زائد۔ بکثرت
وُقُودٌ - بڑھا۔ زیادہ ہونا۔ بکثرت ہونا۔ بڑی مقدار۔ کمال۔
أَوْقَدٌ - بہت زیادہ۔ مَوْقُودٌ - پورا پورا۔

وَقَفٌّ يَقِفُّ وَقَفًّا - موافق پانا۔ تَوْفِيقٌ - کامیابی۔
اقبال مندی۔ توفیق الہی۔ اِتِّفَاقٌ - کسی بات پر راضی ہونا۔

مَوَافَقَةٌ - مطابق ہونا۔ منشا کے موافق ہونا۔ مطابقت
مناسبت۔ تَوَافُقٌ - مطابقت۔ موافقت۔ مُتَّفِقٌ
کسی بات پر راضی ہونے والا۔ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ - جبر اتفاق ہو
گیا ہو۔ وَفَّقٌ - مطابق۔ مناسب۔ ٹھیک طور پر۔ اِتِّفَاقٌ
اتفاقہ۔ ناگہانی۔ اچانک۔ عارضی۔ مُوَافِقٌ - مناسب حسب حال
ٹھیک۔ آرام دہ۔ مُوَافِقٌ - جس کو توفیق دی گئی ہو۔

وَفَى يَفِي وَفَاءً وَآوَى يُوْفِي إِيفَاءً وَبِ كَسِي كَا
اپنے وعدہ کو پورا کرنا۔ اپنے قول و اقرار پر قائم رہنا۔ وعدہ وفا
کرنا۔ قرضہ ادا کرنا۔ عہد و پیمانہ پورا کرنا۔

وَفَى يُوْفِي تَوْفِيَةً وَوَأَى وَآوَى حَقَّةً كَسِي كَا
حق پورا پورا ادا کر دینا۔ تَوْفَاءُ اللَّهُ - خدا تعالیٰ نے اس کو
ماردیا۔ اللہ پاک نے اُسکی رُوح قبض کر لی۔

وَفَاءٌ وَرِيفَاءٌ - وعدہ وفائی۔ ایفائے عہد۔ وَفَاتٌ جِ
وَفِيَاتٌ موت۔ وفات تُوْفِيٌّ - مرنا۔ تُوْفِيٌّ - تُوْفِيٌّ مارنا رُوح قبض کرنا
تُوْفِيًّا وَوَفَاتًا - مرنا۔ رُوح قبض ہونا۔ اے جس و حرکت ہو جانا
مُتَوَفِّيٌّ - وفات دینے والا۔ مُتَوَفِّيٌّ - وفات یافتہ۔

مُتَوَفِّيَةٌ - اِشْتِيْقَاءٌ - پوری مقدار میں اپنا حق لے لینا
وَإِنِّي - بکثرت۔ وَقَّتْ - وقت مقرر کرنا۔ وَقَّتْ جِ أَوْقَدٌ
وقت۔ مدت۔ ميعاد۔ وَقَّتِيٌّ - وقتی۔

مَوْقِفٌ کسی ناص وقت۔ مَوْقِفٌ کسی ناص وقت۔ مَوْقِفٌ کسی ناص وقت
مِيفَاتٌ مَوْاقِفَاتٌ - مقرر کیا ہوا وقت کسی کام کا وقت
یاجد۔ وَقَا حَةٌ - گستاخی بے شرمی بے حیائی۔ شوخ جہمی
وَقَادٌ - تیز روشن دل عقلمند۔ نیز طبع۔ طبع رسا رکھنے والا

وَقَادٌ بردبار ہونا۔ معزز ہونا۔ تَوْقِيرٌ عِزَّتٌ کرنا۔ عظمت
کرنا۔ وقعت کرنا۔ مَوْقِرٌ - صادر عِزَّتٌ و عظمت معزز و مَعظَمٌ

وَقَعَّ يَقَعُّ وَقُوعًا - گر پڑنا۔ وَقَعُّ وَقُوعٌ - واقع ہونا۔ اتفاق۔ وَقَعَةٌ - پوٹ۔ احساس۔ عَزَّ وَقَعٌ مَثْ وَأَقْعَةٌ وَأَقْعَاتٌ - حادثہ۔ واقع ہونا۔ واقع ہونے والا۔ برباہ ہونے والا۔ بلا۔ آفت۔ مصیبت۔ وَقِيعٌ - وقعت و حُرْمَتٌ وَاللَّ - وَقِيعَةٌ وَقَائِعٌ - خاص واقعہ۔ تَوَقُّعٌ - اُمید۔ اَس - تَوَفِّيحٌ - کسی تحریر پر دستخط۔ فرمانِ حکم۔

مَوْقِعٌ مَوَاقِعٌ - وہ جگہ جہاں پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ وَقُوعٌ - فِي الْمَوَاقِعِ - دراصل۔ درحقیقت۔ واقعی طور پر۔ وَقَفَّ يَقِفُّ وَقْفًا وَوُقُوفًا - کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا۔ رُكَّ جَانًا - تھم جانا۔ تَوَقُّفٌ - پس وپیش کرنا۔ ہچکچانا۔ وَقْفٌ فِي أَوْقَاتٍ - وہ چیز یا روپیہ جو مذہبی یا دینی کاموں کے لئے مخصوص کر دی جائے۔ وَأَقْفَانِ وَأَقْفَانِيْنِ دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والا۔ کھڑا ہونے والا۔

(اردو آشنا دوست)

وَقُوفٌ سَكُونٌ - مَوْقِفٌ مَوَاقِفٌ - کھڑے کی جگہ کھڑا ہونے کا مقام۔ قِيَامٌ - مَوْقُوفٌ - کسی پر منحصر۔ وہ جس کا دار و مدار دوسرے پر ہو۔ بَوَقْرٌ الْوَقْفَةُ - حج کا دن۔ وَأَقْفٌ عَلَى مَطْلَعِ بَاشِيرٍ

وَقِي يَقِي وَقِيَةً - حفاظت کرنا۔ نگرانی کرنا۔ نگاہ رکھنا۔ بچانا۔ اِنْفِي يَنْفِي تَنْفِيَةً - اِنْفِي يَنْفِي تَنْفِيَةً - خدا کا خوف کرنا۔ پرہیزگار ہونا۔ تَقِيٌّ وَتَقِيَّةٌ - خوفِ خدا گناہوں سے پرہیز۔ تَقِيَّةٌ آتَقِيَاءٌ - نیک پرہیزگار۔ خدا سے ڈرنے والا۔ مَشْرِئِيْنِ - خدا سے ڈرنے والا۔ تقویٰ شناس۔

مَتَكَاؤُنِي يَمْتَكِي مَتَكِيَةً - کسی پر ہانپنا۔ لگانے والا۔ تَوَكُّبٌ مَوَاقِبٌ - بھوس۔ شاہی سواری۔ رسالے یا

فوج کا جلوس کی حالت میں نکلنا۔ سواری کا آہستہ آہستہ چلنا۔ اَكَّدَ وَوَكَّدَ وَآوَكَّدَ تَأَكِيدًا - پختہ کرنا۔ پکا بانڈھنا۔ تَوَكُّيْدٌ وَتَأَكِيدٌ - استحکام۔ مضبوطی۔ پختگی۔ تَأَكِيدُ - کسی لفظ یا خیال کا تکرار۔ بِالتَّأَكِيدِ - یقینی طور پر۔ مَوَكَّدٌ مَثْ مَوَكَّدَةٌ - سخت پختہ کیا ہوا۔ دھکم مضبوط۔ وہ جس کے ہونے میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ اَكِيدٌ - اَسْتَوَارٌ - یقینی۔ پختہ۔

وَكَلَّ يَكِلُّ وَكَلًّا اِلَىٰ - کسی پر بھروسہ کرنا۔ معاملہ کسی کے سپرد کرنا۔ تَوَكَّلْ - کسی پر بھروسہ کرنا۔ اپنے آپ کو کسی والہ کرنا۔ وَكَالَةٌ وَكَالَاتٌ - نمائندگی۔ وکالت۔ بھنی قائم مقامی۔ اِتِّكَالٌ - بھروسہ۔ اعتبار۔ وَكَيْلٌ وَوَكَاةٌ - منتظم۔ منصرم۔ ہنتم۔ وکیل۔ کارساز۔ مَتَوَكَّلٌ - اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ مَوَكَّلٌ - وکیل بنانے والا۔ وَكَلَاتٌ - بھروسہ۔ اعتبار۔ تَوَكَّلْ - تَوَكَّلْ - سپردگی۔ نیابت۔ مَوَازِعٌ - دروازہ۔ داخل ہونے کی جگہ۔

وَلَدَ يَلِدُ وَوَلَادَةٌ وَتَمْوِيْدٌ - بچہ پیدا کرنا۔ بچہ بننا۔ بچہ دینا۔ وَوَلَدٌ وَوَلَادَةٌ - بچہ۔ لڑکا۔ تَوَلَّدَ - بچہ پیدا ہونا۔ تَوَالِدٌ - پیدائش سے تعداد میں بڑھنا۔ نَسَبٌ - پھیلنا۔ وَوَلَادَةٌ - پیدائش۔ بچہ پیدا ہونے کی حالت۔

عِلْمُ الْوَالِدَةِ - دایہ گری۔ وائی بنانی کہ فن۔ وَالِدٌ - باپ۔ پدھر۔ وَالِدَةٌ - وَالِدَاتٌ - ماں۔ وَالِدَةٌ - اَلْوَالِدَاتُ - ماں باپ۔ وَوَلَدٌ وَوَلَدَةٌ - اولاد لڑکا۔ تَوَلَّدَ - پیدا کرنا۔ مَوْلِدٌ مَوَالِدٌ - پیدائش کی جگہ یا وقت۔ مِيْلَادٌ - ساگرہ کا دن۔ مَوْلِدٌ - جو عربی باپ اور غیر قوم کی ماں کی نسل سے ہو۔

مُعْرَبٌ لَفْظٌ - مَوْلِدَةٌ - دایہ۔ دانی۔ مَوْلُودٌ مَوَالِدٌ - بنا ہوا۔ اَلْمَوَالِدُ الشَّلَاةُ - جمادات۔ نباتات۔ حیوانات

لائے ہیں قیمت فی کتاب صرف تین روپیہ ہے۔ جو روپیہ کی قیمت گر جانے کے باعث بارہ آنہ کے برابر ہے۔ اس کتاب کو صد ہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد کتابت، طباعت اور کاغذ وغیرہ کے چار چار پانچ پانچ گنا اخراجات کر کے چھپوایا گیا ہے۔ کاغذ اس سے بہتر نہ مل سکتا اور نہ ہی حکومت پاکستان کتابی کاغذ پر رسالے اور اخبارات چھپوانے کی اجازت ہے اور موجودہ کاغذ بھی از حد گراں قیمت پر بہت دقت اور پریشانی کے بعد نیا پھرتا ہے۔ ان تمام مشکلات کو عبور کر کے یہ علمی تحفہ آپ کے ہاتھوں تک پایا جاتا ہے جس کی قدر کرنا آپ کا اسلامی فرض ہے اور جس سے بہرہ اندوز کتاب آپ کا اپنا کام ہے۔ والسلام۔

لغات القرآن المحمید بطرز جدید

الموسوم بہ

تہییل القرآن المحمید

اردو زبان میں قرآن کریم کی لغات کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے جو آج تک دنیا کی کسی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب میں قرآن کریم کے ہر ایک مادہ - ماخذ اور روت لفظ مفرد کے سبب اشتقات اور تمام صیغے ایک ہی جگہ بمعنی معانی لکھ دیئے گئے ہیں اور ہاں پر کسی لفظ کے معنی بدلے ہیں۔ اُسے بمعہ حوالہ سورت و آیت درج کر دیا ہے مثلاً کَتَبَ - اُس نے لکھا۔ اُس نے فرض کیا۔ اُس نے فیصلہ کیا۔ اُس نے لازم کیا کَتَبَ عَلٰی سِدِّهِ الرَّحْمَةَ (انعام آیت ۱۲) اُس نے واجب کر لیا رحمت کرنا اپنے آپ پر (۳) کَتَبَتْ اُس نے ایک نوٹ لکھا (۳) کَتَبَتْ تو نے فرض کیا یا واجب کیا (۴) کَتَبْنَا ہم نے فرض کیا یا واجب یا لازم کیا (۵) یَكْتُبُ (۶) یَكْتُبُ وہ لکھتا ہے لکھے گا یا لکھے (۷) یَكْتُبُونَ وہ لکھیں گے (۸) تَكْتُبُونَ تم لکھو گے۔ اُن کے آنے سے ن گرجائے تو تَكْتُبُوا رہنے گا۔ یہ کہ تم لکھو (۹) اَكْتُبُ میں لکھوں گا (۱۰) نَكْتُبُ ہم لکھیں گے۔ ہم محفوظ کریں گے (۱۱) اَكْتُبْ تو ایک مرد لکھ (۱۲) اَكْتُبُوا تم سب لکھو (۱۳) كُتِبَ فرض کیا گیا۔ لکھا گیا

یاد رہے کہ یہ کتاب ایک ماہوار سالہ کے اندر بالاقساط طبع ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے سبب سے اس کتاب کے اسباق بھی پورے پانچ سو صفحات پر شایع ہو چکے ہیں ہدیہ پانچ روپیہ

(۱۲) تکتب لکھی جائے گی (۱۵) اکتتب اس نے لکھ رکھا ہے (نام یا کتاب) (۱۶) کاتیبو لکھ دو یا مکاتبت کرو یعنی مقررہ مال لے کر آنا دو کرو۔ مکاتب وہ غلام جس سے مالک کچھ مال لینے کے بعد آزاد کرے (۱۷) لا تکتبوا مت لکھو تم (۱۸) کاتیب لکھنے والا (۱۹) کاتیبون۔ کاتیبین لکھنے والے۔ (۲۰) کتاب لکھی ہوئی چیز فیصلہ شدت آسان کتاب۔ فرض۔ حکم۔ قدر۔ تقدیر۔ جمع۔ (۲۱) کتب کتابیں (۲۲) مکتوب لکھا ہوا قرآن کریم میں کتب کے ماخذ یا مادہ سے یہ بائیس صیغے آئے ہیں۔ جو مجموعہ معانی کے ایک جگہ لکھ دیئے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے دستس ہزار الفاظ کے ایک ایک دو دو تین تین یا متعدد معانی پندرہ سو مادوں اور ماخذوں کے ماتحت تحریر کر دیئے ہیں۔ لغات کے شروع میں صرف و نحو کے آسان قواعد اور مادہ اور ماخذ معلوم کرنے کے طریقہ ذکر ہیں الغرض یہ کتاب دنیا میں ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کی خوبیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جلد اپنا آرڈر تک کرائیں یہ پانچ روپیہ

جدید عربی بول چال بزبان اردو

خزائن العربیہ

اس عربی بول چال میں یہ خاص خوبی ہے کہ اس کے مطالعہ سے ہر اردو پڑھا ہوا مسلمان استاد کی مدد کے بغیر عربی میں گفتگو کرنا سیکھ لیتا ہے نیز تلخیص العربیہ اور خزائن العربیہ ہر دو کی مدد سے تمام آسان عربی کتابیں لیتا اور سمجھ سکتا ہے اور دوسری جماعت کے عربی نصاب کو کسی مولوی فاضل پاس معلم کے بغیر خود بخود حل کر سکتا ہے نیز قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے میں بھی یہ دونوں کتابیں بہترین استاد کا قائم مقام ہیں اگر ان ہر دو کے ساتھ آپ اسباق القرآن اور کلید ترجمہ قرآن مجید نامی دونوں کتابیں بھی منگوائیں تو آپ عربی پڑھانے کا چھوٹا سا مدرسہ بھی جاری کر سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ

یہ ہے۔ اسباق القرآن ص ۷۲) کلید ترجمہ قرآن مجید یعنی سارے قرآن پاک کی لغات (۳) خزائن العربیہ عربی بول چال ص ۲۴) تلخیص العربیہ یا غلامۃ اللجج اردو سے۔ چاروں کتابیں مع محصول ڈاک باہر دہلی میں منگوانا

المستأجر حکیم محمد عبداللطیف شاہد منشی فاضل یوپی فاضل آنرزاں پنجابی۔ مین بازار گوالمنڈی ۳۱

حکیم محمد عبداللطیف شاہد نے استقلال پریس ہسپتال روڈ میں چھپوا کر گوالمنڈی ۳۱ سے شائع کیا